

أَسَانُ
لُغَاتُ الْقُرْآنِ

LUGHAAAT-UL-QURAN
By
ABDUL KARIM PAREKH

Price Rs. 50/-

الحاج مولانا عبدالکریم پارکھ
لکھنؤ ناگپور ۵ (انڈیا)
مارچ ۱۹۵۲ء
۱۹۹۵ء
۵۰ روپے
عقیف پرنٹرس لال کنواں دہلی ۷

مؤلف

پہلا ایڈیشن تاریخ اشاعت
نیا ایڈیشن
قیمت
مطبع

ISBN 81 - 85360 - 23 - 5

ملنے کے پتے

- ۱۔ الحاج مولانا عبدالکریم پارکھ لکھنؤ ناگپور ۵ (انڈیا)
- ۲۔ حنیف بک ڈپو مومن پورہ ناگ پور ۱
- ۳۔ مکتبہ ندوۃ العلماء رندوہ - لکھنؤ
- ۴۔ تاج آفس محمد علی روڈ بمبئی ۲
- ۵۔ محمود اینڈ کمپنی ۹ میونسپل کوارٹرس مرول پاتپ لائن - بمبئی - ۵۹

آسان لغات القرآن

تلاوت کی ترتیب سے

عربی، اردو

مؤلف

الحاج مولانا عبدالکریم پارکھ صاحب
مظاہر الغائی

ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس

۳۱۰۸ گلی ۶۰۲ الدین ویل کوپہ پبلسٹ لال کنواں دہلی ۷

اُن کی کتاب ”لغات القرآن“ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جسے انہوں نے قرآن کو توام و خواص تک پہنچانے اور اس سے استفادہ کو آسان بنانے کے لیے لکھا تھا۔ اسکی مقبولیت کا کچھ اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ۲۰۰۱۵ سال کے عرصہ میں اس کے تقریباً ایک درجن ایڈیشن بڑی تعداد میں نکل گئے۔ انہوں نے مستند اُردو تراجم کو سامنے رکھ کر ہر ایسے کے مشکل الفاظ کا ترجمہ موقع محل کے لحاظ سے کر دیا ہے۔ افعال کے سامنے ان کے حروف اصلی بھی لکھ دیتے ہیں اور انگریزی داں طبقہ کی سہولت کے لیے کہیں کہیں الفاظ کے انگریزی معانی بھی دے دیتے ہیں اور کتاب کے شروع میں مخفف طور پر نحوی قواعد بقدر ضرورت آگئے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب قرآن مجید کی کلید اور ”گائیڈ بک“ بن گئی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مہر و فیات کے سبب کتاب پر حسبہ جستہ نظر ہی ڈالنے کا موقع مل سکا۔ اللہ تعالیٰ توفیق کو جزائے خیر دے اور کتاب کی افادیت و مقبولیت میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین

(حضرت مولانا) سید ابوالحسن علی ندوی

ناظم
ذکر و تہ العلماء لکھنؤ

عالم اسلام کے مشہور مفکر

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی کا ارشادِ گرامی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد! قرآن مجید آخری آسمانی کتاب اور انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے اور اس لحاظ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانی نسلوں کی اخروی سعادت و نجات اور دنیاوی صلاح و فلاح اسی سے متعلق و وابستہ ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ تمام انسانوں کی دینی و دنیوی کامیابی اور انسانیت کی تقدیر اس عظیم کتاب سے وابستہ و منسلک ہے۔ اس لیے اس کی شرح و تفسیر، اس کے معانی و مطالب کا افہام و تفہیم اور اس کے ابدی پیغام کی طرف دعوت اور اس کی تبلیغ ایک دائمی ضرورت ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جن سے قرآن کریم کی کوئی خدمت لے لی جائے اور اس خدمت کو دنیا میں بھی قبول عام حاصل ہو جائے، اور قرآن کے پڑھنے والے اس سے مستفید ہوں اور قرآن نہیں میں انہیں آسانی حاصل ہو۔

قرآن کے خدمت گزاروں میں ایک نام مجی الحاج عبدالکریم صاحب پارکھ کا بھی ہے جن کو لوگ ان کی طویل خدمات کے سبب ایک مبلغ اسلام اور اہل قرآن کی حیثیت سے عرصہ سے جانتے اور ان کی تقریروں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ناگور کے علاقہ میں ان کے درس قرآن نے مسلم نوجوانوں اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت متاثر کیا اور ان میں دین کا شوق اور قرآن کا ذوق پیدا کر دیا۔ اور وہ اپنی تجسارتی مہر و فیتوں کے ساتھ ساتھ اب بھی یہ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔



نقشِ اولِ تانِشِ ثانی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * وَاَنْزَلَ عَلٰى عَبْدٍ كِتٰبًا عَجَبًا اٰ
فِيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حِكْمَةٌ وَّنَبَا وَاَصَلُوْهُ وَاَسْلَمُوْهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَشْرٰفًا لِّخَلْقَتِهِمْ اَوْ عَدْبًا

اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ زمانہ حال میں مسلمانوں کے بہت سے طبقہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ الحمد للہ کہ ان لوگوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ ان حضرات کی سہولت کے پیش نظر اچھے ”آسان لغات قرآن“ کے نام سے ایک مجموعہ قرآنی الفاظ کا تلاوت کی ترتیب پر جمع کر کے مارچ ۱۹۵۵ء میں شائع کیا گیا تھا۔ ربّ اکبر کا فضل و احسان ہی تھا کہ یہ مجموعہ مقبول ہوا۔

پہلا ایڈیشن ختم ہوتے ہی دوسرے ایڈیشن کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی دوران میں جو مخلص دوست اس کتاب سے فائدہ اٹھا چکے تھے اور ہندو پاک کے بعض دینی رسائل جو اس کتاب پر ناقدانہ تبصرہ کر چکے تھے اور بعض علماء کرام کے مولوں اور تجربات جو اب تک آچکے تھے ان سب مفید اور مخلصانہ اصلاحی اشارات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا ایڈیشن ۱۹۵۶ء میں نظر ثانی کے بعد تیار کیا گیا۔ پہلے ایڈیشن میں بہت سے الفاظ جو عام طور پر اچھے اردو داں لوگ جانتے ہیں، انھیں چھوڑ دیا گیا تھا مثلاً عَوْرَةٌ، قَمِيصٌ، حِجَابٌ، بَرِيَاذَةٌ، اِحْسَانٌ، حُسْنٌ، عَجِيْبٌ، وَالِدٌ، كَطَاعَةٌ، اِمْسَاكٌ وغیرہ۔ اسی طرح بَعَثْتُ، اَسْتَبَايَ، غَالِبٌ، وَالِدِيْنَ تَادِيْلٌ جیسے الفاظ بھی زائد مان کر چھوڑ دے گئے تھے کہ اردو زبان میں یہ الفاظ روزمرہ استعمال

میں آتے ہیں۔ لیکن علماء کرام کے مشورے سے اس ایڈیشن میں اصلاح کرنی گئی اور تقریباً تمام الفاظ کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ مجموعہ الفاظ بھی قرآن کے نازل کرنے والے نے عوام میں مقبول کر دیا اور دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ

اللہ تعالیٰ کی بے پاریاں رحمت کے صدمے اب یہ تجربہ حاصل ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کاروباری، تاجر پیشہ، کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ خواتین کا ایک ٹھوس طبقہ اور مرد و پیشہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ کالج کے طلبہ اور دینی مدارس کے فاضلین تک کتاب اللہ کی تلاوت سخت تیراوتہ سے مستفیض ہوتے، اور یہ سب نہایت ہی نرم وقت میں سہل لکھوں کے طریق پر عربی کے گرامر کے بعد قرآن پاک کے لفظی معنی یاد کر کے ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ نماز اور تراویح و تلاوت میں لوگوں کی دلچسپی بھی بہت سے علاقوں میں بڑھنے لگی کہ نماز اور تلاوت میں جو کچھ کلام پاک پڑھا جائے اسے اگر کسی درجہ میں سمجھا جائے تو عبادت کا لطف کچھ اور سی اُٹنے لگتا ہے۔ پھر اس کتاب کے ذریعہ الحمد للہ ایک خاص طبقہ وجود میں آیا جو مختلف مسلک کے لوگوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود عقائد میں بُدنیان مَصْصُوْعُ بن کر قرآن مجید کی مرکزی دعوت و توحید و رسالت، حشر و حساب اور جنت و دوزخ کا پختہ یقین لے کر داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے باہم مربوط ہونے لگا۔ جو آگے چلکر ”مَجْلِسِ تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ“ بن کر اللہ کی کتاب کی خدمت انجام دینے میں خالص رضائے الہی کے کام میں جُٹ گیا۔ اور بہنوں بھائیوں کا ایک سیل رواں قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ گیا۔ نیز فرقہ واریت، گروہی عصبیت، شرک بدعات اور رسمی دین داری کے بالمقابل توحید، حب اللہ، حقیقی دین داری، وحدتِ اُمت، صاحب قرآن سٹیڈنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اطاعت کی صفات، تقویٰ اخلاقیات، الہی، خوفِ یوم الحساب، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور عام انسانوں کی بھلائی کے کام کے لیے ایک گروہ علم اور عمل کی دادی میں لگ گیا۔

احقر کے ناقص خیال میں یہ بات تجربہ کے بعد بیٹھی گئی کہ بہت سے مخلص دوست بھائی اور بہنیں جو مہینوں گرامر کے تمام اصول جان لینے کے چکر میں رہے اور جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس لیے طالب علم کو دائمی تشکیش میں ڈالے بغیر 1994ء کے تیسرے ایڈیشن میں عربی کے نو سبق بھی تیار کیے گئے۔ اور ان اسباق میں پوری کوشش کی گئی کہ دماغی الجھن کے بغیر فطرت کے طریقہ تعلیم پر الفاظ کی ڈھلانی کا طریقہ بنا کر سادہ ڈھنگ پر گرامر کے چند اصولوں کو شامل کیا جائے اور اب الحمد للہ یہ کتاب بڑی حد تک لوگوں کو تعلیم القرآن سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی رہی اور مسلسل 19 سال تک اس کے نو ایڈیشن اشاعت ہوئے۔ یہ محض قرآن کے چھٹے والے اور نازل کرنے والے کے فضل و کرم سے ہوا اور سارا کراڈیٹ CREDIT اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کا اللہ کے رسول کے لیے ہی مخصوص ہے ہم مصلیوں خاطر سے جو کچھ ہو جائے وہ ہماری کسی فضیلت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی کہنا چاہیے۔

یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر بچہ ابتدا میں صرف دعو اور گرامر نہیں سیکھتا بلکہ الفاظ بولتا اور یاد کرتے جاتا ہے۔ پھر ماقول سے الفاظ کو لیتا ہے یہاں تک کہ الفاظ کی ڈھلانی کا علم بھی اسے بکثرت الفاظ کے یاد ہونے پر خود بخود آنے لگتا ہے۔ چند ماہ میں بچہ جب اپنی مادری زبان بولنے لگتا ہے تب بھی اسے گرامر کی اتنی شدید ضرورت نہیں پڑتی جتنی کہ بول چال میں حصہ لینے اور الفاظ کا ذخیرہ بنانے کی ہوتی ہے۔

ذو معنی الفاظ کا محل بھی آدمی جب بول چال میں حصہ لیتا ہے تب معلوم ہوتا ہے بعض الفاظ ہر زبان میں کئی کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن بول چال میں حصہ لینے اور عبارت میں ان الفاظ کو دیکھ کر آدمی اس کے معنی سمجھنے میں دشواری محسوس نہیں کرتا۔ البتہ عبارت سے ذو معنی لفظ کی علیحدگی اور بول چال کے ماحول سے دوری میں ہر شخص کو پریشانی ہونا قدرتی بات ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس لغت القرآن

میں کوئی لفظ اگر ایک جگہ ایک معنی میں اور دوسری جگہ دوسرے معنی میں آیا ہے تو دوسری تیسری بار اسے لکھ کر عبارت کے لحاظ سے معنی لکھ دئے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں بہت سے الفاظ دو یا تین معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہاں اس عبارت اور پوری آیت کے سیاق و سباق میں ایسا لفظ دیکھنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً مَا، تَوَلَّى، حَسَنٌ، اِحْسَانٌ، حَسَنٌ وغیرہ ٹھیک اسی طرح ہماری زبان میں لفظ خلاص یا ختم ہو گیا ہم کہتے ہیں تو عبارت سے اس لفظ کے تعلق کی بنیاد پر ہی معنی کا تعین ہو گا۔ جیسے کہ پانی خلاص ہو گیا، مریض خلاص ہو گیا یا ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ اب فیصلہ فرمائیں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہم لوگ ایک لفظ خلاص اور ختم کو کبھی واقعی پانی کے ختم یا خلاص ہونے کو بولتے ہیں، لیکن یہی لفظ موت اور ذوالہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح کھانا پینا، چغلی کھانا، رشوت کھانا، مار کھانا، رحم کھانا، قسم کھانا، خوف کھانا اب اگر کسی دیہاتی سے بھی ہم یہ کہیں کہ رحم کھاؤ تو وہ اس کا مطلب روٹی کھاؤ کی طرح نہیں لگے۔ لفظ سونا کو لیجئے یہ نیند لینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور سونے کے زیورات کے لیے بھی۔ اور کون نہیں جانتا کہ ہم کس سے ہمیں کہ جائیے تو وہ اس کا مطلب چلے جائیے لے گا۔ لیکن اندر آجائے، بیٹھ جائیے کا مطلب تو تشریف لائیے ہو گا یہاں ”جائیے“ کا مطلب کوئی بھی چلے جائیے نہیں لے گا۔ اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ ہر زبان میں ذو معنی لفظ ہوتے ہیں اور عبارت کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کرنا دیہاتی کٹوار بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بات تمام انسانی زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ عبارت سے لگ لگ لفظ کے معنی بھی کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسری عبارت میں دوسرے معنی ہوتے ہیں پس عاجز کا مقصد اس بحث سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے معاملہ میں پوری عبارت دیکھنے کی مشق کرانی جائے یہ طریقہ فطرت کے موافق ہو گا۔ ایسا اس احقر کا خیال ہے۔

اس مجموعہ الفاظ قرآنی میں حسب ذیل تراجم، تفاسیر، حدیث و لغات سے

استفادہ کیا گیا ہے، تفسیر جلالین، تفسیر قادری، موضح القرآن شاہ عبدالقادر صاحب ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب، تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانویؒ ترجمہ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی تفسیر، ترجمہ فتح محمد خاں صاحب جاندھری، تفسیر القرآن از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب، مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی کی تفسیر ماجدی، ترجمہ مولانا شام اللہ صاحب امرتسری توبہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب، گجراتی میں غلام محمد صاحب صادق، ہندی میں بشیر احمد صاحب اور محمد فاروق خاں صاحب، انگریزی میں علامہ عبداللہ یوسف علی صاحب اور محمد رانا ڈیوگ بکھال صاحب۔

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر بخاری شریف، اور صحاح ستہ کی تمام تر وہ حدیث جو قرآن کی کسی آیت یا جملہ کی شرح میں تھوڑے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، انھیں بھی ہر جگہ سامنے رکھا گیا ہے۔ لغات القرآن میں قاضی زین العابدین صاحب جامیؒ کی تفسیر قرآن اور اس لغات القرآن میں قریب قریب ہر معروف لغت کا پچوڑ سامنے رکھا گیا اسی طرح کسی ایک لفظ میں بھی معنی کے لحاظ سے مطلق آزادی نہیں برتی گئی اور تمام علماء کرام کے تراجم، تفاسیر اور لغات کا ایک سنگم یا حسین امتزاج جمع کیا گیا باقی کسی لفظ کا آزاد ترجمہ ہرگز نہیں کیا گیا، بلکہ کسی نہ کسی عالم ربانی کے ترجمہ و تفسیر میں سادہ اور قرآن سے قریب عمدہ، اچھے اور مناسب معنی کا انتخاب کیا گیا۔ استفادہ کرتے وقت علماء اہل سنت کے کئے ہوئے عظیم کام میں الفاظ کا یہ انتخاب عام فہم، فصیح اور طاقتور زیر موجودہ زمانہ میں زبان کی ترقی کا خیال رکھ کر کیا گیا ہے، تاہم کسی بھی بشری کام کو مکمل اور سونی صد کامیاب کہنا صحیح نہیں ہے اور یہ کسی علمی کام کی برائی بھی نہیں بلکہ بندہ بشر ہے، بھول چوک ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے، آپ انہیں کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو میں عمر بھر شکر گزار اور دعا گو رہوں گا کہ اس علمی خدمت میں آپ نے بھی میرا ہاتھ بٹایا جو انکم اللہ

اب الحمد للہ کہ کتاب کا اٹھارواں ایڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس کتاب کا ہندی ایڈیشن جناب نندکار صاحب اوستھی نے لکھنؤ میں شائع کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پتہ پر منگا سکتے ہیں:-

BHUMAN VANI TRUST
MAUSAM BAGH (SITAPUR ROAD),
L U C K N O W - 226 020. (U.P).

اسی طرح اس لغات القرآن کا خالص انگریزی ایڈیشن عربی کے متن کی سادہ تشکیل کے مرحلوں سے گزر رہا ہے۔ اب ہندی انگریزی اردو عربی زبانوں میں یہ کتاب الحمد للہ دستیاب ہونے کے امکانات بن گئے ہیں۔

نئے ایڈیشن میں ناظرین کی سہولت کے لیے ہر لفظ کا سلسلہ وار نمبر دیا گیا ہے۔ کسی نمبر کا لفظ بار بار آیا ہو تو اس میں ڈیوٹھو مقصد سامنے رکھے گئے ہیں، ایک ڈیوٹھو معنی ہونے پر الگ الگ لکھنا ضروری تھا، دوسرے بار بار کی تکرار سے یاد دہانی خوب اچھی طرح ہوگی اور بہت بھی بڑھے گی کہ یہ لفظ تو ہمیں یاد ہے اسی طرح ہر رکوع کے خاتمے پر رکوع کا نشان آپ دکھیں گے۔ یہ سلسلہ بیس پاروں تک ہے اس کے بعد یا تو آدھے اور پورے کے نشان آپ کو ملیں گے۔ سورتوں کے نمبر بھی ترتیب وار دیتے گئے ہیں۔

ناظرین سے خصوصی گزارش ہے کہ ابتدا میں عربی کے نوٹس اچھی طرح حفظ یاد کر لینے کے بعد اس لفظی مجموعے کو ایک ایک رکوع تک یا جیسے سہولت ہو یاد کرتے رہیں۔ پھر ترجمہ از خود کریں۔ اور اطمینان کے لیے اپنے کسی بھی مستند اور پسندیدہ عالم کے ترجمہ سے ملا کر دیکھ لیں، انشاء اللہ بہت خوب بڑھ جائے گی اور دل میں وسعت پیدا ہوگی۔ اسی طرح کثرت مطالعہ سے ایک وقت ایسا بھی آجائے گا کہ آپ انگریزی ترجمہ قرآن کے قرآن کو اسی کی زبان میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ تب آپ کو تلاوت کی عبادت کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اب تک ہم انجان تھے۔ آگے اللہ رب العزت عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہی علم القرآن یعنی قرآن کا علم دینے والا اور اس کی نسبت اپنی طرف کرنے والا ہے۔

اگر اس کی مدد شامل حال نہیں تو لاکھ گوشش کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہدایت کی طلب اور جستجو اسی کی بارگاہ میں کرتے رہنے سے وہ سبوح العظیم ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے۔ انڈیکس کی مدد سے یا اشاریہ میں آیتوں کے اگلے پچھلے حصے دیکھ کر اپنے سابقہ اور طے شدہ خیالات کی تائید میں جو لوگ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، انہیں اصل کلام اللہ کی چاشنی اور علاوت سے محروم ہے اور ایسے لوگ علم کی دنیا میں تباہ و تاراج نہیں مانے جاسکتے اور دراصل قرآن کے بھیجے والے اور لانے والے کی عظمت سے انہیں واقفیت ہی نہیں۔ اسی لیے بعض ایسے لوگوں نے انکار سنت یا انکار حدیث کا فتنہ بھی کھڑا کیا کہ عمل صالح اور نمونے سے چھٹی ملے۔ دماغی عیاشی کے لیے بحث و مباحثہ کے لیے تک بندی کرنے والے ان اصحاب کو بعض سادہ لوح مفکرین نے اہل قرآن جیسے عظمت والے خطاب سے نواز دیا۔ حالانکہ ایسے افراد کو قرآن کی ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر چونکہ یہ نام نہاد اہل قرآن حدیث کا استخفاف اور انکار کر کے سنت کو بیچ سے ہٹا دینا چاہتے تھے اس لیے ان کی مدافعت کیلئے اہل حق صالح علماء ربانی کا ایک بڑا گروہ حدیث کی مدافعت پر کھڑا ہوا۔ لیکن بحث و تکرار میں کبھی کبھی ہٹاؤں سے آگے بڑھ جانا ایک فطری کمزوری ہے جس سے صرف اللہ کے نبی ہی محفوظ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل حق کی بعض محترم ہستیوں نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی پست ہمت کر دیا کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں۔ اس طرح شیطان کو دو ہر مقصد حاصل ہو گیا کہ قرآن کی مدافعت کرنے والے بے عمل اور جاہل نکلے اور جو لوگ حدیث و سنت کی مدافعت کرنے والے تھے انھوں نے قرآن پڑھنا، سمجھنا بہت مشکل اور دُور کی بات بتانا شروع کیا۔ اور اس راہ کے لیے شمار خیالی خطرات کا تذکرہ ہونے لگا۔ میرا یہ بجز یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا قرآن سمجھ کر پڑھے گا وہ کبھی بھی رسول ص کی اطاعت اور ذبحہ اجا دیتا تو کیا اہل ایمان کی مجبوری علمی و اسلامی تاریخ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تفسیر، حدیث، فقہ، تزکیہ اور احسان و تصوف، یہ سب تمام قرآن ہی کا خلاصہ، شرح اور تفصیل ہیں۔ پھر سنت یا حدیث رسول تو واقعی قرآن کی چسپتی

پھرتی تفسیر ہے۔ اس کا استخفاف اور اس سے لاپرواہی کوئی بے وقوف و غبی شخص ہی کر سکتا ہے اِنَّا دَنَا اللّٰہَ۔ اس لیے اس عاجز کا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی کسی آیت کا اگلا پچھلا لفظ سمجھنے تان کر کسی نئے فلسفے کے موجد بنے ہیں یا ان کی تصنیفات سے لوگوں نے فہم قرآن حاصل کیا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی عربی زبان سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں انہیں چند ہی دن میں پتہ چل جائے گا کہ انہیں ان کے نفس نے یا دوسروں نے کس آیت میں اور کس لفظ میں کہاں کہاں دھوکہ اور مغالطہ دیا تھا۔ اسی طرح جو علماء حق حدیث و سنت کی مدافعت میں کوشاں ہیں، انہیں انکی مساعی پر مبارک باد دیتے ہوئے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو عوامی ہونے میں آپ حسب سابق اپنا تعاون جاری رکھیں اور عوام الناس میں علم قرآن کو کھل جانے دیں، کیونکہ ہر علم کے جاننے والے جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں تب اس علم میں دھوکہ بازی کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ مغالطہ یا غلطادھیلات اور من مانی دیں چل پاتی ہے جہاں کسی کتاب کے جاننے والے کس طرح ہوں اور یقینہ جہل میں مبتلا ہوں۔ اسے ایک سادہ مثال کے ذریعہ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب دنیا میں پہلی بار موٹر کار تیار ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ موٹر بیچنے والی کمپنی خریدار کو ایک ایسا آدمی بھی ساتھ کر دیتی تھی جو موٹر کے تمام پرزوں کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا اور موٹر چلانا بھی جانتا تھا۔ مگر کبھی کبھی ایسے آدمیوں نے موٹر مالک کی لاعلمی کے سبب پانی کی ٹنگی میں تیل کی ضرورت بتا کر خوب رقم وصول کر لی۔ لیکن آج تو کسی بھی شہر میں سینکڑوں مسٹری، ڈرائیور اور بہت سے خود موٹر کار کے مالک بھی اس فن سے واقف ہیں۔ اور اب کوئی کسی کو دھوکہ دے کر موٹر میں پانی کی ٹنگی میں تیل ڈالنے کا مشورہ ہرگز نہ دے گا۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی علم عام ہو جائے۔ پس میری یہ گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہر جگہ متن کے ساتھ معنی بھی بتائے جائیں تاکہ یہ کتاب عوام الناس میں علم و عمل کے لحاظ سے پھیل جائے۔

قرآن سیکھنے سکھانے والوں سے درخواست ہے کہ اردو زبان میں سب سے بہتر اور مستند اور متفق علیہ ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور موصوف کی مختصر تفسیر موضح القرآن جو عام طور پر مترجم قرآن مجید کے حاشیوں پر پائی جاتی ہے نیز انہیں کے برادر مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظی ترجمہ اگر آپ انہیں بنیاد بنا کر چلیں گے تو ہم قرآن میں انشاء اللہ کبھی بھی دھوکہ نہ ہوگا۔ اس لغات القرآن میں بھی اس کی حد بندی کا خوب خیال رکھا گیا ہے۔

انگریزی ایڈیشن میں پیکھال صاحب اور علامہ عبداللہ یوسف علی صاحب کے ترجمے سامنے رکھے گئے۔ اور جناب عبدالرشید خاں صاحب اور جناب آدم علی صاحب نے کافی محنت سے یہ کام کیا ہے۔ عاجز نے بھی مفہوم کے لحاظ سے B. Com. Alig. خوب اچھی دیکھ بھال کی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انگریزی داں طبقہ بھی فیض یاب ہوگا۔

۱۹۵۶ء میں پہلا ایڈیشن نقش اول سے چلا تھا۔ اب ۱۹۸۶ء کا نقش ثانی لکھا گیا پینتیس سال دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ پتہ نہیں نقش ثالث لکھنے کی کسی ایڈیشن میں نوبت آئے گی یا نہیں یا پھر حشر کے دن ہم آپس میں ملیں گے، جب تڑی کلّ اُمَّةٍ جَانِبَيْهَا اَوْرُحُلٌ اُمَّةٌ تَدْعِي اِلَيْهَا كَمَا نَفَرْنَا مِنْهَا كَمَا نَفَرْنَا مِنْهَا۔ تب معلوم ہوگا کہ حق کی خدمت، محنت کہاں تک ٹھکانے لگی اور کتنے انسان اس کتاب کے ذریعہ قرآن مجید کو پاکر علم و عمل کے لحاظ سے اس یَوْمِ الدِّينِ کے موقع پر کامیاب ہو کر دُنیا میں آنے کا اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔

قرآن مجید عقیدہ آخرت اس کے لوازمات آئندہ پیش آنے والے واقعات اور انسان کو کن کن منزلوں سے گزر کر کہاں تک سفر کرتے کرتے کس مقام پر پہنچنا ہے اس کی تفصیل سے بھرپور ہے اور یہی اس کے نزول کا مقصد ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اس راہ ہدایت کو اختیار کرے جو قرآن اس کے سامنے رکھتا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ

خادم

عبدالکریم پارکھی

ناگپور-۸

۳ سوال ۱۴۰۷ھ

مطابق یکم جون ۱۹۸۷ء

بروز پیر بوقت بعد عصر



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گزارش نامشر

الحمد للہ کہ ان دنوں ہم لوگوں میں قرآن نہیں کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے۔ ترجمے کے ذریعہ قرآن کو سمجھنے کی پہل شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے۔ انکے بعد شاہ عبدالقادر صاحبؒ و حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ نے اردو زبان میں ترجمہ فرما کر ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیئے۔

”لغات القرآن“ شروع کرنے سے پیشتر یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ لغات صرف نظر بانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ کے ساتھ ہی ساتھ ترجمے والا قرآن شریف پڑھتے جاتے، انشاء اللہ چند ماہ کے قلیل عرصے میں آپ خود بخود ترجمہ کرنے لگ جائیں گے اور سچ تو یہ ہے کہ اسی وقت آپ کو اس چھوٹی طسی کتاب کی اہمیت واضح ہوگی۔ اگر لغات کے لفظ و معانی حفظ کرنے جائیں اور تلاوت شروع کر دی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے، گویا ہمارے سینوں کی تاریکی اور تنگی کو اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اور اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اُس نے ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے کا ذوق

عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتب لغات کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور ذمیرہ آخرت بنائے۔


اللّٰهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِىْ. اللّٰهُمَّ ارحمنيْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ
وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّلَوْ مَرًّا وَّهَدِيْ وَّرَحْمَةً. اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ
وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَاَمِّرْ نِيْ بِتِلَاوَتِهِ اِنَّاءَ النَّيْلِ وَاَنْهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ
حِجَّةً يَنْسُرِبُ الْعَالَمِيْنَ (امين)

محمد عبد الرشید خان صاحب (مرحوم) کامی





سُرُورِ عَالَمِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَاحِبِ قُرْآنِ
 حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كے نام جن کے ذریعہ عالم انسانیت
 کو ہدایتِ عنایت فرمائی گئی۔



سبق (۱)

مبتدا اور خبر

SUBJECT PREDICATE

اللہ خالق ہے محمدی ہیں طارق مجاہد ہے

اس طرح کے الفاظ کو عربی میں مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے، ان الفاظ کی عربی بنانا ہو تو ہر لفظ کو دو دو پیش دیدیجئے۔

اللہ خالقٌ مُحَمَّدٌ نبیٌ طارقٌ مجاہدٌ

کتنی آسان بات ہے اور ہاں اس سبق کے آخر میں جو الفاظ اور اس کے معنی دتے گئے ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر ان جملوں کا جو ذیل میں درج ہیں ترجمہ کیجئے۔

الْعَبْدُ صَالِحٌ الْإِبْنُ صَبِيحٌ الْجُنْدُ كَيْبَرٌ
الرَّجُلُ ذَكِيٌّ حَامِدٌ عَالِمٌ خَالِدٌ قَوِيٌّ

:- اُردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے :-

راستہ سیدھا ہے ماموں نیک ہے گھر بڑا ہے

دوست نیک ہے بیٹا سچا ہے بھائی عبادت گزار ہے

خالد بیٹا ہے حامد چچا ہے

یہ تمام الفاظ مذکور تھے۔ اب مونث کی علامتیں ذہن نشین کر لیجئے، آسان بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اُردو میں آدمی کے لئے جمیل اور عورت کیلئے ہمیدہ استعمال

کرتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی کوئی مونث ہو تو اس کی علامت ”ة“ لگائی جاتی ہے جیسے :-

رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً

مشق کیجئے

رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً
رَأَيْتُ خَالِدًا رَأَيْتُ خَالِدَةً

اس سبق کی ایک خاص بات یاد رکھئے وہ یہ کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لئے ”ال“ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح انگریزی میں THE کا استعمال ہوتا ہے اور کسی لفظ میں ”ال“ کے لگا دینے سے دو پیش کی جگہ ایک پیش باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر ان الفاظ پر غور کیجئے بات سمجھ میں آجائے گی۔

حَمْدٌ الْحَمْدُ إِنْسَانٌ الْإِنْسَانُ
رَسُولٌ الرَّسُولُ

مشق ۱

الْأَبُ صَالِحٌ الرَّجُلُ قَوِيٌّ الْمَوْتُ حَقٌّ الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ
الْبَيْتُ رَفِيعٌ الْإِسْلَامُ دِينٌ الرَّسُولُ صَادِقٌ نَوْحٌ نَبِيٌّ
اوپر کے جملوں میں دکھایا گیا ہے کہ ”ال“ کے لگنے سے دو پیش کی جگہ ایک پیش باقی رہتا ہے۔
نوٹ :- پہلا لفظ یعنی مبتدا اگر مونث ہے تو اس کی خبر بھی مونث ہوگی مثال کے طور پر

الْأَبُ صَالِحٌ الْأُمُّ صَالِحَةٌ

ایک ضروری یاد دہانی

مبتداِ خبر کا سبق الحمد للہ آپ نے پڑھ لیا اس سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا سبق اور یاد کر لیجئے جسے صفت موصوف کہتے ہیں ہم نے اس سبق کو الگ سے نہیں لکھا بلکہ مبتداِ خبر کے سبق کے ساتھ اس کی الگ سے پہچان کرادی یہ اس لئے کہ اس میں دونوں الفاظ پر زور دینا پیش لگتے ہیں اور اگر پہلے لفظ "پر" آیا تو دوسرے لفظ پر بھی آجائے گا اور دو پیش کی جگہ ایک پیش کا استعمال ہوگا لیکن مبتداِ خبر میں پہلے لفظ "پر" ہوگا تو دوسرے لفظ "پر" نہیں آئے گا۔ مبتداِ خبر اور صفت موصوف دونوں طرح کے جملوں میں اگر پہلا لفظ نمونہ ہوگا تو دوسرا بھی نمونہ ہوگا اور اگر پہلا لفظ مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا۔

"صفت" تعریف اور موصوف جس کی تعریف کی جائے مثلاً "بڑا گھر" میں بڑا صفت ہے اور گھر موصوف ہے۔

ہم نے طالب علم (SHORT CUT) آسان طریقے سے قرآن مجید کی عربی زبان سکھانے کی غرض سے صفت موصوف کے لئے چند اشارے دیئے ہیں اس پر غور کریں۔

سچا مسلمان نیک آدمی، بڑی مسجد چھوٹی کتاب امانت دار سچا یہ سب جملے صفت موصوف کہلاتے ہیں ان کا اگر عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو اردو کی ترتیب الٹ دیجئے یعنی پہلے والا لفظ بعد کو اور بڑا والا لفظ پہلے لکھئے، پھر دونوں کو دو دو پیش کیجئے مثلاً "سچا مسلمان" کا عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو پہلے اردو کی ترتیب الٹ کر لکھی جائے گی یعنی پہلے مسلمان کی عربی "مُسْلِمٌ" لکھی جائے گی پھر سچا کی عربی "صَادِقٌ" لکھی جائے گی اس کے بعد دونوں پر پیش لگا دیں تو پورا جملہ یوں ہوگا: مُسْلِمٌ صَادِقٌ۔

رَجُلٌ صَالِحٌ مَسْجِدٌ كَبِيرٌ كِتَابٌ صَغِيرٌ عَمٌّ آمِنٌ

سبق نمبر ۱ کے الفاظ کے معنی

خَالِقٌ	پیدا کرنے والا	صَادِقٌ	سچا
عَبْدٌ	بندہ	أَخٌ	بھائی
صَالِحٌ	نیک	عَابِدٌ	عبادت کرنے والا
إِبْنٌ	بیٹا	عَمٌّ	چچا
صَغِيرٌ	چھوٹا	عَمَّةٌ	پھوپھی
صَغِيرَةٌ	چھوٹی	جَمِيلٌ	خوبصورت
كَبِيرٌ	بڑا	جَمِيلَةٌ	خوبصورت (مؤنث کیلئے)
كَبِيرَةٌ	بڑی	بِنْتُ	بیٹی
جُنْدٌ	لشکر	أَبٌ	باپ
رَجُلٌ	آدمی	أُمٌّ	ماں
ذِي	ذہین	أَخْتٌ	بہن
قُوًى	قوی، طاقت والا	حَمْدٌ	تعریف
صِرَاطٌ	راستہ	رَفِيعٌ	اونچا
مُسْتَقِيمٌ	سیدھا	دِينٌ	بدلہ، انصاف، تقانون
حَالٌ	ماموں	مَجِيدٌ	بزرگی والا
حَالَةٌ	خالہ	عَابِدَةٌ	عبادت کرنے والی
بَيْتٌ	گھر	إِبْنٌ	بیٹا
صَدِيقٌ	دوست	نَيْبٌ	خبر دینے والا

سبق نمبر (۲)

مضامین کا حکم
 قرآن کا حکم
 ہود کی قوم
 رسول کی دعوت
 اور
 مضاف الیہ
 مضاف الیہ
 اس طرح کے الفاظ کی عربی بناتے وقت ترتیب کو الٹ دیجئے اور پھر پہلے لفظ کے آخری حرف کو ایک پیش اور دوسرے لفظ کے آخر میں دو زیر لگا دیجئے ”کا“ اور ”کی“ کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔

مَحَلُّهُ النَّاسِ	قَوْمُ هُودٍ	رَسُولُ الْوَعْدِ
قرآن کا حکم	ہود کی قوم	رسول کی دعوت
عِبَادُ اللَّهِ	بَيْتُ اللَّهِ	خَلْقُ اللَّهِ
اللہ کے بندے	اللہ کا گھر	اللہ کی مخلوق

اب اسی قاعدے کے تحت الفاظ بنانے کے لئے پہلے اس سبق کے آخر میں درج شدہ الفاظ معنی کے ساتھ یاد کر لیجئے، پھر ترجمہ کی مشق کیجئے، دوران مطالعہ جہاں ”ال“ کا استعمال ہوگا، پہلے سبق کی طرح یہاں بھی ”ال“ کے آنے سے دو زیر کی جگہ ایک زیر کا خیال رکھئے۔

ترجمہ کیجئے

كَلَامُ اللَّهِ	سُنَّةُ الرَّسُولِ
قرآن کا حکم	رسول کی دعوت
دِكْرُ الرَّحْمَنِ	فَضْلُ اللَّهِ
اللہ کی رحمت	اللہ کا فضل
إِقَامَةُ الصَّلَاةِ	رَحْمَةُ اللَّهِ
صلوات کی اقامت	اللہ کی رحمت
إِطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ	
والدین کی اطاعت	

اُردو الفاظ کی عربی بنائیے :-

اللہ کی زمین	لوگوں کی سرکشی	آخرت کا گھر
گنہگار کا کھانا	حامد کا گھر	

نوٹ :-

- ۱ مضاف کو انگریزی میں POSSESSED اور مضاف الیہ کو POSSESSOR کہتے ہیں
- ۲ کا۔ کے۔ کی کے معنی پیدا کرنے کے لئے پہلے لفظ کے آخری حرف پر ایک پیش اور دوسرے حرف کے آخر میں دو زیر لگائے جاتے ہیں۔
- ۳ ”ال“ کے استعمال سے مضاف الیہ کے نیچے صرف ایک زیر باقی رہے گا۔

الفاظ کے معنی :-

الصَّلَاةُ	نماز	طُعْيَانٌ	سرسکشی
النَّاسُ	لوگوں	أَخْرَجَتْ	آخرت
لَيْبِنٌ	دودھ	دَسَّ	گھر
بَقْرٌ	گائے	أَتَيْتُهُ	گناہگار
مَرْيَبٌ	شک	طَعَامٌ	کھانا
إِقَامَةٌ	قائم کرنا	خَيْلٌ	گھوڑا
إِطَاعَةٌ	اطاعت کرنا	وَالِدَيْنِ	ماں باپ
أَرْضٌ	زمین	سُنَّةٌ	عادت، طریقہ
		يَوْمٌ	دن

نوٹ:۔

مرتب کے نظریہ تعلیم قرآن کے تحت پہلے الفاظ کا بھرپور ذخیرہ ہو سنا تھا میں مخم کر امر کی معلومات بھی ہوتی رہے اور ایک بچے کی طرح پہلے الفاظ کے معنی ذہن نشین ہوتے رہیں پھر قواعد و ضوابط کی طرف ابتدائی دور میں ضروری ہو اسی قدر توجیہ دی جائے اس مقصد کے تحت ان اسباق میں عربی زبان سے ابتدائی مناسبت پیدا کرنے کے لئے بعض الفاظ کو جوڑنے میں ایک حد تک کچھ کرام کے نکات کو نظر انداز کر کے سادگی برتی گئی ہے تاکہ طالب علم کو پہلی ہی منزل پر الجھن محسوس نہ ہو باں جو حضرات مزید تحقیق کے مشتاق ہوں تو وہ کرام کی دوسری مفصل کتابیں بعد میں دیکھیں یہاں تو آپ کو کسی بھی طرح عربی اور وہ بھی قرآن پاک کی عربی سے رُوشناس کرنے کیلئے ایک سادہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

ناشر

سبق (۳)

PAST TENSE

ماضی

فَعَلَتْ	اُس ایک مرد نے کیا	فَعَلَتْ	اُس ایک عورت نے کیا
فَعَلْنَا	اُن دو مردوں نے کیا	فَعَلْنَا	اُن دو عورتوں نے کیا
فَعَلُوا	اُن سب مردوں نے کیا	فَعَلْنَ	اُن سب عورتوں نے کیا
فَعَلْتَ	تو ایک مرد نے کیا	فَعَلْتِ	تو ایک عورت نے کیا
فَعَلْتُمَا	تم دو مردوں یا تم دو عورتوں نے کیا	فَعَلْتُمَا	تم دو عورتوں نے کیا
فَعَلْتُمْ	تم سب مردوں نے کیا	فَعَلْتُنَّ	تم سب عورتوں نے کیا
فَعَلْتُ	میں نے کیا		
فَعَلْنَا	ہم نے کیا		

ان تمام صیغوں کو خوب اچھی طرح یاد کریں، لفظ ”فعل“ یعنی کرنا، پر تمام صیغوں کی ڈھلائی بتانی گئی ہے۔ اب کسی لفظ کو فعل ماضی بنانا ہو تو اس کے لفظی معنی فعل کی جگہ پر لاتے جائیں گے اس کی مثال وزن کے خانوں میں بتانی گئی ہے۔



وزن	افعال				
فَعَلَ	كَتَبَ	قَرَأَ	نَصَرَ	صَرَبَ	طَلَبَ
اُس ایک	اُس ایک	اُس ایک	اُس ایک	اُس ایک	اُس ایک
مرد نے کیا	مرد نے لکھا	مرد نے پڑھا	مرد نے مدد کی	مرد نے مارا	مرد نے مانگا
فَعَلَا	كَتَبَا	صَرَبَا	طَلَبَا	ذَهَبَا	فَتَحَا
اُن دونوں نے کیا					
فَعَلُوا	كَتَبُوا	طَلَبُوا	ذَهَبُوا	فَتَحُوا	صَرَبُوا
اُن سب نے کیا					
فَعَلْتِ	طَلَبْتِ	نَهَرْتِ	ذَهَبْتِ	فَتَحْتِ	طَلَبْتِ
تو نے کیا					
فَعَلْتُمَا	نَهَرْتُمَا	ذَهَبْتُمَا	فَتَحْتُمَا	طَلَبْتُمَا	كَتَبْتُمَا
تو دووں نے کیا					
فَعَلْتُمْ	ذَهَبْتُمْ	نَصَرْتُمْ	فَتَحْتُمْ	طَلَبْتُمْ	كَتَبْتُمْ
تم سب نے کیا					

حسب ذیل الفاظ کا ترجمہ کیجئے

وزن				
فَعَلْتُ	دَخَلْتُ	نَصَرْتُ	شَرِبْتُ	وَجَدْتُ
فَعَلْتُمْ	نَصَرْتُمْ	كَفَرْتُمْ	وَصَلْتُمْ	ذَهَبْتُمْ
فَعَلْتُ	كَفَرْتُ	شَرِبْتُ	دَخَلْتُ	نَصَرْتُ

یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ”فَعَلَ“ کے معنی ہیں اُس نے کیا اب اگر اس لفظ کو فِعْلٌ

پڑھیں گے تو مطلب ہوگا ”وہ کیا گیا“ اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔

فعل ماضی معروف فعل ماضی مجہول

خَلَقْتُمْ	تم نے پیدا کیا	خُلِقْتُمْ	تم پیدا کئے گئے
قَتَلَ	اُس ایک مرد نے قتل کیا	قُتِلَ	وہ ایک مرد قتل کیا گیا
جَعَلْتُ	میں نے بنایا	جُعِلْتُ	میں بنایا گیا

مزید مشق کیجئے۔ سہولت کے لئے ترجمہ دیا گیا ہے

طَلَبُوا	انہوں نے طلب کیا	طُلِبُوا	وہ طلب کئے گئے
بَعَثَ	اس نے بھیجا	بُعِثَ	وہ بھیجا گیا
بَعَثْتُ	میں نے بھیجا	بُعِثْتُ	میں بھیجا گیا
مَرَّ مَرَاتِنَا	ہم نے رزق دیا	مَرَّ مَرَاتِنَا	ہم رزق دئے گئے
مَرَّ مَرَاتِنَا	انہوں نے رزق دیا	مَرَّ مَرَاتِنَا	وہ رزق دئے گئے

زیر زبر کی ترتیب کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں، محض ذرا سی زیر زبر کی تبدیلی میں ایک لفظ کے معروف کے بجائے مجہول کے معنی پیدا ہونے کا امکان ہے۔

نوٹ :-

- ① ماضی گذرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں یعنی جو کام کسی نے کر دیا ہو۔
- ② ماضی مجہول گذرے ہوئے زمانے میں کوئی فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے ساتھ فاعل کا ذکر نہ ہو۔

الفاظ کے معنی سبق نمبر (۴)

قَدْ أ	پڑھنا	بَحْرٌ	سمندر
كَتَبَ	لکھنا	مَاءٌ	پانی
خَدَعَ	دھوکہ دینا	خَلَقَ	پیدا کرنا
جَعَلَ	بنانا	جَمَعَ	جمع کرنا
فَرَّقَ	پھاڑنا	مَالٌ	مال، اسباب
أَنْزَلَ	اتارنا		

حروف جر سبق نمبر (۵)

حروف جر	طريقة استعمال
فِي	فِي بَيْتٍ
مِنْ	قَوْلًا مِنْ الْقُرْآنِ
عَلَى	عَلَى جَبَلٍ
كَ	كَسَجَلٍ
عَنْ	سَمِعْتُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ سُنَّائِي نَسِيخِي
بِ	دَخَلْتُ بِسَلَامٍ
لِ	لِلنَّاسِ
إِلَى	إِلَى بَلَدٍ

طريقة استعمال

حروف جر

حَتَّى	یہاں تک کہ	حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ	یہاں تک کہ طلوع ہو فجر
و	قسم	وَاللَّهِ	قسم اللہ کی

- ① ان حروف کا استعمال صلہ کے طور پر ہوتا ہے۔
 - ② اور یہ حروف جب کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں تو اس کے آخری حرف کو زیر لگا دیتے ہیں۔
 - ③ اوپر کے خانے میں دیکھتے تمام الفاظ کے آخری حروف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔
 - ④ جہاں "ال" کا استعمال ہوتا ہے وہاں ایک زیر اور باقی مقامات پر دو زیر۔
- ترجمہ کیجئے :-

مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَا لَوَالِدِ بْنِ أَحْسَانًا، كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ، مَنَعَ إِلَى حَيْدِنِ
 عَلَى ابْصَارِهِمْ عَشَاوَةٌ، أَمَّنَّا بِاللَّهِ، فَرَزْنَا عَلَى عَبْدِنَا، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ
 عربی بنائیے :-

- ① قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لئے (۶) میں نے آدمی کو دیکھا مسجد پر
- ② علم کا طلب کرنا فرض ہے اور پر تمام مسلم مرد اور مسلم عورت کے۔

الفاظ کے معنی سبق نمبر (۵)

حَمْدٌ	تعریف	أَصَاةٌ	آنکھیں
وَالِدِيْنَ	ماں باپ	عَشَاوَةٌ	پردہ
أَحْسَانًا	اچھا سلوک	بَيَانٌ	بیان

سبق نمبر (۶) و

PRONOUNS

ضمیریں

طریقہ استعمال	ضمیریں
اُس کی کتاب اُن دونوں کا گھر	اِس ایک مرد کا، کو اُن دو مردوں کا یا اُن دو عورتوں کا
اُن کا ایمان اُس ایک عورت کی ماں اُن سب عورتوں کا گھر	اُن سب مردوں کا اِس ایک عورت کا اُن سب عورتوں کا
تیری کتاب تم دونوں کا گھر	تیرا (تجھ کو) مرد، تیم دو مردوں کا یا تم دو عورتوں کا
تمہارا رسول تو ایک عورت کا گھر تم سب عورتوں کا گھر	تم سب مردوں کا تو ایک عورت کا تم سب عورتوں کا
میرا رب رزق دیا اُس نے مجھے ہماری کتاب	میرا مجھے ہمارا، ہم کو

مَتَاعٌ	فائدہ	النَّاسُ	لوگ
حَيْثُ	دقت	هُمَّ	ان کا، ان کو
هُدًى	ہدایت	فَرِيضَةٌ	فرض
سَرَّاءٍ	دیکھنا	مُسْلِمٌ	مسلم مرد
سُرْجُلٌ	آدمی	مُسْلِمَةٌ	مسلم عورت
طَلَبٌ	طلب کرنا	كُلٌّ	تمام، کل
	اِيْمَانٌ	اِيْمَانٌ لَنَا	ایمان لانا

اِس سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے مُسْلِمٌ اور مسلمان عورت کے لیے مُسْلِمَةٌ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں واحد، تشبیہ اور جمع کی ایک خاص ترتیب بھی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اسے درج کیا جا رہا ہے اس پر تیس کر کے دوسرے الفاظ بنا کر دیکھئے۔

جمع	تشبیہ	واحد	پیش کی صورت
مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	پیش کی صورت
سَبَّابٌ	سَبَّابٌ	سَبَّابٌ	زیر کی صورت
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمِينَ	مُسْلِمًا	زیر کی صورت
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمِينَ	مُسْلِمًا	زیر کی صورت

یوں خانوں میں دیکھنے پر الفاظ کا کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ فاعل اور مفعول کی حالت میں الفاظ پر پیش و زیر لگاتے جاتے ہیں۔ فاعلی حالت سُرْجُلٌ مفعولی حالت سُرْجُلٌ اِس طرح حرف جر بھی کسی لفظ کے پہلے آ کر آخری حرف کو زیر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر علی مُسْلِمٌ

اس طرح جملے بنا کر مزید شق کیجئے، چند جملوں کا ترجمہ مزید سہولت کے لئے دیا جاتا ہے۔ بعد میں درج شدہ الفاظ کا ترجمہ خود کیجئے۔

إِنِّي	نَصْرَتُهُ	مِنَّا	إِنِّي
میرا بیٹا	مُددی میں نے اسکو تجھ سے	ہماری طرف	ہماری طرف
لَهُ	إِلَى	إِلَيْهِمْ	لَنَا
لئے اس کے	میری طرف	ان کی طرف	ہمارے لئے۔ بگو
إِنكُمْ		إِنْنَا	
بے شک تم		بے شک ہم	

ترجمہ کیجئے۔

سَمِعْتُمْ، سَأَلْتُمْ، دُكَّانًا، بَيْتِنَا، سُرَّوْنَا، قَوْمُنَا، مَلَّتْكُمْ
أَصْحَابُنَا مِنْكَ مِنْكَ لَهُمَا إِمَامُكُمْ أَهْلِي
خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جِبْتًا. وَقَدْ نَعَمَ اللَّهُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
الْفَاظُ كَالْمَعْنَى سَبَقَ نَمْبِرُ

سَمِعَ	سَمِعْنَا	عِنْدَ	نزدیک پاس
مَلَّتْ	دین، ملت	رَبِّ	پالنے والا
لَقَدْ	البتہ۔ تحقیق	أَهْلٍ	گھر والے
إِنِّي	بے شک	أَصْحَابٍ	ساتھی۔ رفیق (جمع)
دُكَّانٌ	دُكَّانٌ	و	اور
جِبْتًا	سب	ل	البتہ۔ کے لئے
	أَجْرٌ	بدلہ، اجر	

سَبَقَ نَمْبِرُ

فَاعِلِي ضَمِيرِي

دو ایک مرد	هُوَ
دو دو مرد یا دو عورتیں	هُمَا
دو سب مرد	هُم
دو ایک عورت	هِيَ
دو سب عورتیں	هُنَّ
تو ایک مرد	أَنْتَ
تم دو مرد یا دو عورتیں	أَنْتُمَا
تم سب مرد	أَنْتُمْ
تو ایک عورت	أَنْتِ
تم سب عورتیں	أَنْتُنَّ
میں ایک مرد یا عورت	أَنَا
ہم سب	نَحْنُ

فَاعِلِي ضَمِيرِي كَوَاجِبِي طَرِحْ يَادُ كَرِيحِي أَنْتَدَه اسْتِعْمَالِ كَالْمَوَاقِعِ آتِيں گے۔

طَرِيقَةُ اسْتِعْمَالِ

هُوَ مُسْلِمٌ	أَنْتَ عَالِمٌ	أَنَا عَبْدٌ
وہ مسلم ہے	تو عالم ہے	میں بندہ ہوں

ترجمہ کیجئے:-

وَالَهُمْ يُحْرَنُونَ ، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ، لَأَنْجِبُ إِلَّا اللَّهَ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، لَأَسْأَلَنَّكُمْ ، يَقَطَعُونَ ، يَقْفَهُونَ
يَجْهَلُونَ ، تَخْلُدُونَ ، تَسْحَرُونَ


عربی بنائیے:-

تم سمجھتے ہو۔
تم جانتے ہو۔
وہ نہیں کاٹتے ہیں۔
وہ نہیں ڈرتے۔
وہ پوچھ جاتے ہیں۔
وہ کھولا جاتا ہے۔
وہ قتل کئے جاتے ہیں۔
وہ رزق دئے جاتے ہیں۔

الفاظ کے معنی سبق نمبر (۸) د

سُننا	سُنَّكَرَ	شکر کرنا
بھٹکتے پھرنا	عَلِمَ	جاننا، علم رکھنا
پوچھنا	إِلَّا	مگر
مدد دینا	إِيْمَانًا	ایمان لانا (م۔ن)
غمگین ہونا	مَا	جو کچھ
ہاتھ	بِهَا	کیوں۔ کس لئے
پھر	قَطَعَ	کاٹنا
کہنا	حَدَّثَ	ڈرنا
یہ	فَقَّهَ	سمجھنا
سے	بِجَهْلِ	جہالت، نا سمجھی
نزدیک، پاس	سَحَرَ	ہنسنا
نا پسند کرنا	تَلَاوَةً	تلاوت کرنا (تلو)
جمع کرنا	لَا	نہیں
ہمیشہ رہنا		

سَمِعَ
عَمَهُ
سَأَلَ
نَصَرَ
حَزِنَ
أَيْدِي
ثُمَّ
قَوْلًا
هَذَا
مِنْ
عِنْدَ
كَرَاهٍ
جَمَعَ
خَلَدَ



سَبَقَ نَمِدْبَر (۹)

ر ر ر نھی

اَفْعَلٌ	تو ایک مرد کر	لَا تَفْعَلُ	تو ایک مرد مت کر
اَفْعَلًا	تم دو مرد یاد و عورتیں کرو	لَا تَفْعَلُوا	تم دو مرد یاد و عورتیں مت کرو
اَفْعَلُوا	تم سب مرد کرو	لَا تَفْعَلُوا	تم سب مرد مت کرو
اَفْعَلِي	تو ایک عورت کر	لَا تَفْعَلِي	تو ایک عورت نہ کر
اَفْعَلْنَ	تم سب عورتیں کرو	لَا تَفْعَلْنَ	تم سب عورتیں نہ کرو

ادپردی ہوئی گردائیں کسی کام کے کرنے کے لئے کہنا یا کسی کام کو منع کرنے کے معنی بتا رہی ہیں۔

طريقة استعمال

اَذْهَبْ	تو جا	لَا تَذْهَبْ	تو مت جا
اِعْمَلُوا	تم عمل کرو	لَا تَعْمَلُوا	تم مت سنو
اِعْمَلُوا	تم جاؤ	لَا تَعْمَلُوا	تو مت علم کر
لَا تَفْعَلْ	تو مت کر	لَا تَجْعَلْ	تو مت بنا
اَفْعَلْ	تو کر	اَشْرَحْ	تو کھول
لَا تَفْعَلُوا	تم مت کرو	لَا تَفْرُقُوا	تم مت تفرقہ کرو

ترجمہ کیجئے:-

لَا تَقْرَبَا، لَا تَسْأَلْنِي، اَشْرَحْ لِي، اَشْرَبُوا، وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اِسْرَكْبُوا
الْفَاظُ كَمَعْنَى سَبَقَ نَمِدْبَر (۹)

عمل کرنا، کام کرنا	عمل
جاننا	علم
کھولنا۔ کشادہ کرنا	شرح
تفرقہ ڈالنا	فرق
قریب ہونا	قرب
پوچھنا۔ سوال کرنا	سئل
پینا	شرب
دردناک عذاب	عَذَابٌ أَلِيمٌ
سوار ہونا	اسرکب



قرآن پاک میں ہر رکوع کے خاتمے پر نشان ع لگا ہوا ہوتا ہے اسکے معنی ہیں یہاں پر ایک رکوع پورا ہو گیا۔
ع:۔ رکوع کے نشان پر اوپر کا نمبر سورۃ کے رکوع کا نمبر لگتا ہے۔
ع:۔ اور نیچے درج شدہ نمبر پارے کی ترتیب پر ہے جو پارے کا رکوع نمبر بتا رہا ہے۔
ع:۔ بیچ کا عدد دو نمبروں کے درمیان یعنی ایک رکوع میں کتنی آیات ہیں اس کا نشان ہے۔

اگر آپ سورۃ بقرہ کا ۳۸ واں رکوع دیکھنا چاہتے ہیں تو بیچ کا نمبر نکالیں یہاں اوپر ۳۸ کا نمبر بتا رہا ہے کہ یہ سورۃ بقرہ کا رکوع ۳۸ ہے، باقی نیچے کا نمبر پارہ تین کا چھٹا رکوع ہے۔ رہ گیا بیچ کا عدد ۸ تو یہ صرف ۱۳ اور ۳۸ کے درمیان کی عبارت کے اندر کتنی آیات ہیں اس کا پتہ دیتا ہے یعنی اس رکوع میں آیات ہیں۔ زیادہ تر سورتوں کے رکوع پر توجہ دی جاتی ہے تو مناسب ہو گا اس لئے کہ مطالعہ قرآن کے لئے سورتوں کا نمبر دیکھ کر اس میں رکوع تلاش کر لینا نہایت آسان ہے۔ روزانہ ایک رکوع کے الفاظ اچھی طرح یاد کر لیجئے پھر غیر مسترجم قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھ لیں کہ آپ اس رکوع کو سمجھ سکتے یا نہیں؟ کہیں اگر دقت پیش آئے تو ترجمہ والا قرآن شریف دیکھ کر اطمینان کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

نمبر شمار عربی	اُردو	نمبر شمار عربی	اُردو
۱ - عَوْدٌ	پناہ مانگنا	۱۷ - نَسْتَعِيْنُ	ہم مدد چاہتے ہیں
۲ - اَعُوْذُ	میں پناہ مانگتا ہوں	۱۸ - اِسْتَعَانَ	مدد چاہنا
۳ - بِ	ساتھ	۱۹ - اِهْدِ	ہدایت دے
۴ - مِنْ	سے	۲۰ - كَا	ہم کو (ہمارا)
۵ - رَحِيْمٌ	لطفت کیا گیا	۲۱ - صَوَّاطٌ	راستہ
۶ - اِسْمٌ	نام	۲۲ - مُسْتَقِيْمٌ	سیدھا، مضبوط
۷ - اَلرَّحْمٰنِ	بڑا مہربان	۲۳ - اَلَّذِيْنَ	وہ لوگ
۸ - اَلرَّحِيْمِ	خوب رحم کرنے والا	۲۴ - اَلنَّعْمٰتِ	انعام کیا تو نے
۹ - اَلْحَمْدُ	ہر قسم کی تعریف	۲۵ - عَلَيْهِمْ	ان کے اوپر
۱۰ - ل	کیلئے	۲۶ - غَيْرِ	سوا
۱۱ - رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	پالنے والا تمام جہانوں کا	۲۷ - مَعْصُوْبٍ	غضب کئے گئے
۱۲ - مَا اِلٰهِ	مالک	۲۸ - لَا	نہیں
۱۳ - يُوْدُمُ	دن	۲۹ - اَلضَّالِّيْنَ	گمراہ، بھٹکے ہوئے، بھٹکے ہوئے
۱۴ - اَلَّذِيْنَ	انصاف، قانون		
۱۵ - اِيَّاكَ	تیری ہی، تجھ کو، مرزے		
۱۶ - نَعْبُدُ	ہم عبادت کرتے ہیں		

پارہ نمبر (۱) سورۃ البقرۃ (۲)

نمبر شمار عربی	اردو	نمبر شمار عربی	اردو
۳۰	ذٰلِكَ	۳۴	بِمَا
	یہ۔ وہ		ساتھ، جو کچھ
۳۱	لَا سَیِّبَ	۳۵	اَنْزِلَ
	نہیں شک		آنا لگیا، نازل کیا گیا
۳۲	فِیْهِ		(د ن س ن)
	اس میں، پچ اس کے	۳۶	اِلَیْكَ
۳۳	مُتَّقِیْنَ		طرف تیرے
	پرہیزگار	۳۷	مَا
۳۴	یُؤْمِنُوْنَ		قَبْلِ
	ایمان لاتے ہیں		تیسرے
	(ا م ن)	۳۸	اَنْزَلْنَا
۳۵	غَیْبٍ		اَنْزَلْنَا
	پوشیدہ، چھپی ہوئی		آنحضرتؐ سے
۳۶	وَاَوْ	۳۹	اَنْزَلْنَا
	اور		آنحضرتؐ سے
۳۷	یُقِیْمُوْنَ	۴۰	یُؤْتُوْنَ
	قائم کرتے ہیں (د ق ا م ت)		یقین رکھتے ہیں
۳۸	اَلْضَلٰوٰةَ		(د ی ق ن)
	نہ سزا	۴۱	اُوۤرۡثٰتِكْ
۳۹	مِمَّا		یہ لوگ، یہی لوگ
	میں سے، ما، جو		ذٰلِكَ کی جمع ہے
	کچھ۔ اس سے جو کچھ کہ	۴۲	عَلٰی
	میں اور ما کا مرتب		اوپر
۴۰	رَزَقْنَا	۴۳	هُدٰی
	رزق دیا ہم نے		ہدایت
۴۱	فَا	۴۴	مُقَلِّحُوْنَ
	پہم نے		فلاح پانہ والے،
۴۲	هُمَّ		کامیاب ہونی والے
	وہ		
۴۳	یَلْقَوْنَ		
	خرچ کرتے ہیں		
	(د ن ف ق)		

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	اردو	نمبر شمار عربی	اردو
۴۱	اَلنَّاسُ	۵۵	اِنَّ
	لوگ		بے شک، یقیناً
۴۲	مِنْ	۵۶	كُفْرًا
	بعض شخص		کفر کیا
۴۳	یَقُوْلُ	۵۷	سَوَاءٌ
	کہتا ہے۔ قال: کہا		برابر
	قَوْلُ: کہنا	۵۸	عَۡ
۴۴	اٰمِنًا		کہ
	ایمان لاتے ہم	۵۹	اَنْذَرْتُمْ
۴۵	مَا هُمْ		اَنْذَرْتُمْ
	نہیں وہ		ڈراتے تو
۴۶	یُحٰدِثُوْنَ		(د ن د س)
	دھوکہ دیتے ہیں	۶۰	اَمْ
	(د خ د ع)		یا
۴۷	اَلَّا	۶۱	لَمْ
	مگر		نہیں
۴۸	اَنْفُسَهُمْ	۶۲	لَا یُؤْمِنُوْنَ
	نفس ان کے۔		نہیں ایمان لائیں گے
	جائیں ان کی		(ا م ن)
	(د ن ف س)	۶۳	خَتَمَ
۴۹	مَا یَشْعُرُوْنَ		مہر لگا دی
	نہیں شعور رکھتے ہیں		دل
	نہیں سمجھتے		(جمع ہے قَلْبُ کی)
۵۰	مَرَضٌ	۶۴	سَمِعْتُمْ
	مرض، روگ		ان کی سماعت،
۵۱	فَ		ان کے کان
۵۲	سَاۤءَ	۶۵	اَبْصَارًا
	زیادہ کیا		آنکھیں، بصیرت
۵۳	اَلِیْمٌ	۶۶	عَسَاۤءَةٌ
	درزناک		پردہ
۵۴	بِمَا	۶۷	وَلَهُمْ
	ساتھ، جو کچھ		اور لے ان کے
۵۵	كَانُوا	۶۸	عَذَابٌ
	تھے		عذاب
	(د کان: تھا)	۶۹	عَظِیْمٌ
			بڑا
			بُحٌّ

پارہ نمبر ۲۳

نمبر شمار عربی	اردو
۸۶	يَكْفُرُونَ بِحُجُوتِ بُولَتِ
	(كذذب)
۸۷	اِذَا جَبَّ
۸۸	قَبِيلٌ كَمَا جَاءَ بِهٖ كَمَا كَانَا
۸۹	لَهُمْ نَسْتَأْذِنُكَ
۹۰	لَا تُفْسِدُوا مَت فَسَادِكُمْ
	(ف س د)
۹۱	فِي الْأَرْضِ يَجْزِيهِمْ
۹۲	قَالُوا كَيْفَ أَخْبِرُونَ
۹۳	أَنَّهُمْ صَرَفُوا حَقِّقَتِ
۹۴	نَحْنُ بِهٖم
۹۵	مُضِلِّحُونَ اِصْلَاحِ كَرِيحِ
	(ص ل ح)
۹۶	أَلَا يَأْتِيهِمْ خَبْرٌ
	خَبْرٌ لَوْ
۹۷	مُفْسِدُونَ فَسَادِكُمْ
	(ف س د)
۹۸	لَكِن لَكِن
۹۹	أَمِنُوا اِيْمَانِ لَاؤ
۱۰۰	كَمَا هِيَ كَمَا
۱۰۱	كَيْفَ

سورة لقمة (۲۳)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۰۲	سَفْهَاءُ بے وقوف
۱۰۳	لَقُوا ملاقات کی
	(ل ق ی)
۱۰۴	أَمِنَّا ايمان لائے ہم
۱۰۵	خَلَوْا خلوت میں ہوتے
	تنہائی میں ہوتے
	(خ ل د)
۱۰۶	شَيْطَانِ شيطان صفت بردار
۱۰۷	مُسْتَهْزِئُونَ ہنسی کرتے ہیں۔
	ٹھٹھا کرتے ہیں
	(ھ س ز ع)
۱۰۸	يَمُدُّ مَدَّت دیتا ہے،
	بڑھاتا ہے، پھینچتا ہے
۱۰۹	طُعْيَانِ شرارت، سرکشی
۱۱۰	يَعْمَهُونَ اندھے ہو کر بہک رہے ہیں۔
	(ع م ح)
۱۱۱	اِشْتَرُوا تھیرا انھوں نے
	(ش س ی)
۱۱۲	صَلَالَةٍ گمراہی
۱۱۳	هُدًى ہدایت

پارہ نمبر ۲۳

نمبر شمار عربی	اردو
۱۱۳	فَمَا پس نہیں
۱۱۵	مَرَّ بِحَتِّ فائدہ مند
	مَآسِرِ بَحْتِ :-
	نفاذ نہ مند ہوتی،
۱۱۶	تَجَارِكُ کاروبار، تجارت
۱۱۷	مُهْتَدِينَ ہدایت والے
۱۱۸	مَثَلٌ مثال
۱۱۹	رَفٌّ جیسے کہ
۱۲۰	الَّذِي وہ شخص جو
۱۲۱	اِسْتَوْدَعَ جلائی، سلگائی، روشن
	کی (وق د)
۱۲۲	نَارٌ آگ
۱۲۳	فَلَمَّا پس جب
۱۲۴	أَضَاءَتْ روشن ہوئی
	(ض و ع)
۱۲۵	حَوْلَهُ اس کے ارد گرد
۱۲۶	ذَهَبٌ لے گیا، چھین لیا
۱۲۷	تَرَكَ چھوڑ دیا
۱۲۸	فِي بچ، میں
۱۲۹	ظَلَمَاتٍ اندھیاری
۱۳۰	لَا يُبْصِرُونَ نہیں دیکھتے (ب ص د)

سورة لقمة (۲۳)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۳۱	صَمٌّ بہرے
۱۳۲	بُكْمٌ گونگے
۱۳۳	عُمَى اندھے
۱۳۴	فَهُمْ پس وہ
۱۳۵	لَا يَرْجِعُونَ نہیں رجوع ہونگے
	(س ج ع)
۱۳۶	أَوْ
۱۳۷	رَفٌّ جیسے کہ
۱۳۸	صَيِّبٌ بارش
۱۳۹	سَمَاءٌ آسمان
۱۴۰	مَرَعِدٌ گرج
۱۴۱	بُوقٌ بجلی
۱۴۲	يَجْعَلُونَ ڈالے لیتے ہیں
۱۴۳	أَصَابِعُ انگلیاں
	(واحد :- اصْبَعٌ)
۱۴۴	أَذَانٌ کان
	(واحد :- أذنٌ)
۱۴۵	صَوَاعِقُ کواکب
	(واحد :- صَاعِقَةٌ)
۱۴۶	حَدَرٌ ڈر
۱۴۷	مَوْتٌ موت

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۱۳۸- مُحِيطٌ	گھیرنے والا
۱۳۹- يَكَادُ	قریب ہے
۱۵۰- يَحْطِفُ	اچک لیتا ہے
	دخ ط ف)
۱۵۱- كَلَمًا	جب بھی
۱۵۲- مَشَوًا	چل پڑے
	(د مش ی)
۱۵۳- إِذَا	جب
۱۵۴- أَظْلَمَ	اندھیرا ہوا
	(ظ ل م)
۱۵۵- قَامُوا	کھڑے ہوئے
۱۵۶- نَوَّ	اگر
۱۵۷- سَاءَ	چاہنا
	(ش ی ع)
۱۵۸- حُلَّ شَيْءٍ	ہر چیز
۱۵۹- قَدِيرٌ	قادر ہے
	ع
۱۶۰- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اءِ لَوْ كُنتُمْ	اے لوگو!
۱۶۱- اءِ عِبُدُوا	عبادت کرو
۱۶۲- رَبَّ	پالنے والا
	(ج ج اءِ ب اءِ ب)

سورہ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۱۶۳- كُمْ	تمہارا
۱۶۴- اَلَّذِي	وہ جس نے
۱۶۵- خَلَقَ	پیدا کیا
۱۶۶- لَعَلَّكُمْ	تا کہ تم،
	شاید تم
	دلعلل شاید
	تا کہ
۱۶۷- تَتَّقُونَ	ڈرو تم
	(وق ی)
۱۶۸- جَعَلَ	بنایا
۱۶۹- لَكُمْ	تمہارے لئے
۱۷۰- اَرْضُ	زمین
۱۷۱- فَرَأَسًا	پھوٹا، فرش
۱۷۲- بِنَاءٍ	عمارت
۱۷۳- اُنزِلَ	اُتارا
	(ن ن ل)
۱۷۴- مَاءٍ	پانی
۱۷۵- اَخْرَجَ	نکالا
	(خ ر ج)
۱۷۶- بِهِ	ساتھ اس کے
۱۷۷- مِنْ	سے

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۱۷۸- ثَمَرَاتٍ	پھل
	(واحد: ثَمْرَةٌ)
۱۷۹- فَلَا تَجْعَلُوا	پس مت بناؤ
	(جَعَلَ: بنا نا)
۱۸۰- اُنذِرْ اَدَا	متقابل، برابر،
	ہم صفت
۱۸۱- اُننم	ہو تم
۱۸۲- تَعْلَمُونَ	تم جانتے ہو
	(عَلِمَ: جاننا)
۱۸۳- اِنِ	اگر
۱۸۴- كُنْتُمْ	ہو تم
۱۸۵- فِي	میں، بیچ
۱۸۶- سَرَابٍ	شک
۱۸۷- نَزَلْنَا	اُتارا ہم نے
	(ن ن ل)
۱۸۸- عَلَيَّ	اوپر
۱۸۹- عِبْدٌ	بندہ
۱۹۰- فَاذْكُرُوا	پس لے آؤ
۱۹۱- سُوْرَةَ	سورت (قرآن کی)
	جمع، سُوْرٌ
۱۹۲- مِثْلِهِ	اسکی مثال، اسکی مثل

سورہ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۱۹۳- وَاذْعُوا	اور پکارو
۱۹۴- شَهْدًا	گواہ، جماعتی
	(واحد: شَهِيدٌ)
۱۹۵- وَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	سوائے اللہ کے
۱۹۶- صِدْقٍ	سچے (واحد: صَادِقٌ)
	مادہ: ص د ق)
۱۹۷- فَا	پس
۱۹۸- اِنِ	اگر
۱۹۹- كُنْتُمْ	نہیں
۲۰۰- تَفْعَلُوْا	تم کر سکو گے
	(ف ع ل)
۲۰۱- لَنْ	نہیں، ہرگز نہیں۔
۲۰۲- اَلَّذِي	وہ جو موت کیلئے
۲۰۳- وَاذْكُرُوا	ابندھن
۲۰۴- هٰذَا	اس کا نمونہ کیلئے
۲۰۵- حِجَابًا	پتھر
۲۰۶- اَصْدَقُ	تیار کردی گئی
۲۰۷- كَاذِبِيْنَ	حق کا انکار کرنے والے
	(واحد: كَاذِبٌ)
۲۰۸- بَشَرٍ	بشارت دے
	(بَشَرٌ: جو بخبری)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۰۹۔ عَمِلُوا	عمل کیا انھوں نے
۲۱۰۔ صَالِحَاتٍ	نیک اچھے
	(نذکر: صَالِحُونَ)
۲۱۱۔ أَنْ	کہ
۲۱۲۔ لَمْ	لئے ان کے
۲۱۳۔ جَنَّتْ	جنت، باغات
	(واحد: جَنَّةٌ)
۲۱۴۔ تَجْرِي	بہتی ہیں، چلتی ہیں
۲۱۵۔ تَحْتِ	نیچے
۲۱۶۔ أَنْهَارٍ	نہریں (واحد: نَهْرٌ)
۲۱۷۔ كَلِمَاتٍ	جب کبھی
۲۱۸۔ مِنْ رِزْقٍ	رزق دئے تھے یا
	رزق دئے جائینگے
۲۱۹۔ ثَمَرَةٍ	میوہ، پھل
	(جمع: ثَمَرَاتٌ)
۲۲۰۔ هَذَا	یہ
۲۲۱۔ أُولَئِكَ	دیتے گئے
۲۲۲۔ مَسْأَلَةً	پتلا جلتا
۲۲۳۔ أَمْزَاجٍ	چوڑے، بیویاں
۲۲۴۔ مَطَهَّرَةً	پاک، صاف،
	ستھرے۔

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۲۵۔ خَلِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے
۲۲۶۔ لَا يَسْتَعِي	نہیں شر مانتا
۲۲۷۔ يَهْوِي مَثَلًا	بیان کرے گا کوئی
	بھی مثال۔
۲۲۸۔ بَعُوضَةٍ	مچھر
۲۲۹۔ نَبَأًا فَوْتَهَا	یا پھر اس سے بھی
	بڑھ کر۔
۲۳۰۔ فَأَمَّا	پس تو
۲۳۱۔ أَنَّهُ	کہ وہ
۲۳۲۔ حَتَّى	حق ٹھیک بات
۲۳۳۔ مَا ذَا	کیسا؟
۲۳۴۔ أَسْرَادٍ	ارادہ کیا
۲۳۵۔ يُضِلُّ	گمراہ کرتا ہے
۲۳۶۔ يَهْدِي	ہدایت کرتا ہے
۲۳۷۔ كَثِيرٍ	بہت سے
۲۳۸۔ إِلَّا	مگر
۲۳۹۔ فَاسْتَعِينِ	فاسق لوگ
	(ف س ق)
۲۴۰۔ يَنْقُضُونَ	ٹوڑتے ہیں
	(ن ق ض)
۲۴۱۔ عَسَلٍ	اقرار۔ وعدہ

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۴۲۔ مِنْ بَعْدِ	اس کے بعد
۲۴۳۔ مَيْثَاقٍ	مضبوط عہد کی پختگی
۲۴۴۔ يَقْطَعُونَ	قطع کرتے ہیں،
	کاٹتے ہیں۔
	(ق ط ع)
۲۴۵۔ أَمَرَ	حکم دیا
۲۴۶۔ يُؤْصَلُ	جوڑنا تعلقات کا
	(د ص ل)
۲۴۷۔ خُسُوفٍ	خسارہ پانے والے
	(خ س ر)
۲۴۸۔ كَيْفَ	کس طرح، کیوں کر؟
۲۴۹۔ أَمْوَاطًا	مردے، بے جان
	(مادہ: م و ت)
۲۵۰۔ فَأَنْهَى كُنُوزَهُمْ	پس جلایا تم کو،
	زندہ کیا۔
۲۵۱۔ ثُمَّ	پھر
۲۵۲۔ تَرْجِعُونَ	لوٹائے جاؤ گے تم
	(س ج ع)
۲۵۳۔ حَتَّى	بنایا
۲۵۴۔ لَكُمْ	لئے تمہارے
۲۵۵۔ جَمِيعًا	سب

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۵۴۔ اِشْتَوَى	متوجہ ہوا، قصر کیا
۲۵۷۔ اِثْمًا	طرف
۲۵۸۔ سَوَى	ٹھیک، درست کیا
۲۵۹۔ هُنَّ	ان کو (نوٹ کیلئے)
۲۶۰۔ سَبَّحَ	سات
۲۶۱۔ سَهْلًا	آسمان
	(واحد: سَهْلَةٌ)
۲۶۲۔ عَلِيمٌ	جاننے والا
	(ع ل م)
	ق
۲۶۳۔ رَبِّكَ	تیرا رب
۲۶۴۔ لِي	لئے
۲۶۵۔ مَلَائِكَةٍ	فرشتے
۲۶۶۔ اِنِّي	بے شک میں
۲۶۷۔ جَاعِلٌ	بنانے والا
۲۶۸۔ خَلِيفَةً	نائب
۲۶۹۔ يَسْفِكُ	بہائے گا
۲۷۰۔ دَمَاءً	خون، لہو
۲۷۱۔ سَبَّحٌ	ہم پاکی بیان
	کرتے ہیں۔
	(س ب ح)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۳۰۔ کَفَرُوا انکار کیا انھوں نے
 مادہ (ک ف ر)
 ۳۳۱۔ كَذَّبُوا بھٹلایا انھوں نے
 (ك ذ ب)
 ۳۳۲۔ اٰیٰتِنَا ہماری آیات
 ۳۳۳۔ اَصْحٰبُ النَّارِ لوگ دوزخ کے
 ۳۳۴۔ نَارُ آگ
 ۳۳۵۔ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسرائیل کے بیٹے
 ۳۳۶۔ اِدْرَاكُور یاد کرو
 ۳۳۷۔ اِدْرَاكُور پورا کرو
 ۳۳۸۔ اِقْرَارُ اقرار
 ۳۳۹۔ اِدْرَابُ میں پورا کروں گا
 ۳۴۰۔ اِيْتَايَ مجھ سے
 ۳۴۱۔ فَارَسُ هَيْبُونَ پس ڈرو مجھ سے
 مادہ (س ر ج ب)
 ۳۴۲۔ اَنْزَلْنٰهُ اتارا میں نے
 ۳۴۳۔ مَّصْرٰتًا تصدیق کرنے والے
 ۳۴۴۔ لِمَا اس کے لئے جو
 ۳۴۵۔ مَعَكُمْ ساتھ تمہارے
 ۳۴۶۔ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا مت ہو جاؤ

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۴۷۔ اَوَّلُ پہلے، اول
 ۳۴۸۔ لَاقِشْتُمْوَا مت خریدنا،
 مت مول لینا
 مادہ (ش س ی)
 ۳۴۹۔ اٰیٰتِنَا میری آیات
 ۳۵۰۔ نَمِنَّا میں
 ۳۵۱۔ قَلِيْلًا تھوڑا
 ۳۵۲۔ لَاقِشْتُمْوَا مت مشکوک کرو،
 غلط ملط مت کرو
 ۳۵۳۔ بَاطِلٌ جھوٹ
 ۳۵۴۔ كَتَمَ چھپانا
 ۳۵۵۔ اَتَيْمُوْا قائم کرو
 ۳۵۶۔ اِمْرًا كُوْرًا رکوغ کرو
 ۳۵۷۔ سِرًا كَيْفِيْنَ چھکنے والے،
 رکوغ کرنے والے
 ۳۵۸۔ اُ كيا ؟
 ۳۵۹۔ تَاْمُرُوْنَ حکم دیتے ہو تم
 مادہ (ا م ر)
 ۳۶۰۔ بَرٌّ نیکی
 ۳۶۱۔ تَنْسَوْنَ بھولتے ہو
 (ن س ی)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۶۲۔ اَنْفُسِكُمْ جانوں تمہاری کو
 مادہ (ن ف س)
 ۳۶۳۔ تَتَّبِعُوْنَ پڑھتے ہو تم
 مادہ (ت ل و)
 ۳۶۴۔ اَفْلا کیا پس نہیں
 ۳۶۵۔ تَعْقِلُوْنَ تم عقل رکھتے ہو
 مادہ (ع ق ل)
 ۳۶۶۔ اِسْتَعِزُّوْا سہارا حاصل کرو
 ۳۶۷۔ لِكَيْدَرُوْا البتہ بہت بڑی،
 بھاری۔
 ۳۶۸۔ خَشِعِيْنَ ڈرنے والے
 (خ ش ع)
 ۳۶۹۔ يَنْظُرُوْنَ خیال کرتے ہیں
 مادہ (ظ ن)
 ۳۷۰۔ اَنْهَمُ کہ وہ
 ۳۷۱۔ مَلْفُوْا ملنے والے
 ۳۷۲۔ سِرًا جَعُوْنَ رجوع ہونے والے
 واپس جانے والے
 مادہ (س ج ع)
 ۳۷۳۔ اَلْ سیرکار، متعلقین
 ۳۷۴۔ فِرْعَوْنَ دُوروی میں ایک
 مفسد بادشاہ کا نام
 ۳۷۵۔ يَسُوْمُوْنَ سخت کلیف پہنچانی
 السَّعِيْرُ

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۷۶۔ اٰتِيْ يٰہ کہ میں نے
 ۳۷۷۔ فَضَّلْتُ فضیلت دی میں نے
 مادہ (ت ض ل)
 ۳۷۸۔ اَوْرُوْا اور ڈرو
 ۳۷۹۔ اَيُّوْمًا دن
 ۳۸۰۔ لَا تَجْرِيْ نہیں جزا دلا سکے گا
 مادہ (ج ر ع)
 ۳۸۱۔ نَفْسٌ جی، نفس، جان
 ۳۸۲۔ عَنِ متعلق
 ۳۸۳۔ لَا يَقْبَلُ نہیں قبول کیا جائیگا
 ۳۸۴۔ شَفَاعَتُهُ شفاعت
 ۳۸۵۔ يُمِّمُوْنَ مدد دے جائیں گے
 مادہ (ن م س)
 ۳۸۶۔ لَا يُوْعَدُ نہیں لیا جائے گا
 بدلہ، معاوضہ
 ۳۸۷۔ نَجْدِيْكُمْ نجات دی تم نے لگو
 مادہ (ن ج و)
 ۳۸۸۔ اَلْ پیر و کار، متعلقین
 ۳۸۹۔ فِرْعَوْنَ دُوروی میں ایک
 مفسد بادشاہ کا نام
 ۳۹۰۔ يَسُوْمُوْنَ سخت کلیف پہنچانی

پارہ نمبر ۳۱

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۳۸۹۔ سُوءَ بُرَا، سخت، بُرائی	۳۸۹۔ سُوْعٌ بُرَا، سخت، بُرائی
۳۹۰۔ عَذَابِ سِزَا، عذاب	۳۹۰۔ عَذَابِ سِزَا، عذاب
۳۹۱۔ ذُجْحٌ ذُجْحٌ کرنا	۳۹۱۔ ذُجْحٌ ذُجْحٌ کرنا
۳۹۲۔ اِبْنَاءٌ بِيْتٌ	۳۹۲۔ اِبْنَاءٌ بِيْتٌ
۳۹۳۔ يَسْتَجِيبُونَ زنده چھوڑ دیتے تھے	۳۹۳۔ يَسْتَجِيبُونَ زنده چھوڑ دیتے تھے
۳۹۴۔ نِسَاءٌ عَوْرَتِينَ	۳۹۴۔ نِسَاءٌ عَوْرَتِينَ
۳۹۵۔ ذِيْ ذَا اِلْكُمُ اور تمہارے اس واقعہ میں۔	۳۹۵۔ ذِيْ ذَا اِلْكُمُ اور تمہارے اس واقعہ میں۔
۳۹۶۔ بِلَاغٌ اَزْمَانِش، امتحان	۳۹۶۔ بِلَاغٌ اَزْمَانِش، امتحان
۳۹۷۔ رَبُّكُمْ تمہارا رب	۳۹۷۔ رَبُّكُمْ تمہارا رب
۳۹۸۔ عَظِيْمٌ بڑا، زبردست	۳۹۸۔ عَظِيْمٌ بڑا، زبردست
۳۹۹۔ اِذْ جب	۳۹۹۔ اِذْ جب
۴۰۰۔ فَرَقْنَا پھاڑا ہم نے	۴۰۰۔ فَرَقْنَا پھاڑا ہم نے
۴۰۱۔ بِكُمْ ساؤھ تمہارے، یا تمہارے لئے، سمندر	۴۰۱۔ بِكُمْ ساؤھ تمہارے، یا تمہارے لئے، سمندر
۴۰۲۔ يَحْرُ غرق کر دیا ہم نے	۴۰۲۔ يَحْرُ غرق کر دیا ہم نے
۴۰۳۔ اَعْرَضْنَا تم دیکھ رہے تھے	۴۰۳۔ اَعْرَضْنَا تم دیکھ رہے تھے
۴۰۴۔ نَظَرُونَ مادہ (نظر م)	۴۰۴۔ نَظَرُونَ مادہ (نظر م)
۴۰۵۔ وَاَعْلَنَّا وعدہ کیا ہم نے	۴۰۵۔ وَاَعْلَنَّا وعدہ کیا ہم نے

پارہ نمبر ۳۲

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۰۶۔ اَمْرٌ بَعِيْنٌ چالیں	۴۰۶۔ اَمْرٌ بَعِيْنٌ چالیں
۴۰۷۔ لَيْلَةٌ لَات (جمع: لَيَالِي)	۴۰۷۔ لَيْلَةٌ لَات (جمع: لَيَالِي)
۴۰۸۔ تَمَّ پھر	۴۰۸۔ تَمَّ پھر
۴۰۹۔ اِتَّخَذْتُمْ بِكُوْلِهِمْ نے	۴۰۹۔ اِتَّخَذْتُمْ بِكُوْلِهِمْ نے
۴۱۰۔ عَجَلٌ مادہ (اخذ)	۴۱۰۔ عَجَلٌ مادہ (اخذ)
۴۱۱۔ مَتَى يَنْدِيْ اس کے بعد سے	۴۱۱۔ مَتَى يَنْدِيْ اس کے بعد سے
۴۱۲۔ ظَالِمُونَ ظلم کرنے والے	۴۱۲۔ ظَالِمُونَ ظلم کرنے والے
۴۱۳۔ عَقُوْنَا معاف کیا ہم نے	۴۱۳۔ عَقُوْنَا معاف کیا ہم نے
۴۱۴۔ وَنِيْ بَعْدَ اِيَّاكَ اس کے بعد	۴۱۴۔ وَنِيْ بَعْدَ اِيَّاكَ اس کے بعد
۴۱۵۔ فَرَقْنَا حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔	۴۱۵۔ فَرَقْنَا حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔
۴۱۶۔ تُوْبُوْا توبہ کرو	۴۱۶۔ تُوْبُوْا توبہ کرو
۴۱۷۔ بَاغِيْ پُروردگار، پیدا کرنے والا	۴۱۷۔ بَاغِيْ پُروردگار، پیدا کرنے والا
۴۱۸۔ حَتَّىٰ یہاں تک کہ	۴۱۸۔ حَتَّىٰ یہاں تک کہ
۴۱۹۔ ذَرِيْ ہم دیکھ لیں	۴۱۹۔ ذَرِيْ ہم دیکھ لیں
۴۲۰۔ جَهَنَّمَ ظاہر، سامنے، کھلم کھلا	۴۲۰۔ جَهَنَّمَ ظاہر، سامنے، کھلم کھلا
۴۲۱۔ صَاعِقَةً بجلی، برق	۴۲۱۔ صَاعِقَةً بجلی، برق

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۲۔ بَعَثَ دوبارہ زندہ کرنا، بھیجتا	۴۲۲۔ بَعَثَ دوبارہ زندہ کرنا، بھیجتا
۴۲۳۔ ظَلَلْنَا سایہ کیا ہم نے	۴۲۳۔ ظَلَلْنَا سایہ کیا ہم نے
۴۲۴۔ عَمَامٌ مادہ (ظلال)	۴۲۴۔ عَمَامٌ مادہ (ظلال)
۴۲۵۔ اَلْمَنُّ بادل، بدلی اس کے لفظی معنی احسان کے ہیں	۴۲۵۔ اَلْمَنُّ بادل، بدلی اس کے لفظی معنی احسان کے ہیں
۴۲۶۔ اِسْرَائِيْلُ لیکن یہاں بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد خدا کی طرف سے	۴۲۶۔ اِسْرَائِيْلُ لیکن یہاں بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد خدا کی طرف سے
۴۲۷۔ اَسْمَانٌ آسمان سے ایک	۴۲۷۔ اَسْمَانٌ آسمان سے ایک
۴۲۸۔ قِسْمٌ کھانا دیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے جو مانند دھنیا تھا۔	۴۲۸۔ قِسْمٌ کھانا دیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے جو مانند دھنیا تھا۔
۴۲۹۔ سَلَوٰى بٹیر	۴۲۹۔ سَلَوٰى بٹیر
۴۳۰۔ كَلُوْا کھاؤ	۴۳۰۔ كَلُوْا کھاؤ
۴۳۱۔ طَيِّبَاتٌ پاک، صاف ستھری (ط ی ب)	۴۳۱۔ طَيِّبَاتٌ پاک، صاف ستھری (ط ی ب)
۴۳۲۔ ظَلَمُوا ظلم کیا، نقصان کیا	۴۳۲۔ ظَلَمُوا ظلم کیا، نقصان کیا
۴۳۳۔ لِحْنٌ لیکن	۴۳۳۔ لِحْنٌ لیکن
۴۳۴۔ هَلٰلٌ اس، یہ	۴۳۴۔ هَلٰلٌ اس، یہ
۴۳۵۔ قَرِيْبٌ بستی، گاؤں، قریب	۴۳۵۔ قَرِيْبٌ بستی، گاؤں، قریب
۴۳۶۔ حَيْثُ جہاں کہیں، جس جگہ	۴۳۶۔ حَيْثُ جہاں کہیں، جس جگہ
۴۳۷۔ شَيْئٌ جابہوت	۴۳۷۔ شَيْئٌ جابہوت
۴۳۸۔ اِسْرَاعٌ بآزغیت، سیر ہو کر	۴۳۸۔ اِسْرَاعٌ بآزغیت، سیر ہو کر
۴۳۹۔ دَرَوٰهٌ دروازہ	۴۳۹۔ دَرَوٰهٌ دروازہ
۴۴۰۔ سَجْدٌ سجدہ کرتے ہوئے	۴۴۰۔ سَجْدٌ سجدہ کرتے ہوئے
۴۴۱۔ قَوْلٌ کہو تم	۴۴۱۔ قَوْلٌ کہو تم
۴۴۲۔ حِطَّةٌ معاف کر	۴۴۲۔ حِطَّةٌ معاف کر
۴۴۳۔ تَعْفُوْرٌ ہم معاف کریں گے	۴۴۳۔ تَعْفُوْرٌ ہم معاف کریں گے
۴۴۴۔ خَطَايَاكُمْ خطائیں تمہاری	۴۴۴۔ خَطَايَاكُمْ خطائیں تمہاری
۴۴۵۔ عَنَقِيْبٌ جلدی	۴۴۵۔ عَنَقِيْبٌ جلدی
۴۴۶۔ نَزِيْرٌ ہم زیادہ دیں گے	۴۴۶۔ نَزِيْرٌ ہم زیادہ دیں گے
۴۴۷۔ نِيْ دے	۴۴۷۔ نِيْ دے
۴۴۸۔ مُّحْسِنِيْنَ نیک لوگ، احسان کرنے والے	۴۴۸۔ مُّحْسِنِيْنَ نیک لوگ، احسان کرنے والے
۴۴۹۔ فِىٰ پس	۴۴۹۔ فِىٰ پس
۴۵۰۔ اِيْدَالٌ بدل دیا	۴۵۰۔ اِيْدَالٌ بدل دیا
۴۵۱۔ مَرْجَا عذاب	۴۵۱۔ مَرْجَا عذاب

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲۹)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۴۸- يَسْأَلُونَ	بے حکمی کرتے ہیں
۲۴۹- اسْتَسْقَى	پانی مانگا
۲۵۰- اِضْرِبْ	مار
۲۵۱- عَصَا	(مصدر: ضَوْبُ) لکڑی، لاکھی
۲۵۲- حَجْرٍ	پتھر
۲۵۳- اِنْفَجَرَتْ	بہ نکلے (فج س)
۲۵۴- اِنْتَأَسْرَتْ	بارہ عدد
۲۵۵- عَيْنًا	چشمہ
۲۵۶- تَدْرُ	(جمع: عَيْنُونَ) تحقیق
۲۵۷- عَلِمَ	جان لیا
۲۵۸- كُلُّ	(ع ل م) سب
۲۵۹- اِنَّا سَأَلْنَا	لوگ
۲۶۰- مَسْرُبٍ	پانی پینے کی جگہ، گھاٹ
۲۶۱- كَلْبًا	کھاؤ
۲۶۲- اِشْرَاقًا	پیر (ش س ب)

سُورَةُ بَقَرَةَ (۳۰)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۶۳- لَا تَعْتَوُوا	مت نکلو، مت پھرو
۲۶۴- طَعَامٌ	کھانا
۲۶۵- وَاِجِدْ	ایک (عدد)
۲۶۶- فَادْعُ	پس پکار
۲۶۷- لَنَا	لئے ہمارے
۲۶۸- يُخْرِجْ	نکالے
۲۶۹- تَذُنُّ	(خ س ج) اگاتی ہے
۲۷۰- بَقُلْ	(ن ب ت) ساگ، ترکاری
۲۷۱- قَشَاءٌ	گلڑی
۲۷۲- فَوْمٌ	گیہوں
۲۷۳- عَدَسٌ	مسور (دال)
۲۷۴- بَصَلٌ	پیاز
۲۷۵- تَسْتَبْدِلُونَ	تبدیلی چاہتے ہو
۲۷۶- اَذُنِي	(ب د ل) ادنیٰ، کم تر
۲۷۷- حَيْوٌ	بہتر

سُورَةُ بَقَرَةَ (۳۱)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۲۷۸- مِصْرٍ	شہر
۲۷۹- سَأَلْتُمُ	سوال کیا تم نے
۲۸۰- ضُيِّبَتْ	ماری گئی، ڈالی گئی
۲۸۱- ذِقَّةٌ	پستی، ذلت
۲۸۲- مَسْكَنَةٌ	بے چارگی، محتاجی
۲۸۳- بَاءٌ	مستحق ہوئے
۲۸۴- يَفْتَلُونَ	قتل کرتے تھے
۲۸۵- نَبِيَّيْنِ	نبی: اَنبِيَاءُ (د واحد: نَبِيٌّ)
۲۸۶- عَصَوًا	نافرمانی کی
۲۸۷- يَعْتَدُونَ	(مصدر: عَصِيَانٌ) زیادتی کرتے تھے
۲۸۸- هَادِدًا	یہودی ہوئے
۲۸۹- نَهْرَانِ	نہرائی:
۲۹۰- صَابِغِينَ	بے دین، ستارہ پرست
۲۹۱- يَوْمِ الْاٰخِرَةِ	دن آخرت کا
۲۹۲- عَمِلَ	عمل کیا
۲۹۳- صَالِحًا	نیک
۲۹۴- اَجْرُهُمْ	اجران کا
۲۹۵- عِنْدَ	نزدیک
۲۹۶- حَزِينٍ	غمگین ہونا
۲۹۷- اَخْلَانًا	لیا ہم نے
۲۹۸- مِيثَاقًا	اقرار
۲۹۹- سِرًّا	بلند کیا ہم نے (س ر ف ع)
۳۰۰- فَوْقَ	ادپر
۳۰۱- طَوْرًا	پہاڑ
۳۰۲- تَوَلَّيْتُمْ	پھر گئے تم
۳۰۳- لَوْ	اگر
۳۰۴- لَقَدْ	البتہ، تحقیق
۳۰۵- اِعْتَلُوا	حد سے نکلے
۳۰۶- اَلَسَبْتُمْ	ہفتہ کا دن
۳۰۷- قَرَادَةً	بندر
۳۰۸- خَاسِرِينَ	ذلیل، دھتکارے ہوئے
۳۰۹- نَكَالًا	عبرت، دہشت
۳۱۰- بَيْنَ يَدَيْ سَاعِنَةٍ	اگے
۳۱۱- خَلْفَ	پیچھے

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی آردد
 ۵۱۲- مَوْعِظَةً نَّصِيحَاتٍ (دوعظ)
 ۵۱۳- يَا مَرْءُ عِلْمٌ دِيْتَا بِي (ام س)
 ۵۱۴- اَنْ كِه
 ۵۱۵- بَقْرَةَ غَاثِي بِيَل
 ۵۱۶- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۱۷- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۱۸- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۱۹- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۲۰- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۲۱- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۲۲- اَلَا نَا بَرَضٌ نَبُو رَهِي بُو
 ۵۲۳- بِحَكْرُ بِن بِيَا بِي
 ۵۲۴- عَوَانُ دَر مِيَا نِي
 ۵۲۵- اِفْعَلُوَا كَرُو
 ۵۲۶- مَا تَوَكَّجُ
 ۵۲۷- تَوَمَّزُونَ تَم قَلَم دِي تَا بِي
 ۵۲۸- تَوَذَّعُوا اس كَار نَك
 ۵۲۹- صَفْرَاءُ زَرْد رَنُگ (جج: اَلْوَانُ)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی آردد
 ۵۳۰- فَاقِعٌ كِه رَا، بِي ت كِه رَا
 ۵۳۱- قَسْرٌ خُوش نَكَا، سُرُور
 ۵۳۲- نَظْرَيْنِ دِي كِه وَالِي
 ۵۳۳- نَشَابَةٌ مَشْتَبِه بِيُونَا، كَسِي
 ۵۳۴- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۳۵- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۳۶- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۳۷- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۳۸- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۳۹- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۴۰- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۴۱- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۴۲- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۴۳- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۴۴- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۴۵- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۴۶- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۴۷- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۴۸- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۴۹- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۵۰- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۵۱- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۵۲- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۵۳- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۵۴- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۵۵- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۵۶- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۵۷- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۵۸- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۵۹- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۶۰- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۶۱- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۶۲- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۶۳- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۶۴- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۶۵- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۶۶- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۶۷- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۶۸- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۶۹- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۷۰- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۷۱- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۷۲- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۷۳- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۷۴- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۷۵- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۷۶- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۷۷- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۷۸- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۷۹- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۸۰- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۸۱- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۸۲- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۸۳- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۸۴- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۸۵- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۸۶- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۸۷- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۸۸- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۸۹- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۹۰- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۹۱- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۹۲- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۹۳- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۵۹۴- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ
 ۵۹۵- اَعْوَدُ فِي سِنَاهُ يَاجُتَاهِي
 ۵۹۶- اُدْعُ يَكَارُتُو
 ۵۹۷- يُّبَيِّنُ بِيَانُ كَرِي
 ۵۹۸- مَا هِيَ كَيْسِي هُو؟
 ۵۹۹- يَقُولُ وَه كِه تَا بِي
 ۶۰۰- هُزُوًا نِزَاقٌ مَضْحَكٌ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی آردد
 ۵۴۱- اَلَيْسَ اب
 ۵۴۲- جِئْتُمْ اَيَا تُو، لَيَا تُو
 ۵۴۳- مَا كَا دُوَا نَزْرِيْب تَهِي،
 ۵۴۴- لَكِي تَهِي سِي تَهِي
 ۵۴۵- قَتَلْتُمْ قَتْلُ كِيَا تَم نِي
 ۵۴۶- اِدْرِعْتُمْ تَالَا تَم نِي، اِي ك
 ۵۴۷- دُو سَرِي پَر تَالَا نَا
 ۵۴۸- مُخْرَجٌ نَكَا نِي وَالَا
 ۵۴۹- تَكْتُمُونَ تَم كِه پِيَا تِي بُو
 ۵۵۰- بَعْضُهَا سَا تَهِي بَعْضُ اس كِي
 ۵۵۱- كُنْ اِي لَك اِي سِي طَرِح
 ۵۵۲- يُحْيِي زَنْدِه كَر تَا بِي
 ۵۵۳- مَوْتِي مَرُو سِي
 ۵۵۴- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۵۵- يُوْرِكُمْ دَكَا تَا بِي تَم كُو
 ۵۵۶- اِيَا تِ نَشَا نِيَا

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی آردد
 ۵۵۴- قُلُوبٌ دِل
 ۵۵۵- قَفْ پَس
 ۵۵۶- هِيَ دِه
 ۵۵۷- لَفْ جِي سِي كِه
 ۵۵۸- حِجَارَةً پَتَهَر (وَاحِد: حَجَرٌ)
 ۵۵۹- اُو يَا
 ۵۶۰- اَنْشَدُ زِيَا دِه سَخْت
 ۵۶۱- قَسُوَا سَخْت (ق س و)
 ۵۶۲- كَمَا اَلْبَتَّة، تُو كِه
 ۵۶۳- يَنْفَجِرُو پَهْ كِ تَكْتِي سِي
 ۵۶۴- اَنْهَاس نِه رِي سِي
 ۵۶۵- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۶۶- يَسْفِقُ جَا كِ هُونَا،
 ۵۶۷- تَكْرَمِي تَكْرَمِي هُونَا
 ۵۶۸- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۶۹- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۰- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۱- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۲- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۳- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۴- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۵- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۶- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۷- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۸- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۷۹- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۰- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۱- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۲- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۳- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۴- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۵- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۶- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۷- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۸- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۸۹- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۰- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۱- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۲- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۳- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۴- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۵- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۶- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۷- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۸- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۵۹۹- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي
 ۶۰۰- اَلَيْسَ اِي كِي تَهِي

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۷۹۔ يَهْبِطُ گر پڑتا ہے،
 لڑھک جاتا ہے
 ۵۸۰۔ خَشِيَ اللَّهُ ڈر اللہ کا
 ۵۸۱۔ اَنْظَمُونَ کیا پس تم چاہتے ہو
 (ط م ع)
 ۵۸۲۔ طَبَعَ چاہنا
 ۵۸۳۔ اِنْ کہ
 ۵۸۴۔ قَدْ تحقیق
 ۵۸۵۔ فَرِحْنَا گروہ، ٹوٹی
 ۵۸۶۔ يَحْرِيحُونَ بدل دالتے ہیں،
 تحریف کرتے ہیں۔
 ۵۸۷۔ عَقَلُوا سمجھا انھوں نے
 ۵۸۸۔ لَقُوا ملاقات کرتے ہیں
 ۵۸۹۔ قَالُوا کہا انھوں نے
 (مصدر: قَوْلٌ)
 ۵۹۰۔ اٰمَنَّا ایمان لائے ہم
 ۵۹۱۔ خَلَا غلوت میں ہوا
 (مصدر: خَلَوْتُ)
 ۵۹۲۔ دَخَلْتُمُوْنَ تم میان کرتے ہو
 ۵۹۳۔ بَيَّنَّا ساتھ جو کچھ
 ۵۹۴۔ نَتَجَّ کھولا

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۸۵۔ عَلَيْنَا اور تمہارے
 ۵۸۶۔ يَحَاجُّونَ جھکوں وہ محبت کریں
 ۵۸۷۔ يُسْرُونَ چھپاتے ہیں
 (سیر: راز: واحد
 جمع: اَسْرَاءُ)
 ۵۸۸۔ يُعَلِّقُونَ ظاہر کرتے ہیں
 (مصدر: اَعْلَانٌ)
 ۵۸۹۔ اُمِّيُونَ اُن پڑھ لوگ
 ۵۹۰۔ اِلَّا مگر
 ۵۹۱۔ اَمَانِيٌّ آرزوئیں، باطل خیالات
 ۵۹۲۔ اِنْ نہیں اس کے بعد اِلَّا
 آئے تو معنی ہونگے نہیں
 ورنہ عام طور پر معنی
 اگر کے ہوتے ہیں۔
 النصف
 ۵۹۳۔ دَيْلٌ ہلاکت، بربادی
 ۵۹۴۔ يَكْتُمُونَ لکھتے ہیں رک ت ب
 ۵۹۵۔ اَيَّدِيْهِمْ ہاتھ اُن کے
 (واحد: يَدٌ)
 ۵۹۶۔ ثَمَنًا قیمت،
 مول

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۷۔ يَكْتُمُونَ کھاتے ہیں
 (رک س ب)
 ۵۹۸۔ رَجُ ہرگز نہیں
 ۵۹۹۔ تَمَسَّنَا چھوتے گی ہم کو
 (م س س)
 ۶۰۰۔ اَيَّامًا دن
 (واحد: يَوْمٌ)
 ۶۰۱۔ مَعْدُودَةٌ گنتی کے دن
 ۶۰۲۔ قُلْ کہہ دے
 ۶۰۳۔ عَهْدٌ قول، معاہدہ
 ۶۰۴۔ يُخَلِّفُ خلائف کرے گا
 ۶۰۵۔ اَمْ یا
 ۶۰۶۔ بَلَى ہاں، کیوں نہیں،
 ضرور
 ۶۰۷۔ مِّنْ جو شخص
 ۶۰۸۔ كَسْبٌ کمایا
 (رک س ب)
 ۶۰۹۔ سَيِّئَةٌ بُرائی، بدی
 (جمع: سَيِّئَاتٌ)
 ۶۱۰۔ اِحْاطَتْ گھیرے میں ہے جی
 (مصدر: اِحْاطَةٌ)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۶۱۱۔ خَطِيئَاتٌ خطائیں
 (جمع: خَطِيئَاتٌ)
 ۶۱۲۔ وَاٰلِآئِنَ مَا بَاب
 ۶۱۳۔ ذِي الْقُرْبَىٰ قریب والے
 ۶۱۴۔ يَتَّخِي شیموں
 (واحد: يَتَّخِي)
 ۶۱۵۔ مَسْكِينٌ مسکین
 ۶۱۶۔ قَوْلُوا کہو
 ۶۱۷۔ حَسَنًا اچھی بات
 ۶۱۸۔ اَقْبَمُوا قائم رکھو
 ۶۱۹۔ اَلْوَدُودُ دو
 ۶۲۰۔ زَكَاةً زکوٰۃ
 ۶۲۱۔ تَوَكَّلْنَاهُمْ پھر گئے تم
 ۶۲۲۔ قَلِيلًا تھوڑا، تھوڑے
 ۶۲۳۔ مِنْكُمْ تم میں سے
 ۶۲۴۔ اَنْتُمْ ہو تم
 ۶۲۵۔ مَعْرُضُونَ منہ پھیرنے والے
 ۶۲۶۔ ذِي اَسْرٍ گھر
 (واحد: دَاسْرٌ)
 ۶۲۷۔ اَقْرَبْتُمْ اقر کیا تم نے

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۶۲۸۔ تَسْتَهْدُونَ تَمَّ كَوَاهِ هُو
 ۶۲۹۔ هُوَ لَأَعْرَافٍ يَهُودِيٌّ
 ۶۳۰۔ تَطَهَّرُوا مِنْ مَرَدِّكَ رِي كَرْتَهُ هُو
 اِذَا كَرْتَهُ هُو
 (نظراس)
 ۶۳۱۔ اِنَّهُمْ كَانُوا
 ۶۳۲۔ عَنِ دَانَ زِيَادِي
 ۶۳۳۔ يَأْتُو كُمْ آتَى هِي تَمَّ بَارَى
 پَاس۔
 ۶۳۴۔ اُنْهَى قِيَدِي
 ۶۳۵۔ تَفَلُّدُ فَرِي دِي تِي هُو
 (د ف د ی)
 ۶۳۶۔ مَحْرَمٌ حَرَامٌ كِيَا كِيَا
 ۶۳۷۔ فَمَا يَسُّ كِيَا
 ۶۳۸۔ جَزَاءُ بَدَلَةٌ جَزَاءُ سَمْرَا
 ۶۳۹۔ مَنْ جَوَّضَ
 ۶۴۰۔ يَفْعَلُ كَرَى دِي فَعْلُ
 ۶۴۱۔ نِزْوَانِي رُسْوَانِي
 ۶۴۲۔ حِيلُو زَنْدُ كِي
 ۶۴۳۔ يُوَدِّدُونَ پِھرے جَاتِيں گے
 ۶۴۴۔ اِلَى طَرْفِ

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۶۴۵۔ اَنْتُمْ بَهْتٌ سَخْتٌ
 ۶۴۶۔ وَمَا اَدْرَا نِيْسِي
 ۶۴۷۔ عَمَّا اِسْ جِيْزِي سِي جُو كِي
 ۶۴۸۔ يَخْفَفُ بَلَا كِيَا جَاتِيں گے
 ۶۴۹۔ يَنْصُرُوْنَ مَرْدُو دِي جَاتِيں گے
 (نظراس)
 ۶۵۰۔ لَقَدْ اَلَيْتُمْ بَحِيْقِيْنَ
 بَلَا شَبِيْهٍ يَقِيْنًا
 ۶۵۱۔ اِنِّيْنَا دِيَا هَمَّ نِي
 ۶۵۲۔ قَقِيْنَا تِجْجِي لَآئِي هَمَّ
 (د ق ف ی)
 ۶۵۳۔ اِبْنُ مَرْيَمَ بِيْشَامَرِيْمِ كَا
 ۶۵۴۔ يَبِيْنَتِ رُوْشِنِ دِلَالِيْ
 وَافِحٌ صَافِ صَافِ
 نَشَانِيَاں۔
 ۶۵۵۔ اَيُّدُنَا تَا تِيْدِي كِي هَمَّ نِي
 مَرْدُ كِي هَمَّ نِي
 ۶۵۶۔ رُسُلٌ رُسُوْلِي كِي جَمْعِ
 بَهْتِ سِي رُسُوْلِي
 ۶۵۷۔ رُوْحُ الْقُدُسِ رُوْحِ پَاكِ دَهْرَتِ
 جَبْرِيْلِ عَلِيْلَتِ سَلَامِ

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۶۵۸۔ اَنْتُمْ كِيَا پَاسِ
 ۶۵۹۔ كَلِمًا جَبْتِي جَبْتِي جَبْتِي
 ۶۶۰۔ جَاءَ اَيَا
 ۶۶۱۔ رُسُوْلٌ بِيْنِيْعِيْلِيْلَتِ سَلَامِ
 (جَمْعِ رُسُوْلِي)
 ۶۶۲۔ لَآ تَهْتَوِيْ نِيْسِي جَاتِيں تَمَّ
 ۶۶۳۔ اَنْفُسَكُمْ جِي تَمَّ بَارَا
 (د ن ف س)
 ۶۶۴۔ اِسْتَلْزِمُوْكُمْ تِكْرِيَا تَمَّ نِي
 ۶۶۵۔ فَرِيْقًا اِيْكُ كَرُوْهِي كُو
 ۶۶۶۔ تَقْتُلُوْنَ قَتْلُ كِيَا تَمَّ نِي
 (د ق ت ل)
 ۶۶۷۔ قَاتِلُوْا كِيَا اُنْهُوں نِي
 ۶۶۸۔ قُلُوْبٌ دِل
 (وَاحِدٌ قَلْبٌ)
 ۶۶۹۔ غُلْفٌ غَلَا فِ مِيں مِيں
 مَحْفُوْظِ مِيں
 ۶۷۰۔ بَلَى بَلَكِي
 ۶۷۱۔ لَعْنٌ لَعْنَتِ كِيَا
 ۶۷۲۔ هُمْ اِن كُو
 ۶۷۳۔ لَمَّا جَبْتِي
 ۶۷۴۔ مَصَدَّقٌ تَصْدِيْقِ كَرْنِي دَالِي
 ۶۷۵۔ لِيَا مَعْهَهُمْ لِيَا اِسْ جِيْزِي كِي جُو
 جِي سَا تَمَّ اِن كِي
 ۶۷۶۔ يَسْتَعْمِلُوْنَ فِتْحِ جَاتِي تَمَّ
 مَادَّةِ (د ف ت ح)
 ۶۷۷۔ مَا عَرَفُوْا جُو كِي جِي پِيَا نَا
 ۶۷۸۔ يَنْسِيْمًا كِيَا بَرَا بَهْتِ بَرَا
 ۶۷۹۔ اِسْتَوْدَا پِيَا اُنْهُوں نِي
 ۶۸۰۔ اَنْ كِي
 ۶۸۱۔ يَكْفُرُوْا اِنْكَارِ كِيَا اُنْهُوں نِي
 ۶۸۲۔ بَغِيًّا مَرْكُشِي بَغَاوَتِ
 ۶۸۳۔ بَاغُوْدٌ مَسْتَحِي هُو تِي
 ۶۸۴۔ مُهَيِّنٌ رُسُوْلِي كَرْنِي دَالَا
 ۶۸۵۔ دَرَسًا سَوَاتِي
 ۶۸۶۔ لِيْمًا كِيُوں ؟
 ۶۸۷۔ اَنْبِيَاءُ اللّٰهِ اَنْبِيَا اللّٰهِ كِي
 (وَاحِدٌ نَبِيٌّ)
 ۶۸۸۔ عَجَلٌ كِجْجِي
 ۶۸۹۔ رُسُوْلًا بَلَنْدِ كِيَا هَمَّ نِي
 مَادَّةِ (د س ف ع)
 ۶۹۰۔ فَوْقَ اُو پَرِ

پارۃ مبارکہ (۳)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۶۹۱- طُورِ پُہاڑ	۶۹۱- طُورِ پُہاڑ
۶۹۲- حُنُوزِ لُوپُکُھُو	۶۹۲- حُنُوزِ لُوپُکُھُو
۶۹۳- یَقُوتِ سَاثِہِ قُوتِ کِے	۶۹۳- یَقُوتِ سَاثِہِ قُوتِ کِے
۶۹۴- وَاسْمَعُوْا اَوْسُنُو	۶۹۴- وَاسْمَعُوْا اَوْسُنُو
۶۹۵- عَصِيْنَا	(س م ع) نہ مانا ہم نے، نہ ہو سکے گا ہم سے
۶۹۶- اَشْيُوْا	پلا دیے گئے، پلا دی گئی۔
۶۹۷- يَا مُرُ	(س م ب) حکم دیتا ہے
۶۹۸- اِنْ كَانَتْ	اگر ہے
۶۹۹- اَلَّذِيْ اَرَا اَلْاٰخِرَةَ	گھر آخرت کا
۷۰۰- عِنْدَ اللّٰهِ	نزدیک اللہ کے
۷۰۱- خَالِصَةً	خالص
۷۰۲- مِنْ رُؤْيَا نَبِيٍّ	سوائے اول لوگوں کے
۷۰۳- كَتَبُوْا	تمنا کرو
۷۰۴- اَبَدًا	کبھی
۷۰۵- قَدْ مَاتَ	اگے بیچھا
۷۰۶- اَيُّدِيْہِمُ	ہاتھ ان کے
۷۰۷- عَلِيْمٌ	جاننے والا

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۷۰۸- لَتَجِدَنَّ	البتہ پائے گا تو
۷۰۹- اٰخِرَ صَیْرَتِہِ	بہت حریص
۷۱۰- حَيٰوَةِ	زندگی
۷۱۱- اَشْرٰکُوْا	جنہوں نے شرک کیا
۷۱۲- یُوَدُّ	چاہتا ہے
۷۱۳- اٰخِلٌہُمْ	ایک ایک ان میں کا، ہر ایک ان کا
۷۱۴- لَوْ	اگر
۷۱۵- یُعْمَرُ	عمر دیا جائے
۷۱۶- اَلْفِ	ہزار
۷۱۷- سَنَةٍ	برس
۷۱۸- مَا هُوَ	نہیں وہ
۷۱۹- مُخْرَجٌ	دور کرنا، ہٹانا
۷۲۰- یَبْصُرُوْا	دیکھنے والا
۷۲۱- عَدُوٌّ	دشمن
۷۲۲- اِذْیَنْ	حکم
۷۲۳- بَشٰرَتِہِ	بشارت، خوشخبری
۷۲۴- جِبْرِیْلِ	جبریل علیہ السلام
	فرشتوں کے سردار

پارۃ مبارکہ (۳)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۷۲۵- مِیْکَانَ	ایک عظیم المرتبت
۷۲۶- فَاَسْبِقُوْنَ	بیکار، فاسق لوگ
۷۲۷- نَبِیْنًا	پھینک دیا
۷۲۸- اُوْدُوْا	دے گئے
۷۲۹- وَاٰیٰتِہِ	پہنچے
۷۳۰- ظُہُورِہِ	(خَلْفَ کِے معنی میں)
۷۳۱- کَانَہُمْ	پیشہ (واحد: ظہر)
۷۳۲- لَا یَخْفٰیہُمْ	جیسے کہ وہ، گویا کہ وہ
۷۳۳- اَتَّبِعُوْا	اور اتباع کیا
۷۳۴- مَا	جو کچھ (مَا مَوْجُوْبِہِ)
۷۳۵- تَتَلَوْنٰ	پڑھتے تھے
۷۳۶- مُلْکٌ	(تِلَاوَةِ) مصدر، بادشاہی، حکومت
۷۳۷- لٰجِنٌ	لیکن
۷۳۸- یَعْمُرُوْنَ	سکھاتے تھے
	(مصدر: تَعْلِمٌ)

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۷۳۹- سِحْرٌ	جادو
۷۴۰- مَمْلٰکِیْنِ	دو فرشتے (تثنیہ، واحد: مَلٰکٌ)
۷۴۱- بَابِلَیْنِ	ایک شہر کا نام
۷۴۲- هٰذَا ذُوْا مَادِیْنِ	دو فرشتوں کے نام
۷۴۳- مَا	جو کچھ (موصولہ)
۷۴۴- مِنْ اٰخِلٍ	کسی ایک کو
۷۴۵- حٰثِی	یہاں تک کہ
۷۴۶- یَقُوْلُوْا	کہا ان دونوں نے
۷۴۷- اِنَّمَا	(مصدر: قَوْلٌ)
۷۴۸- نَحْنُ	در اصل ہم
۷۴۹- فِیْنٰتِہِ	آزمائش
۷۵۰- لَا تَكْفُرُ	کفر مت کر
۷۵۱- یَتَعَمَّرُوْنَ	(فعل ہی) سیکھتے تھے وہ
۷۵۲- مِنْہُمَا	(مصدر: تَعَلَّمَ) ان دونوں سے
۷۵۳- یُعْرِیْوْنَ	جدائی ڈالتے ہیں
۷۵۴- تَقَرَّبٰی	(مصدر: تَقَرَّبٰی) ساتھ اس کے

پارہ نمبر ۲۲

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۷۵۵- یٰبَیْنَ	درمیان، بیچ
۷۵۶- اَلْمُرْجُو	آدمی
۷۵۷- مَرُوحٌ	جوڑا، بیوی
۷۵۸- مَا هُمْ	نہیں وہ
۷۵۹- مَضْرِبَیْنِ	ضرر پہنچانے والے
	(واحد: مَضْرِبٌ)
۷۶۰- مَا	جو کچھ
۷۶۱- یُضْرَبُ	تقصان پہنچاتی ہے اُن کو۔
	(ص س ص)
۷۶۲- تَنْفَعُ	نفع دینا
	(ن ف ع)
۷۶۳- عَلَمٌ	جاننا اُنھوں نے
۷۶۴- لَمَنِ	البتہ جو
۷۶۵- اِسْتَدْرٰی	خریدا، مول لیا
۷۶۶- مَا لَهٗ	نہیں لئے اُس کے
۷۶۷- خَلَاقٌ	حصہ
۷۶۸- لِّسٰنٌ	البتہ برا ہے
۷۶۹- شَرٌّ	بیچا اُنھوں نے
۷۷۰- اَنْهَمُ	کہ وہ
۷۷۱- مَتَّوْبَةٌ	ثواب

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۷۷۲- حٰیذٌ	بہتر
	پہنچ
۷۷۳- سَرَّاعِنَا	رعایت کرتا رہی
	کسی بات کو سمجھنے کیلئے
	بات کہنے والے کے
	ساتھ کہا جاتا ہے۔
	نبی کریم صلی اللہ علیہ
	وسلم کے ساتھ بوقت
	تقریر یہودی لوگ
	جب اس لفظ کو شراعت
	سے زبان باکر سرائعنا
	کہتے تھے جس کے
	معنی ہوتے ہیں ہمارا
	چرواہا۔ تبارک و تعالیٰ
	نے مسلمانوں کو حکم دیا
	کہ بجائے اس لفظ کے
	وہ اَنْظُرْنَا کہا کریں
	تاکہ یہودیوں کو شرارت
	کا موقع نہ ملے اور
	معنی بھی دونوں لفاظ
	کے قریب قریب یکساں ہیں

پارہ نمبر ۲۲

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	
۷۷۴- اَنْظُرْنَا	انتظار کرو ہمارا،	
	ذرا ٹھہر جاؤ	
	(اصل معنی: دیکھنا)	
۷۷۵- مَا كُوْنُوْا	نہیں چاہتا ہے،	
	نہیں دوست رکھتا	
	ہے۔	
۷۷۶- يَخْتَصُّ	خاص کرتا ہے،	
	مخصوص کرتا ہے	
	(خ ص ص)	
۷۷۷- مَنِ يَشَاءُ	جس کو چاہتا ہے	
	۷۷۸- ذُو الْفَضْلِ	فضل والا
	۷۷۹- عَظِيْمٌ	بڑا زبردست
	۷۸۰- نَسَخَ	ہم موقوف کرتے ہیں
	(ن س خ)	
۷۸۱- اَوْ	یا	
۷۸۲- فَاتٍ	ہم لے آتے ہیں	
	دُعا کے صلہ میں	
	ب آئے تو لانے کے	
	معنی ہوتے ہیں ورنہ	
	آنے کے معنی	
نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	
۷۸۳- اَلَمْ	کیا نہیں؟	
۷۸۴- تَقَلَّمُ	جانتا تو	
۷۸۵- ذُوْنَ اللّٰهِ	سوا اللہ کے	
۷۸۶- وِرْثِيْ	دوست	
	(جمع: اَوْلِيَاءُ)	
۷۸۷- نَصِيْرٌ	مددگار	
	(نَصْرًا يَنْصُرُ)	
۷۸۸- اَمْ تَوَدُّوْنَ	کیا ارادہ کرتے ہو	
۷۸۹- تَسْأَلُوْا	سوال کرو	
۷۹۰- كَمَا	جیسا کہ	
۷۹۱- سِئِلَ	سوال کیا گیا	
۷۹۲- يَتَّبِعُوْنَ	بدل ڈالا،	
	تبدیل کر دیا	
	(ب د ل)	
۷۹۳- سَوَاءٌ	سیدھی راہ	
۷۹۴- وَاَوْ	چاہا	
۷۹۵- كَثِيْرٌ	بہت	
۷۹۶- اَوْ	اگر	
۷۹۷- تَبَيَّنَ	ظاہر ہوا، بیان ہوا	
	(ب ی ن)	

بَارَةُ نَبِيٍّ

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۷۹۸- عَفُوٌّ	درگذر کرنا،
	خیال میں نہ لانا
۷۹۹- صَفَحَ	کنارہ کش ہونا
۸۰۰- يَأْتِي	لا دے
۸۰۱- أَمْرٌ	حکم
	(جمع أُمُور: اَدَاوِر)

الثَلَاثَةُ

۸۰۲- تَقَدُّمُوا	آگے بھیج دو
۸۰۳- تَجِدُوا	پاؤ گے
۸۰۴- عِنْدَ	نزدیک (پاس)
۸۰۵- تِلْكَ	یہ (اصل معنی وہ)
۸۰۶- أَمَانِيَهُمْ	آرزوئیں اُن کی
	(واحد: أَمْنِيَةٌ)
۸۰۷- هَاتُوا	لاؤ، لے آؤ
۸۰۸- يُوْهَانُ	دیس
	(جمع: يُوْهَانِيْنَ)
۸۰۹- بَلَى	کیوں نہیں
۸۱۰- اسْتَلَمَ	سویپ دے،
	بُھک جاتے
	(س ل م)

سُوْرَةُ لِقَاءِ

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۱۱- وَجْهَةٌ	چہرہ اپنا
	(جمع: وَجُوْهُ)
۸۱۲- مُّحْسِنٌ	نیک کرنے والا
	(جمع: مُّحْسِنُوْنَ)
	(مُحْسِنِيْنَ)
۸۱۳- اُجْرٌ	بدلہ، ثواب
۸۱۴- حُزْنٌ	غمگین ہونا
	(جمع: حُزُوْنٌ)
۸۱۵- قَالَتْ يَا هُوْدُ	کہا یہودیوں نے
۸۱۶- لَيْسَتْ	نہیں ہے
	(منکر کیلئے لَيْسَ)
۸۱۷- كَذَّابِكُ	اسی طرح
۸۱۸- اَظْلَمُ	زیادہ ظالم،
	بہت ظالم
	(اسم تفضیل)
۸۱۹- مَنَعَ	منع کیا
۸۲۰- مَسَاجِدَ	مسجدیں
	(واحد: مَسْجِدٌ)
۸۲۱- يُدْكَرُ	ذکر کیا جائے
۸۲۲- سَعَى	کوشش کرے
۸۲۳- حَرَّابٌ	ویرانی، اُجڑنا

بَارَةُ نَبِيٍّ

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۲۴- دَخَلَ	داخل ہونا
۸۲۵- خَائِفِيْنَ	ڈرتے ہوئے
	خوف کھاتے ہوئے
۸۲۶- خِرْيٌ	رُسوائی
۸۲۷- اَيْنَبًا	جہاں نہیں
۸۲۸- تَوْرُوْا	تم رخ کرو
۸۲۹- تَمَّ	دیاں
۸۳۰- وَجْهَ اللّٰهِ	رُخ اللہ کا
۸۳۱- دَلَّكَ	لٹکا
	(جمع: اَدْلَاكُ)
۸۳۲- سُبْحَانَهُ	پاکی اس کو،
	بے عیب ہے وہ
۸۳۳- قَانِتٌ	فرمانبردار
	(جمع قَانِتُوْنَ قَانِتِيْنَ)
۸۳۴- بَدِيْعٌ	موجد،
	بے نمونہ بنانا، نیا
۸۳۵- اِذَا	جب
۸۳۶- قَضَىٰ	فیصلہ کرتا ہے
	(اسم فاعل: قَاوِيٌّ)
۸۳۷- اَمْرًا	کام، حکم
نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۸۳۸- كُنْ	ہو جا (فعل امر)
	(كَانَ يَكُوْنُ سے)
۸۳۹- يَكُوْنُ	ہو جاتا ہے
۸۴۰- لَوْلَا	کیوں نہیں
۸۴۱- تَشَابَهَتْ	یکساں ہوتے،
	ملتے جلتے
۸۴۲- بَيِّنًا	بریان کیا ہم نے
۸۴۳- بَشِيْرٌ	خوشخبری دینے والا
	(مصدر: بَشَّرَ اِسْرَاةً)
۸۴۴- نَذِيْرٌ	ڈرانے والا
۸۴۵- لَاسْتَسْلِمُ	نہیں پوچھا جائے گا
۸۴۶- اَصْحَابِ الْجَنَّةِ	دونوں والے
۸۴۷- لَنْ	ہرگز نہیں
۸۴۸- تَرْضَىٰ	راضی ہوں گے
	(اسم فاعل: رَاغِيٌّ)
۸۴۹- عَنَّا	مجھ سے
۸۵۰- حَتَّىٰ	یہاں تک کہ
۸۵۱- تَتَّبِعَ	تو اتباع کرے
۸۵۲- مِلَّةَ	دین، ملت
۸۵۳- اُهْوَاةٍ	خواہشات
	(واحد: هُوِيٌّ)

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۸۵۲- جَاءَتْكَ	آیات کے پاس
۸۵۵- مَا لَكَ	نہیں تیرے لئے
۸۵۶- عَلَّٰلٌ	بدلہ، برابری
۸۵۷- اِبْتَلٰی	آزمایا
	(مصدر: اِبْتَلَاۃٌ)
۸۵۸- اَتَمَّ	پورا کیا، تمام کیا
۸۵۹- جَاعِلٌ	بنانے والا
۸۶۰- اِمَّا مَّا	پیشوا
۸۶۱- ذُرِّيَّةٌ	اولاد
	(جمع: ذُرِّيَّاتٌ)
۸۶۲- لَا يَسْأَلُ	نہیں پوچھے گا،
	نہیں حاصل ہوگا
	(ن ی ل)
۸۶۳- عَهْدٌ	وعدہ
۸۶۴- جَعَلْنَا	بنایا ہم نے
۸۶۵- اَلَيْسَتْ	گھر، کعبہ
	(بیت اللہ مراد ہے)
۸۶۶- مَثَابَةٌ	جائے نواب
۸۶۷- اِنْتَجِدُوْا	مقرر کرو

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۸۶۸- مَقَامًا يُؤْتِيهِمْ	مقام کے لئے رہنے کی جگہ
	حضرت ابراہیمؑ کی
۸۶۹- مُصَلًّى	جائے نماز
۸۷۰- طَهْرًا	پاک رکھو تم دونوں
۸۷۱- طَائِفَتَيْنِ	طواف کرنے والے
	(ط و ف)
۸۷۲- عَاكِفِيْنَ	اعتکاف کرنے والے
۸۷۳- مَرَجِعِ السُّجُوْدِ	مرجع سجدہ کرنے والے
۸۷۴- اٰمِنًا	امن والا
۸۷۵- اٰمِنًا	رزق دے
۸۷۶- اٰهْلًا	رہنے والے
۸۷۷- اٰمِنًا	فائدہ دے گا
	(م ت ع)
۸۷۸- اٰخْطَرُ	بے بس کر دوں گا،
	مجبور کر دوں گا
	(خ ص ر س)
۸۷۹- رَفَعَ	اُچھا اٹھایا
۸۸۰- تَوَاعَدَ	دیواریں
	(دواحد: قَاعِدَةٌ)
۸۸۱- تَقْبَلْنَ	قبول کرے
۸۸۲- اٰمَنَّا	جماعت، امت (جمع: اٰمَنَةٌ)

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۸۸۳- اٰمِنًا	دکھا، ہم کو
	دائری سے عمل میں
۸۸۴- مَنَاسِكَ	حج کے احکام،
	بندگی کے احکام،
	طریقہ عبادت
۸۸۵- تَبَّ	متوجہ ہونا
۸۸۶- اِنْعَثَ	بھج، کھڑا کر
۸۸۷- اَلْحٰكِمَةُ	دانشمندی، حکمت
۸۸۸- يٰۤاٰمِنِيْ	پاک کرے، ہتھ کرے
	صاف کرے۔
	(ن ی ل)
۸۸۹- رَغِبَ رَغْبًا	اعراض کرنا،
	نا پسند کرنا۔
	(رَغِبَ رَغْبًا) رغبت کرنا، چاہنا
	پسند کرنا، راغب
	ہونا۔ لیکن اگر
	اس کے بعد عن
	ہو تو معنی ہوں گے
	دو اعراض کرنا،
	یہاں چونکہ رَغِبَ
	کے بعد عن کا
	استعمال ہوا ہے
	اس لئے معنی ہونگے
	دو اعراض کرنا،
	بے وقوف ہوا،
	نادان ہوا
	جمع: سَفَهَاءٌ
۸۹۱- اِصْطَفَيْنَا	ہم نے پسند کیا
	(جُن لِيْنَا) پسند کرنا،
۸۹۲- اٰسَلِمَ	مطيع ہو جا،
	مسلم ہو جا
۸۹۳- وَصِيٌّ	وصیت کی
۸۹۴- يٰۤاٰبِيْ	بیٹے
۸۹۵- يٰۤاٰبِيْ	اے بیٹو میسر
۸۹۶- اٰذْهَبُوْا	جب آئی
۸۹۷- اِلَيْهِ	معبود
۸۹۸- اٰبَاءٌ	باپ دادا
	(دواحد: اٰبٌ)
۸۹۹- خَلَّتْ	ہو گزری
۹۰۰- عَمَّا	اس چیز
۹۰۱- كُنُوْا	ہو جاؤ

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۰۲۔ تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے
 ۹۰۳۔ خَنِيْفًا يَكْسُو جمع، خُنْفَاءُ
 ۹۰۴۔ الْأَسْبَاطُ اولاد یعقوب
 ۹۰۵۔ أُذُنِي دے گئے
 ۹۰۶۔ نِيَدِيُوْنِي تہی
 ۹۰۷۔ فَرَقَیْ فِرَق کرنا،
 جُدائی ڈالنا
 (مصدر: تَفَرَّقُوا)
 ۹۰۸۔ بَيْنِيْ دَرمیان
 ۹۰۹۔ أَحَدٍ کسی ایک،
 کوئی ایک
 ۹۱۰۔ تَوَدُّوْا پھر جاویں وہ
 ۹۱۱۔ شَقَاتُ اختلاف
 ۹۱۲۔ فِیْ پس
 ۹۱۳۔ سِیْ قریب
 ۹۱۴۔ یَكْنِيْ کانی ہوگا
 (مصدر: كَفَايَةُ)
 ۹۱۵۔ لَفٍ جھکو

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۱۶۔ هُمُ اللّٰهُ اُن کے مقابلے
 میں اللہ
 (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ)
 ۹۱۷۔ صَبْعَةً رنگ
 ۹۱۸۔ مَنِيْ كُون،
 کس کا
 ۹۱۹۔ أَحْسَنُ زیادہ اچھا،
 زیادہ بہتر
 ۹۲۰۔ غِيْدُوْنَ بندگی کرنے والے
 (واحد: غَايِدٌ)
 ۹۲۱۔ فِي اللّٰهِ اللہ کے بارے میں
 ۹۲۲۔ مُخْلِصُوْنَ مخلص ہو کر بندگی
 کرنے والے۔
 ۹۲۳۔ أَغْلَمُ زیادہ واقف
 ۹۲۴۔ كَتَمَ جھپٹانا
 ۹۲۵۔ شَهَادَةٌ گواہی
 (جمع: شَهَادَاتٌ)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۲۶۔ سِیْ عنقریب، بس اب
 ۹۲۷۔ مَا دَلَّہُمْ کس چہنے پھیر دیا
 اُن کو
 ۹۲۸۔ قَبِيْلَةٌ قبلہ
 ۹۲۹۔ أُمَّةٌ وَسَطًا اُمت درمیان،
 بیچ کی راہ
 ۹۳۰۔ كَذَّالِكُ ایسی طرح
 ۹۳۱۔ مَا جَعَلْنَا نہیں بنایا ہم نے
 ۹۳۲۔ مِمَّنْ کون سا (مِنْ اور مِمَّنْ
 کا مرکب ہے)
 ۹۳۳۔ يَنْقَلِبُ پھر جاتا ہے
 (مصدر: انْقَلَابٌ)
 ۹۳۴۔ عَقِبْتُ ایڑی
 ۹۳۵۔ عَقِيْبِيْ ایسی ایڑیوں پر
 (اُلٹے پھرنے کے
 لئے بولا جاتا ہے)
 ۹۳۶۔ اِنْ كَانَتْ اگر چہ تھی

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۹۳۷۔ نِ الْبَيْتِ، ضرور
 ۹۳۸۔ كَبِيْرَةً بڑی بات
 ۹۳۹۔ يُضَيِّعُ ضائع کرے
 (ض ی ع)
 ۹۴۰۔ سِرْوَتِيْ شہقت رکھنے والا
 ۹۴۱۔ قَدْ تحقیق
 ۹۴۲۔ نَوِيْ ہم دیکھتے ہیں
 ۹۴۳۔ تَقَلَّبُ پھرنا، پلٹنا
 (ق ل ب)
 ۹۴۴۔ وَجْهًا تیرا چہرہ
 ۹۴۵۔ فَلْتَوَلِّيْنٰكْ پس البتہ پھیریں گے
 ہم جھکو۔
 (سہولت کیلئے نیچے الگ الگ دیکھئے)
 ۹۴۶۔ فِیْ پس
 ۹۴۷۔ نِ الْبَيْتِ، ضرور
 ۹۴۸۔ تَوَلِّيْ ہم پھیر دیں گے
 (د د ل ی)
 ۹۴۹۔ اَنْ ضرور (بیشک)
 ۹۵۰۔ وَلِيْ پھیر دے
 (فعل امر)
 ۹۵۱۔ شَطْرُ طرف

پارہ نمبر (۲۷)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۹۵۲- كُنْتُمْ مِمَّنْ	۹۵۲- كُنْتُمْ مِمَّنْ	۹۵۲- كُنْتُمْ مِمَّنْ	۹۵۲- كُنْتُمْ مِمَّنْ
مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،	مکہ مکرمہ کی مسجد،
جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔	جہاں کعبہ ہے۔
۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ	۹۵۳- حَيْثُ
جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ	جہاں کہیں جس جگہ
۹۵۴- اَدْوَالِكُنْبُ	۹۵۴- اَدْوَالِكُنْبُ	۹۵۴- اَدْوَالِكُنْبُ	۹۵۴- اَدْوَالِكُنْبُ
دے گئے کتاب	دے گئے کتاب	دے گئے کتاب	دے گئے کتاب
۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا	۹۵۵- مَا
نہیں	نہیں	نہیں	نہیں
دائیک ما لفظ کی	دائیک ما لفظ کی	دائیک ما لفظ کی	دائیک ما لفظ کی
کافی مشتق کرانی چاہی	کافی مشتق کرانی چاہی	کافی مشتق کرانی چاہی	کافی مشتق کرانی چاہی
ہے اس لئے کہ یہ لفظ	ہے اس لئے کہ یہ لفظ	ہے اس لئے کہ یہ لفظ	ہے اس لئے کہ یہ لفظ
کبھی تو ہاں تو کبھی،	کبھی تو ہاں تو کبھی،	کبھی تو ہاں تو کبھی،	کبھی تو ہاں تو کبھی،
کیا وغیرہ کے معنی	کیا وغیرہ کے معنی	کیا وغیرہ کے معنی	کیا وغیرہ کے معنی
میں آتا ہے اور کبھی	میں آتا ہے اور کبھی	میں آتا ہے اور کبھی	میں آتا ہے اور کبھی
نہیں کے معنی میں۔	نہیں کے معنی میں۔	نہیں کے معنی میں۔	نہیں کے معنی میں۔
لیکن عبارت میں	لیکن عبارت میں	لیکن عبارت میں	لیکن عبارت میں
جس لفظ کیسا تھوڑا	جس لفظ کیسا تھوڑا	جس لفظ کیسا تھوڑا	جس لفظ کیسا تھوڑا
ہے خود پتہ لگ جاتا	ہے خود پتہ لگ جاتا	ہے خود پتہ لگ جاتا	ہے خود پتہ لگ جاتا
ہے کہ کس معنی میں	ہے کہ کس معنی میں	ہے کہ کس معنی میں	ہے کہ کس معنی میں
استعمال ہوا ہے۔	استعمال ہوا ہے۔	استعمال ہوا ہے۔	استعمال ہوا ہے۔
مثلاً اب اس آیت	مثلاً اب اس آیت	مثلاً اب اس آیت	مثلاً اب اس آیت
میں سی دیکھ لیں	میں سی دیکھ لیں	میں سی دیکھ لیں	میں سی دیکھ لیں
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ	وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ	وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ	وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
آیا ہے یعنی اور	آیا ہے یعنی اور	آیا ہے یعنی اور	آیا ہے یعنی اور
۹۵۴- لَيْكُنْ	۹۵۴- لَيْكُنْ	۹۵۴- لَيْكُنْ	۹۵۴- لَيْكُنْ
البتہ، اگر	البتہ، اگر	البتہ، اگر	البتہ، اگر
۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ	۹۵۷- اَتَكْتَبُ
لاوے تو	لاوے تو	لاوے تو	لاوے تو
۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ	۹۵۸- يَعْزِفُونَ
پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں	پہچانتے ہیں
(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)	(مصدر: مَعْرِفَةٌ)
۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ	۹۵۹- اَبْنَاءُ
بیٹے	بیٹے	بیٹے	بیٹے
(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)	(واحد: ابْنٌ)
۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ	۹۶۰- كَتَمَ
چھپانا	چھپانا	چھپانا	چھپانا
۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ	۹۶۱- مُمْتَرِينَ
شک لانے والے	شک لانے والے	شک لانے والے	شک لانے والے
۹۶۲- وَجْهَتُ	۹۶۲- وَجْهَتُ	۹۶۲- وَجْهَتُ	۹۶۲- وَجْهَتُ
رخ	رخ	رخ	رخ
۹۶۳- مَوِيٌّ	۹۶۳- مَوِيٌّ	۹۶۳- مَوِيٌّ	۹۶۳- مَوِيٌّ
پھرنے والا	پھرنے والا	پھرنے والا	پھرنے والا
۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا	۹۶۴- اسْتَبْعُوا
سبقت چاہو،	سبقت چاہو،	سبقت چاہو،	سبقت چاہو،
آگے بڑھو	آگے بڑھو	آگے بڑھو	آگے بڑھو
۹۶۵- حَيَاتٌ	۹۶۵- حَيَاتٌ	۹۶۵- حَيَاتٌ	۹۶۵- حَيَاتٌ
نیکیاں	نیکیاں	نیکیاں	نیکیاں

پارہ نمبر (۲۸)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۹۶۶- اَيْتَمًا	۹۶۶- اَيْتَمًا	۹۶۶- اَيْتَمًا	۹۶۶- اَيْتَمًا
جہاں کہیں	جہاں کہیں	جہاں کہیں	جہاں کہیں
۹۶۷- وَلٍ	۹۶۷- وَلٍ	۹۶۷- وَلٍ	۹۶۷- وَلٍ
پھیر دے	پھیر دے	پھیر دے	پھیر دے
۹۶۸- لَيْلًا	۹۶۸- لَيْلًا	۹۶۸- لَيْلًا	۹۶۸- لَيْلًا
تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:	تاکہ نہ (اصل لفظ:
لی یعنی کے لئے	لی یعنی کے لئے	لی یعنی کے لئے	لی یعنی کے لئے
اَنْ دیکھ لاد نہیں)	اَنْ دیکھ لاد نہیں)	اَنْ دیکھ لاد نہیں)	اَنْ دیکھ لاد نہیں)
۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ	۹۶۹- حُجَّةٌ
دلیل، حجت	دلیل، حجت	دلیل، حجت	دلیل، حجت
۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ	۹۷۰- اُنْتُمْ
تمام کروں میں	تمام کروں میں	تمام کروں میں	تمام کروں میں
۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ	۹۷۱- لَعَلَّ
شاید، تاکہ	شاید، تاکہ	شاید، تاکہ	شاید، تاکہ
۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ	۹۷۲- تَهْتَدُونَ
تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ	تم ہدایت پاؤ
۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا	۹۷۳- كَمَا
جیسا کہ	جیسا کہ	جیسا کہ	جیسا کہ
۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا	۹۷۴- اَنْ سَلْنَا
بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے	بھیجا ہم نے
۹۷۵- فَيَكُمُ	۹۷۵- فَيَكُمُ	۹۷۵- فَيَكُمُ	۹۷۵- فَيَكُمُ
بیچ تمہارے	بیچ تمہارے	بیچ تمہارے	بیچ تمہارے
۹۷۶- يَتَلَوْنَ	۹۷۶- يَتَلَوْنَ	۹۷۶- يَتَلَوْنَ	۹۷۶- يَتَلَوْنَ
تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے	تلاوت کرتا ہے
(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)	(مصدر: تَلَاوَةٌ)
۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ	۹۷۷- ذِكْرٌ
یاد کرنا	یاد کرنا	یاد کرنا	یاد کرنا
۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ	۹۷۸- شُكْرٌ
شکر کرنا	شکر کرنا	شکر کرنا	شکر کرنا
۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ	۹۷۹- مَعَ
ساتھ	ساتھ	ساتھ	ساتھ
۹۸۰- سَبَّيْلِ اللّٰهِ	۹۸۰- سَبَّيْلِ اللّٰهِ	۹۸۰- سَبَّيْلِ اللّٰهِ	۹۸۰- سَبَّيْلِ اللّٰهِ
اللہ کی راہ (مقام عالیہ)	اللہ کی راہ (مقام عالیہ)	اللہ کی راہ (مقام عالیہ)	اللہ کی راہ (مقام عالیہ)
۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ	۹۸۱- اَمْوَاتٍ
مردے	مردے	مردے	مردے
(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)	(واحد: مَيِّتٌ)
۹۸۲- اَحْيَاءٌ	۹۸۲- اَحْيَاءٌ	۹۸۲- اَحْيَاءٌ	۹۸۲- اَحْيَاءٌ
زندے	زندے	زندے	زندے
(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)	(واحد: حَيٌّ)
۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا	۹۸۳- فَبَلَّوْا
ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے	ہم آزمائیں گے
۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ	۹۸۴- جُوعٌ
بھوک	بھوک	بھوک	بھوک
۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ	۹۸۵- نَقْصٌ
نقصان	نقصان	نقصان	نقصان
۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ	۹۸۶- اَمْوَالٌ
مال کی جمع	مال کی جمع	مال کی جمع	مال کی جمع
۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ	۹۸۷- تَهْمَاتٌ
پھل	پھل	پھل	پھل
(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)	(واحد: تَهْمَةٌ)
۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ	۹۸۸- اَصَابَتْ
پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی	پڑی، پہنچی
۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ	۹۸۹- مُصِيبَةٌ
مصیبت	مصیبت	مصیبت	مصیبت
۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ	۹۹۰- صَلَوَاتٌ
رحمت	رحمت	رحمت	رحمت
۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَةٌ	۹۹۱- صَفَاوَمَرَدَةٌ
دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام	دو پہاڑیوں کے نام
جو مکہ میں مسجد حرام	جو مکہ میں مسجد حرام	جو مکہ میں مسجد حرام	جو مکہ میں مسجد حرام
کے قریب ہیں	کے قریب ہیں	کے قریب ہیں	کے قریب ہیں
۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ	۹۹۲- شَعَائِرٌ
نشانیوں	نشانیوں	نشانیوں	نشانیوں
۹۹۳- حَجٌّ	۹۹۳- حَجٌّ	۹۹۳- حَجٌّ	۹۹۳- حَجٌّ
حج کرنا	حج کرنا	حج کرنا	حج کرنا
۹۹۴- اَعْتَمَدٌ	۹۹۴- اَعْتَمَدٌ	۹۹۴- اَعْتَمَدٌ	۹۹۴- اَعْتَمَدٌ
عمرہ کرنا	عمرہ کرنا	عمرہ کرنا	عمرہ کرنا
عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور	عمرہ طواف کعبہ اور

پارہ نمبر ۲۰

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
صفا و مروہ کی سعی کرنے کو کہتے ہیں ،	۱۰۰۵۔ ذَهَابُ	۱۰۰۱۔ تَبِعُوا	نمبر شمار عربی
یہ ایام حج کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے۔	۱۰۰۴۔ فَلَكٌ	۱۰۰۲۔ اتَّبَعُوا	اردو
ایک طرح سے چھوٹا حج کہ عرفات کے میدان میں حاقری ضروری نہیں۔	۱۰۰۳۔ تَجْرِي	۱۰۰۳۔ قَطَعَ	نمبر شمار عربی
گناہ	۱۰۰۸۔ يَحْوِي	۱۰۰۴۔ اشْبَابٌ	اردو
نوشی سے کیا	۱۰۰۹۔ بَشٌّ	۱۰۰۵۔ لَوَا اَنْ لَنَا	نمبر شمار عربی
قدر و امان	۱۰۱۰۔ ذَابِيَةٌ	۱۰۰۶۔ كَرَّوَةٌ	اردو
جاننے والا	۱۰۱۱۔ تَصْوِيفٌ	۱۰۰۷۔ حَسَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
سب	۱۰۱۲۔ مَرِيحٌ	۱۰۰۸۔ خَاكِرٌ جَلِيٌّ	اردو
ہلکا کرنا	۱۰۱۳۔ سَحَابٌ	۱۰۰۹۔ نَارٌ	نمبر شمار عربی
مہلت دے جائیں گے	۱۰۱۴۔ مُسَحٌّ	۱۰۱۰۔ طَبِيْبٌ	اردو
دن ظ س	۱۰۱۵۔ بَيْنٌ	۱۰۱۱۔ طَيِّبٌ	نمبر شمار عربی
پیدا نش، پیدا کرنا	۱۰۱۶۔ دُونَ اللّٰهِ	۱۰۱۲۔ حَطَوَاتٌ	اردو
بدلتے آنا آگے پیچھے	۱۰۱۷۔ اَنْذَا	۱۰۱۳۔ سُوْعٌ	نمبر شمار عربی
رات	۱۰۱۸۔ حُبٌّ	۱۰۱۴۔ فَحْشَاءٌ	اردو
جمع: نیانی	۱۰۱۹۔ اَشْدُّ	۱۰۱۵۔ اَلْقَيْنَا	نمبر شمار عربی
	۱۰۲۰۔ تَبَرَّأَ	۱۰۱۶۔ اَوْلُوْ	اردو
		۱۰۱۷۔ نَعَى	نمبر شمار عربی
		۱۰۱۸۔ دُعَاءٌ	اردو

پارہ نمبر ۲۰

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو	نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
پیکارنا	۱۰۳۸۔ يَدَا	۱۰۲۱۔ اتَّبَاعٌ كُنْتُمْ	نمبر شمار عربی
اسی کی	۱۰۳۹۔ اَيَّاهُ	۱۰۲۲۔ اتَّبَعُوا	اردو
حرام کیا	۱۰۴۰۔ حَرَّمَ	۱۰۲۳۔ كَانُوا	نمبر شمار عربی
مُروار	۱۰۴۱۔ مَمِيَّةٌ	۱۰۲۴۔ اشْبَابٌ	اردو
خون اُبو	۱۰۴۲۔ دَمٌ	۱۰۲۵۔ لَوَا اَنْ لَنَا	نمبر شمار عربی
گوشت	۱۰۴۳۔ لَحْمٌ	۱۰۲۶۔ كَرَّوَةٌ	اردو
سور	۱۰۴۴۔ خَنْزِيْرٌ	۱۰۲۷۔ حَسَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
پکارا جائے، نامزد کیا جائے۔	۱۰۴۵۔ اَهْلٌ	۱۰۲۸۔ خَاكِرٌ جَلِيٌّ	اردو
بے بس ہو جاتے	۱۰۴۶۔ اَضْطُرُّ	۱۰۲۹۔ نَارٌ	نمبر شمار عربی
بے خکی کرنے والا	۱۰۴۷۔ يَأْغُ	۱۰۳۰۔ طَبِيْبٌ	اردو
زیادتی کرنے والا	۱۰۴۸۔ حَادٍ	۱۰۳۱۔ حَطَوَاتٌ	نمبر شمار عربی
گناہ	۱۰۴۹۔ اِثْمٌ	۱۰۳۲۔ سُوْعٌ	اردو
پریٹ	۱۰۵۰۔ بَطُوْنٌ	۱۰۳۳۔ فَحْشَاءٌ	نمبر شمار عربی
(واحد: بَطْنٌ)		۱۰۳۴۔ اَلْقَيْنَا	اردو
کیسا صبر ہے ان کو	۱۰۵۱۔ فَاَصْبِرْ لَهُمْ	۱۰۳۵۔ اَوْلُوْ	نمبر شمار عربی
ضد رقی سے علیحدہ ہو کر بچھٹ جانا،	۱۰۵۲۔ شَقَاقٌ	۱۰۳۶۔ نَعَى	اردو
		۱۰۳۷۔ دُعَاءٌ	نمبر شمار عربی
			اردو

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۵۴۔ لَيْسَ	نہیں ہے
۱۰۵۵۔ جِدُّ	نیکی، بھلائی
۱۰۵۶۔ قَبِيلٌ	طرف
۱۰۵۷۔ اُنْفَىٰ	دیا
	(مصدر: اِنْفَاءً)
۱۰۵۸۔ ذَوِي الْقُرْبَىٰ	قرابت والے
۱۰۵۹۔ يَتِيْمٌ	یتیم
	(واحد: يَتِيْمٌ)
۱۰۶۰۔ مَسْكِيْنٌ	مسکین کی جمع
	(واحد: مَسْكِيْنٌ)
۱۰۶۱۔ اِبْنِ السَّبِيْلِ	راہ چلتے مسافر
۱۰۶۲۔ سَائِلِيْنَ	سوال کرنے والے
۱۰۶۳۔ مِرْقَابٌ	گردن (جمع ہے)
	واحد: مِرْقَبَةٌ
۱۰۶۴۔ مُؤْتُوْنَ	پورا کرنے والے
۱۰۶۵۔ بَأْسَاءٌ	شخصی، شدت،
	تقر وفاق، تکلفی
۱۰۶۶۔ ضَرَاءٌ	مرض کی تکلیف یا مال
۱۰۶۷۔ جِبِيْنَ الرَّبِاسِ	رطائی کے وقت
۱۰۶۸۔ صَدَقُوْا	سچ ہوئے
	(ص د ق)

سورہ لقہ (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۶۹۔ مُتَّقُوْنَ	پرہیزگار،
	گناہوں سے
۱۰۷۰۔ كَتَبَ	لکھنے والے
۱۰۷۱۔ قَصَصٌ	لکھا گیا
	برابر کا بدلہ
۱۰۷۲۔ قَتَلَىٰ	مارے گئے لوگ
۱۰۷۳۔ اَلْعُرَىٰ	آزاد
۱۰۷۴۔ عَبْدٌ	غلام
۱۰۷۵۔ اُنْثَىٰ	عورت
۱۰۷۶۔ عَفِيٌّ	معاف رکھا جائے
۱۰۷۷۔ اِنْجِيَهٗ	بھائی اس کا
۱۰۷۸۔ اِنْجِيَاغٌ	اشباع کرنا
۱۰۷۹۔ مَعْرُوْفٌ	بھلائی
	دستور کے موافق
۱۰۸۰۔ اِدْعَاۗءٌ	ادا کرنا
۱۰۸۱۔ اِحْسَانٌ	نیکی، اچھائی
۱۰۸۲۔ تَخْفِيْفٌ	آسانی
۱۰۸۳۔ اِسْتَدْرَاۗءٌ	زیادتی کرے
۱۰۸۴۔ حَيٰوَةٌ	زندگی
۱۰۸۵۔ اُوْلَىٰ اَلْاٰ	عقل والے
	لُبَابٌ

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

لُبٌّ	معنی عقل
اُوْلَىٰ	اولیٰ، اولیٰ، اولیٰ
۱۰۸۶۔ حَضَرٌ	حاضر، موجود
۱۰۸۷۔ تَرَكٌ	چھوڑا
	(ت ر ك)
۱۰۸۸۔ حَيٰوَةٌ	مال
۱۰۸۹۔ ذٰصِيَّةٌ	دھیت
۱۰۹۰۔ سَمِيْعٌ	سنا اس نے
	(س م ع)
۱۰۹۱۔ اِثْمٌ	گناہ
۱۰۹۲۔ خَافٌ	خوف کیا
۱۰۹۳۔ مُوْصٍ	وصیت کرنے والا
۱۰۹۴۔ جَنَفًا	بھگی، ٹیڑھا پن
	پچ
۱۰۹۵۔ صِيَامٌ	روزے
	(واحد: صَوْمٌ)
۱۰۹۶۔ كَمَا	جیسے کہ
۱۰۹۷۔ اَيَّامٌ	دن
	(واحد: يَوْمٌ)
۱۰۹۸۔ مَعْدُوْدَةٌ	گنتی کے، گنے ہوئے
۱۰۹۹۔ عِلَّةٌ	گنتی

سورہ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۰۰۔ تَكْلِيْفًا	بڑائی بیان کرو
۱۱۰۱۔ سَأَلَ	سوال کرنا
	(مصدر: سَأَلَ)
۱۱۰۲۔ عَتِيٌّ	میسے متعلق
	(ع ن ي)
۱۱۰۳۔ اٰجِيْبٌ	پہنچتا ہوں،
	قبول کرتا ہوں
۱۱۰۴۔ دَعْوَةٌ	پکار
۱۱۰۵۔ دَاعٍ	پکارنے والا
	(دعا يَدْعُوْهُ)
	اسم فاعل)
۱۱۰۶۔ دَعَانٍ	پکارا مجھے
	(ن اصل میں نِيْ
	ہے لیکن اس کا
	مخفف فقط نِ
	رہ گیا دونوں کے معنی
	ایک ہی ہے یعنی مجھے
	یا میسرے قرآن
	میں ایسے بہت سے
	مقامات ہیں جہاں
	نِيْ نہ لکھے ہوتے

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

صرف ن لکھا گیا ہے
مثال کے طور پر
فَأَقْضُوا
ڈرو مجھ سے۔ ایں
بھی تھی کای ختم
کر کے ن کے نیچے
زیر لگا دیا گیا۔
۱۱۰۷۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا
پس چاہئے کہ قبول
کریں وہ۔
۱۱۰۸۔ رَجِي
میں سے یا جھکو
۱۱۰۹۔ رَشَدًا
بھلائی
۱۱۱۰۔ أَجَلًا
حلال کیا گیا
۱۱۱۱۔ لَيْلَةَ الْقِيَامِ
رات روزوں کی
۱۱۱۲۔ رَفَقًا
مباشرت کرنا،
بے پردہ ہونا
۱۱۱۳۔ نِسَاءً كُفْرًا
بیویاں تمہاری
۱۱۱۴۔ هُنَّ
وہ (مؤنث کیلئے)
۱۱۱۵۔ لِيَأْمُرُنَّ
پوشاک
۱۱۱۶۔ أَنْتُمْ
تم
۱۱۱۷۔ تَحَاوُنًا
خیانت کرتے

سورة لقمة (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

تھے تم (خون)
معاف کیا
۱۱۱۸۔ عَفَا
اب
۱۱۱۹۔ أَلَدُنَّ
میل رکھو
۱۱۲۰۔ يَا تَوَّابًا
(مصدر: مَبَا شَوْءًا)
چاہو، ڈھونڈو
۱۱۲۱۔ إِيْتَابًا
دھاری
۱۱۲۲۔ حَيْطًا
سفید
۱۱۲۳۔ أَبْيَضًا
سیاہ
۱۱۲۴۔ أَسْوَدًا
پہنچانا، کھینچ لیا جانا
۱۱۲۵۔ تَنْ لُّوًا
(د دل ہی)
(اصل معنی کنویں
میں ڈال دینے کے
آتے ہیں۔ حکام
کے پاس بیجا شکایت
پہنچا کر اپنے آپ کو
اوردو سروں کو
کتوں میں ڈالنے
کے برابر ہی ہے۔
پتھر
چاند کا نیا انگلیا
۱۱۲۶۔ أَهْلَةً

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۱۲۷۔ مَوَاقِيْتًا
وقت معلوم کرنے
کا ذریعہ۔
(واحد: مَوَاقِيْتًا)
۱۱۲۸۔ بِيُوتٍ
گھر جمع ہے اس کا
(واحد: بَيْتًا)
۱۱۲۹۔ أَبْوَابًا
دروازے
(واحد: بَابًا)
۱۱۳۰۔ قَاتِلُوهُمْ
لڑو
۱۱۳۱۔ تَقِيفًا
پانا
۱۱۳۲۔ تَقِيفًا
پاؤ تم
(د ت ق ف)
۱۱۳۳۔ إِنْ تَهَمُّوا
بازر میں وہ
(مصدر: إِنْ تَهَمَّ)
۱۱۳۴۔ عَلَّ دَائِي
زیادتی
۱۱۳۵۔ شَهْرًا حَرَامًا
حرمت والا مہینہ
۱۱۳۶۔ حُرْمَاتٍ
قابل ادب،
قابل احترام
۱۱۳۷۔ تَهْلِكَةً
ہلاکت
۱۱۳۸۔ أَحْصُوا
گھیر لے جاؤ تم
(ح ص س)
۱۱۳۹۔ أَسْيَافًا
میسروں، ہوسکے

سورة لقمة (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۱۴۰۔ أَلْهَدِي
قربانی
۱۱۴۱۔ لَا تَخْلِقُوا
مت منڈاؤ،
حجاست نہ کرو
(ح ل ق)
۱۱۴۲۔ مِرْ وُ مِسْ
سر کی حج
(واحد: مِرْ وُ مِسْ)
۱۱۴۳۔ لِيَبْلُغَ
پہنچے (ب ل غ)
۱۱۴۴۔ مَجْلَدًا
ٹھکانے اپنے
تکلیف
۱۱۴۵۔ أَدَى
قربانی
۱۱۴۶۔ تَشْكُ
امن میں ہو جاؤ تم
۱۱۴۷۔ تَمَتَّعًا
فائدہ اٹھایا
(م ت ع)
۱۱۴۸۔ تَلْتَلَةً
تین
۱۱۴۹۔ سَبْعَةً
سات
۱۱۵۰۔ عَشْرًا
دس
۱۱۵۱۔ لَوْ تَمَّ
لو تو تم، پلٹو تم
(د ر ج ع)
۱۱۵۲۔ أَهْلًا
گھر والے
۱۱۵۳۔ حَاضِرًا
رہنے والے
(حَاضِرًا)
اصل میں

سُورَةُ بِنْتِ سَعْدٍ (۳۲)

نمبر شمار عربی اردو
 حَاذِرِيْنَ تَحَا
 لیکن مضاف ہوئیگی
 وجہ سے نہ کر گیا،
 ۱۱۵۵۔ سَلِّدُ الْوَقَا سَخْتِ عَذَابٍ دِيْنِ
 والا۔
 ۱۱۵۶۔ اُتْمَهُرُ مِهِيْنِ
 (واحد: شَهْرٌ)
 ۱۱۵۷۔ مَعْلُوْمَاتٍ مَعْلُوْمٍ جَانِيْ مَوْتِ
 ۱۱۵۸۔ فَرَضٌ لَّا زَمَّ كِيَا، فَرَضٌ مَّرْمُرٌ
 ۱۱۵۹۔ فُسُوْقٌ كِنَاہُ، نَا فَرْمَانِي
 (واحد: فُسُوْقٌ)
 ۱۱۶۰۔ جِدَالٌ جَهْلُوْمٌ اَكْرِنَا
 ۱۱۶۱۔ تَوَدُّوْا دُوًّا خَرِيْمًا سَا تَهْلُو،
 زَادِرَاہُ، دَفْعَلُ اِمْرٌ
 مَادَّة: مَزِدِدُ
 ۱۱۶۲۔ خَيْرٌ لِّرَاوٍ اِبْتِهَادِ (سَفَرِ)
 ۱۱۶۳۔ اَلْقَوِيُّ تَقْوِي
 ۱۱۶۴۔ اَفْضَى لُوْثُنَا، پَلِثْنَا
 ۱۱۶۵۔ عَرَفَاتٌ حَجُّ كِي مِيْدَانِ كَا
 نام، جہاں ذوالحجہ کی

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 تُوْمَارِ تَحِ كُو حَجَّاجِ
 کرام جمع ہوتے ہیں
 جو مکہ سے چند میل
 کے فاصلے پر ہے،
 ۱۱۶۶۔ مَسْعَرٌ اَحْوَاہُ مَقَامٌ مَزُوْلَفُ،
 جہاں عرفات سے
 واپسی پر حجاج ایک
 رات گزارتے ہیں،
 یہاں ایک عالیشان
 مسجد بھی ہے۔
 ۱۱۶۷۔ قَضِيْبٌ مُمٌ پورا کر چکو
 ۱۱۶۸۔ مَنَاسِكٌ حَجُّ كِي كَا، اِرْكَانُ حَجِّ
 (واحد: مَنَاسِكٌ)
 ۱۱۶۹۔ اِنْتَا دے ہم کو
 ۱۱۷۰۔ قَبِ بچا (ذوقی یقینی
 سے فعل امر،
 ۱۱۷۱۔ قِنَا ہم کو بچا
 ۱۱۷۲۔ قَصِيْبٌ حصہ
 ۱۱۷۳۔ سَرِيْعٌ جلد لینے والا
 اَلنِّصْفُ

سُورَةُ بِنْتِ سَعْدٍ (۳۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۱۷۴۔ نَعَجَلٌ جلدی چلا گیا،
 جلدی کی۔
 ۱۱۷۵۔ عَجَلَتْ سَبْنَاہِ
 ۱۱۷۶۔ دُوْدُنٌ دَسْتِيْنِہِ
 ۱۱۷۷۔ تَاخُوْرٌ پیچھے رہا، موخر کیا
 ۱۱۷۸۔ عَجِبٌ عَجِيْبٌ، تَعَجَّبُ لَكِنَا
 (ع ج ب)
 ۱۱۷۹۔ تَوَلُّوْا بَاتِ
 (جمع: اَوْتَالُ)
 ۱۱۸۰۔ اَلْاَلُ الْاَلْحَصَاہُ سَخْتِ جَهْلُوْمِ الْاَلُو
 ۱۱۸۱۔ تَوَلُّوْا حَاكِمٌ ہوتا ہے،
 متولی ہوتا ہے،
 پیٹھ پھرتا ہے
 ۱۱۸۲۔ سَعِيٌّ كُو شَشِ كُرِيْ
 (مصدر: سَعِيٌّ)
 ۱۱۸۳۔ حَرِيْبٌ كِهِيْتِي
 ۱۱۸۴۔ اَلنَّسَلُ جاندار، جانین
 ۱۱۸۵۔ عَرِيْقَةٌ غلبہ، طاقت
 ۱۱۸۶۔ حَسْبٌ كَانِي
 ۱۱۸۷۔ مِهَادٌ بچھونا، ٹھکانا
 ۱۱۸۸۔ يَسْتَوِيُّ بچیتا ہے

سُورَةُ بَقَرَةَ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۱۸۹۔ اِبْتِغَاءٌ چاہا
 (چاہنا، ڈھونڈنا،
 ۱۱۹۰۔ مَرَضَاتٌ رِضَا مَنْدِي
 داخل ہونا
 ۱۱۹۱۔ اُنْتِيْلُمُ فرما برداری، اسلام
 پورے پورے
 ۱۱۹۲۔ كَا فِتَا پھسل جانا
 ۱۱۹۳۔ مَرَاتَلٌ ڈگمگا جانا،
 ۱۱۹۴۔ ظَلَلٌ ساتیان،
 سایہ کرنے والے
 ۱۱۹۵۔ غِيَاْمٌ بادل
 ۱۱۹۶۔ قُضِيَ الْاَمْرُ پورے ہوں کام،
 فیصل ہو جائیں
 سب کام۔
 ۱۱۹۷۔ پُوْجُوْا پوچھو
 ۱۱۹۸۔ كُنْتَا، كُنْتِي كُنْتِي
 ۱۱۹۹۔ زِيْنَتٌ دِي كُنْتِي
 (دنی ن)
 ۱۲۰۰۔ سَخَّرَ ہنسنا، بھٹھکا کرنا
 (دس خ س)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۰۱	وَاجِدَةٌ ایک
۱۲۰۲	بَعَثَتْ بھیجنا، اٹھانا
۱۲۰۳	كَمَا كُنْتُمْ گمان کیا تم نے
۱۲۰۴	يُحْكِمُ فیصلہ کیا جاوے
	(مصدر: حَكَمَ)
	بمعنی فیصلہ کرنا)
۱۲۰۵	لَمَّا ابھی نہیں
۱۲۰۶	مَثَلٌ حالت، مثال
۱۲۰۷	مَسٌّ چھونا، گلنا
۱۲۰۸	مُرْتَابًا ہلادے گئے
	(مصدر: ذَكَرَ لَكَ)
۱۲۰۹	مَتًى کب
۱۲۱۰	نَهَى اللَّهُ مدد اللہ کی
۱۲۱۱	مَاذَا کیا، کتنا
۱۲۱۲	أَقْرَبِينَ قرابت والے
۱۲۱۳	وَقَالَ لڑنا
۱۲۱۴	كُرَّةٌ ناپسند
۱۲۱۵	عَسَىٰ ممکن، شاید
۱۲۱۶	خَيْرٌ بہتر
۱۲۱۷	شَرٌّ بُرَا
	پچھرا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۱۸	صَدُّ رُكْنَا، بند کرنا
۱۲۱۹	أَكْبَرُ زیادہ بڑا
۱۲۲۰	لَا يَزَالُونَ نہیں باڑائیں گے
۱۲۲۱	يُرْدُّوْا پھیریں (وہ)
۱۲۲۲	اسْتَطَاعُوا مقدر و پادیں
	(مصدر: اسْتَطَاعَ)
۱۲۲۳	يُؤْتِدُ پھر جاوے گا
	(مصدر: اِمْرًا تَدَا)
	بمعنی مُرْتَدٌ ہونا)
۱۲۲۴	حَبِطَ غارت ہونا، ضلوع ہونا
۱۲۲۵	هَاجِرًا ہجرت کی
	(ح ج س)
۱۲۲۶	جَاهِدُوا جہاد کیا
	(ح ج د)
۱۲۲۷	يُرْجُونَ اُمیدوار ہیں
	(س ج و)
۱۲۲۸	خَمْرٌ شراب
۱۲۲۹	مَيْسِرٌ جوا
۱۲۳۰	عَفْوٌ ضرورت سے
	زیادہ

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۳۱	تَتَفَكَّرُونَ تم دھیان کرو،
	تفکر کرو، سمجھو
۱۲۳۲	إِصْلَاحٌ سنوارنا، درست کرنا
۱۲۳۳	خَيْرٌ بہتر
۱۲۳۴	وَحَالِطُوا ملاؤم، ساتھ رکھو تم
	(مخلوط)
۱۲۳۵	مُفْسِدٌ خرابی کرنے والا
۱۲۳۶	مُصْلِحٌ سنوارنے والا،
	اصلاح کرنے والا۔
۱۲۳۷	أَعْنَتٌ مشقت میں ڈالنا
۱۲۳۸	لَا تُنكِحُوا نکاح میں مت لاؤ،
	نکاح مت کرو۔
۱۲۳۹	مُشْرِكَةٌ مشرک عورت
	(واحد: مُشْرِكَةٌ)
۱۲۴۰	أُمَّتٌ لونڈی
۱۲۴۱	أَعْجَبٌ بھلا معلوم ہوا،
	عجیب، تعجب
	(ع ج ب)
۱۲۴۲	لَا تُنكِحُوا نکاح میں نہ دو
۱۲۴۳	عَيْنٌ غلام
۱۲۴۴	يُنْعَوْنَ پکارتے ہیں

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی	اردو
۱۲۴۵	مَغْفِرَةٌ بخشش
۱۲۴۶	يُنذِرُونَ نصیحت حاصل کریں
	تذکرہ حاصل کرنا۔
	ح
۱۲۴۷	مَحِيضٌ حیض
۱۲۴۸	أَذًى تکلیف، ضرر، نجاست
۱۲۴۹	فَاعْتَرَلُوا پس الگ رہو
	(ع ن ل)
۱۲۵۰	نِسَاءٌ عورتیں
۱۲۵۱	يَطْهَرُونَ پاک ہو جائیں
	(ط ه س)
۱۲۵۲	تَوَابِعِينَ توبہ کرنے والے
۱۲۵۳	مُنْطَهَرِينَ سمھرائی کرنے والے
	کھینتی
۱۲۵۴	أَنِي شَيْئًا جب تم چاہو
۱۲۵۵	قَلْمًا آگے بھیجو
۱۲۵۶	مُلَقَّوًا ملنے والے
۱۲۵۷	لَا تَجْعَلُوا مت بناؤ
۱۲۵۸	عُرْضَةً نشانہ، ہتھکنڈہ، آڑ
۱۲۵۹	أَيْمَانًا قسمیں
	(واحد: يَمِينٌ)

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۶۱- تَبَدُّدٌ نیک سلوک
 ۱۲۶۲- لَعُوٌّ فیضوں، بے کار
 ۱۲۶۳- حَلِيمٌ جمل والا
 ۱۲۶۴- يُوْتُونَ قسم کھاتے ہیں
 مصدر: اِيلَاءٌ
 بمعنی قسم کھانا،
 ۱۲۶۵- تَرَفُّسٌ انتظار کرنا
 ۱۲۶۶- اَبْرَجَةٌ شہر چار مہینے
 ۱۲۶۷- فَاوَأٌ لوٹ آؤں
 ۱۲۶۸- عَزَمُوا ارادہ کیا، عزم کیا
 (ع ن م)
 ۱۲۶۹- مُطَلَّقَاتٌ طلاق دی جانے
 والی عورتیں۔
 ۱۲۷۰- ثَلَاثَةٌ تین
 ۱۲۷۱- قُرُوبٌ حیض
 (واحد: قُرْبٌ)
 ۱۲۷۲- اَسْرَحَامٌ پیٹ
 شوہر
 ۱۲۷۳- بُعُولٌ (بَعْلٌ واحد)
 زیادہ حقدار
 ۱۲۷۴- اَحَقُّ زیادہ حقدار

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۷۵- سَرَدٌ لوٹانا
 ۱۲۷۶- فِی ذَالِكَ اس مدت میں
 ۱۲۷۷- بَرَجَالٌ مرد
 (واحد: بَرَجُلٌ)
 ۱۲۷۸- طَلَّاقٌ طلاق دینا
 ۱۲۷۹- مَرَّتَانِ دو مرتبہ
 ۱۲۸۰- اِمْسَاكٌ روکنا تھام لینا
 ۱۲۸۱- مَعْرُوفٌ بھلا اچھا بہتر ٹھیک
 ۱۲۸۲- تَسْبِيحٌ زخمت کرنا
 ۱۲۸۳- اِحْسَانٌ اچھی طرح، احسان
 کے ساتھ، نیک
 سلوک کے ساتھ
 ۱۲۸۴- لَا يَحِلُّ نہیں حلال ہے
 کہ نہیں
 ۱۲۸۵- اَنَّ، لَاحِ
 قائم رکھیں گے وہ
 دونوں،
 (مصدر: اِقَامَتٌ)
 ۱۲۸۶- يَقِيمًا
 ۱۲۸۷- حُدُودِ اللّٰهِ حدیں اللہ کی
 ۱۲۸۸- جَنَاحٌ گناہ

پارہ نمبر (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۲۸۹- يَتَعَدَّ حد سے گزر جاتے
 (تَعَدَّى، يَتَعَدَّى)
 ۱۲۹۰- عَدُوٌّ سوائے اس کے
 ۱۲۹۱- يَتَوَجَّعًا پھرا آئیں، لوٹ
 آئیں وہ دونوں
 ۱۲۹۲- بَلَعْنِ پیچھے (موتنٹ)
 ۱۲۹۳- اَجَلٌ وقت، مدت
 ۱۲۹۴- اَمْسِكُوْهُ روک رکھو، رہنے دو
 ۱۲۹۵- سَبَّحُوا زخمت کر دو
 ۱۲۹۶- ضَمُّوا ایدنا
 ۱۲۹۷- يَعْظُوْا نصیحت کرتا ہے
 (مصدر: وَعْظٌ)
 (د ع ظ)
 الثلاثہ
 ۱۲۹۸- لَا تَعْصُوْا مت روکو
 (د ع ض ل)
 ۱۲۹۹- اَسْرَىٰ زیادہ پاکیزہ
 ۱۳۰۰- اَطَهَرَ بہت پاک
 نہایت ستھرا
 ۱۳۰۱- وَاٰلِ اٰتٍ مَّائِيں
 (واحد: وَاٰلِ اٰتٍ)
 ۱۳۰۲- يَرْضَعْنَ دودھ پلاویں
 (د ر ض ع)
 ۱۳۰۳- حَوٰلِيْنِ ڈوبیں
 ۱۳۰۴- كَامِلِيْنِ پورے مکمل ڈو
 ۱۳۰۵- اَلرَّضَاعَةُ دودھ پلانا (مصدر)
 ۱۳۰۶- مَوْلُوْدٌ بچہ
 ۱۳۰۷- مَوْلُوْدٌ بچہ والا، لڑکے والا
 ۱۳۰۸- مَرِيْنٌ کھانا
 ۱۳۰۹- كِسُوَةٌ پہناؤ
 ۱۳۱۰- لَا تَكْلَفُ نہیں تکلیف دی
 جاتی، مکلف نہیں
 بنایا گیا۔
 ۱۳۱۱- وَسَعَهَا اس کی وسعت،
 طاقت۔
 ۱۳۱۲- لَا تَضْمُرُ نہ ضرر پہنچایا جائے
 ۱۳۱۳- وَاٰلِ اٰتٍ مَّائِيں
 ۱۳۱۴- وَكُلُّ لڑکا
 ۱۳۱۵- هُنَّ ذٰلِكَ اسی طرح

پارہ نمبر ۲۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۱۶- فِضَالًا دودھ چھڑانا
 ۱۳۱۷- تَشَاؤُنُ مشورہ
 ۱۳۱۸- تَسَدَّرَ ضِعْوًا دودھ پلواؤ تم،
 رضاعت
 ۱۳۱۹- سَلَّيْتُمْ پورا دے حکومت
 ۱۳۲۰- يَلْوُونَ وفات پاتے ہیں
 ۱۳۲۱- يَنْزُونَ چھوڑ جاتے ہیں
 ۱۳۲۲- اَرْبَعَةٌ چار
 ۱۳۲۳- عَشْرٌ دس
 ۱۳۲۴- عَرَضْتُمْ تم نے اشارے میں
 کہا، پیش کیا
 ۱۳۲۵- خُطِبَتِ النِّسَاءُ منگنی عورتوں کی،
 بات چیت
 ۱۳۲۶- اَلْتُمُّوا چھبھاؤ تم
 ۱۳۲۷- بَسُوا چھبھا، پوشیدہ (راز)
 ۱۳۲۸- عَزَمُوا ارادہ کرنا، عزم کرنا
 ۱۳۲۹- عَقَدَ الْاَيْكَا ح گره باندھنا نکاح کی
 پکی کرنا
 ۱۳۳۰- حَنَرَ طرنا، بچھا، خیر دار رہنا
 ۱۳۳۱- مَسَّ پھوننا، ہاتھ لگانا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۳۲- فَرِيضَةً مقرر کرنا
 ۱۳۳۳- مَوْسِعٌ وسعت والا
 ۱۳۳۴- مَقْتَدِرٌ تنگ دست
 ۱۳۳۵- نَضَفٌ آدھا
 ۱۳۳۶- عَقُوْا درگزر کرنا
 ۱۳۳۷- اَقْرَبُ زیادہ قریب ہے
 ۱۳۳۸- تَقْوَىٰ پرہیزگاری
 ۱۳۳۹- لَا تَلْسُوا مت بھولو
 (دن سی)
 ۱۳۴۰- فَضِّلٌ بھلائی
 ۱۳۴۱- حَافِظُوْا حفاظت رکھو
 (ح ف ظ)
 ۱۳۴۲- صَلَوَاتٍ نمازیں
 (واحد: صَلَوَةٌ)
 ۱۳۴۳- صَلَوَةُ الْوَسْطَىٰ بیچ کی نماز
 ۱۳۴۴- قَوْمٌ کھڑے ہو جاؤ
 ۱۳۴۵- قَانِتِينَ باادب
 ۱۳۴۶- سَرَجًا پیا دہ، پیدل
 ۱۳۴۷- سُرْحَابًا سوار
 ۱۳۴۸- مَنَاحًا فائدہ، سامان
 ۱۳۴۹- اَلْحَوْلُ ایک سال

پارہ نمبر ۲۸

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۵۰- عَزَّوَجَلَّ نیکالاجاتے،
 بے نکالے
 ۱۳۵۱- اَلَمْ تَرَ کیا نہیں دیکھا تو نے
 ۱۳۵۲- اَلْوَفَّ ہزاروں
 (اَلْف واحد ہے)
 ۱۳۵۳- حَذَّ الوَتِّ ڈرموت کا
 ۱۳۵۴- مَوْتُوْا مر جاؤ
 (م و ت)
 ۱۳۵۵- مَنْ ذَا الَّذِي کون شخص ہے جو
 ۱۳۵۶- يُعْرِضُ قرض دے گا
 ۱۳۵۷- اَضْعَافًا وگنا
 (واحد: ضِعْفٌ)
 ۱۳۵۸- كَثِيْرٌ بہت
 ۱۳۵۹- قَبِيْضٌ تنگی کرنا، کمی کرنا
 ۱۳۶۰- كَبِيْرٌ کشادہ کرنا، پھیلا نا
 ۱۳۶۱- مَلَأٌ سردار
 ۱۳۶۲- اَبْعَثْ مقرر کر، کھر، کر
 ۱۳۶۳- مَلِكًا بادشاہ
 ۱۳۶۴- هَلْ کیا

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۳۶۵- اَحْسَيْنٰ تلم نزدیک ہو
 ۱۳۶۶- اِنْ اکر
 ۱۳۶۷- اَلَا کہ نہیں
 (اِنْ لاکا مرے ہے)
 ۱۳۶۸- وَمَا لَنَا کیوں نہیں ہم کو
 ۱۳۶۹- قَدْ تحقیق
 ۱۳۷۰- اَخْرَجْنَا نکالے گئے ہم
 ۱۳۷۱- اَبْنَاءٌ بیٹے
 ۱۳۷۲- تَوَلَّوْا پھر گئے وہ
 ۱۳۷۳- بَعَثْ مقرر کیا
 ۱۳۷۴- طَاوُوْتَ ایک ہوس سردار کا
 نام جو حضرت داؤد
 اور شموئیل
 کے زمانے میں گزرا ہے،
 باوجود غریب ہونیکے
 اللہ تعالیٰ نے انھیں
 تدریس علم اور جہانی
 طاقت اور فن جنگ
 سے نوازا تھا، اسی نے
 انھیں بنی اسرائیل کا
 سردار مقرر کیا گیا۔

پارہ نمبر (۲۰)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۳۳- قیوم	۱۳۳۳- قائم، ہمیشہ رہنے والا، بذات خود قائم
۱۳۳۴- سنۃ	۱۳۳۴- اونگہ
۱۳۳۵- نوم	۱۳۳۵- نیند
۱۳۳۶- من ذَا	۱۳۳۶- کون ہے
۱۳۳۷- الذی	۱۳۳۷- جو شخص
	(اسم موصول)
۱۳۳۸- اذن	۱۳۳۸- اجازت، حکم
۱۳۳۹- بین	۱۳۳۹- درمیان
۱۳۴۰- بین ایک بہر درمیان، آگے آنے	
۱۳۴۱- لایحیون نہیں گھیر سکتے	
	(مصدر: احاطۃ)
۱۳۴۲- کرسی	۱۳۴۲- کرسی
۱۳۴۳- اود	۱۳۴۳- تھکانا
۱۳۴۴- لا یؤد	۱۳۴۴- نہیں تھکا سکے
۱۳۴۵- علی	۱۳۴۵- بلند، اعلیٰ
۱۳۴۶- اخی	۱۳۴۶- زبردستی
۱۳۴۷- الذین	۱۳۴۷- دین اسلام
۱۳۴۸- تبیین	۱۳۴۸- ظاہر ہو گئی
	ممتاز ہو گئی
۱۳۴۹- غی	۱۳۴۹- کسری، بغاوت، نافرمانی

سورۃ لقہ (۲۱)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۵۰- طاعوت	۱۳۵۰- سرکش، ہر وہ چیز جو قدر کے مقابل ہو
۱۳۵۱- استمسک	۱۳۵۱- پکڑ رکھا
۱۳۵۲- عزوۃ	۱۳۵۲- کڑا دستہ
۱۳۵۳- وثقی	۱۳۵۳- مضبوط، بہت مضبوط
۱۳۵۴- لانیضامہ	۱۳۵۴- نہیں لوٹا
۱۳۵۵- دوی	۱۳۵۵- دوست
	(جمع: اولیاء)
۱۳۵۶- ظلمات	۱۳۵۶- اندھاری
۱۳۵۷- نوئ	۱۳۵۷- روشنی
	(جمع: نوئ)
۱۳۵۸- حاج	۱۳۵۸- حجت کی جھکڑا کیا
۱۳۵۹- یحییٰ	۱۳۵۹- زندہ کرتا ہے
۱۳۶۰- یبیت	۱۳۶۰- مارتا ہے
۱۳۶۱- انا	۱۳۶۱- میں
۱۳۶۲- شمس	۱۳۶۲- سورج
۱۳۶۳- بہت	۱۳۶۳- مہموت ہو گیا،
	بھونچو کارہ گیا
۱۳۶۴- اذ	۱۳۶۴- یا
۱۳۶۵- ک	۱۳۶۵- مانند،
	کی طرح

پارہ نمبر (۲۱)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۶۶- نکموا	۱۳۶۶- گزرنا
۱۳۶۷- لحمًا	۱۳۶۷- گوشت
۱۳۶۸- ابرانی	۱۳۶۸- بستی، گاؤں
۱۳۶۹- اوتکم	۱۳۶۹- جمع: قرئی
۱۳۷۰- یطہین	۱۳۷۰- اطمینان پکڑے
۱۳۷۱- قلبی	۱۳۷۱- میرا دل
	(جمع: قلب)
۱۳۷۲- حن	۱۳۷۲- لے، پکڑ لے
۱۳۷۳- امر بعة	۱۳۷۳- چارہ
۱۳۷۴- طیر	۱۳۷۴- پرند، اڑتا جانور
	(جمع: طیور)
۱۳۷۵- صر	۱۳۷۵- مانوس کر، پال لے
	صورت پہچان لے
۱۳۷۶- جبیل	۱۳۷۶- پہاڑ
	(جمع: جبیل)
۱۳۷۷- جزع	۱۳۷۷- حصہ، ٹکڑا
۱۳۷۸- سعیا	۱۳۷۸- دوڑ کر
	(جمع: سعیا)
۱۳۷۹- حبیۃ	۱۳۷۹- دانہ
۱۳۸۰- انبتت	۱۳۸۰- اگانا

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۱۳۶۶- نکموا	۱۳۶۶- گزرنا
۱۳۶۷- لحمًا	۱۳۶۷- گوشت
۱۳۶۸- ابرانی	۱۳۶۸- بستی، گاؤں
۱۳۶۹- اوتکم	۱۳۶۹- جمع: قرئی
۱۳۷۰- یطہین	۱۳۷۰- اطمینان پکڑے
۱۳۷۱- قلبی	۱۳۷۱- میرا دل
	(جمع: قلب)
۱۳۷۲- حن	۱۳۷۲- لے، پکڑ لے
۱۳۷۳- امر بعة	۱۳۷۳- چارہ
۱۳۷۴- طیر	۱۳۷۴- پرند، اڑتا جانور
	(جمع: طیور)
۱۳۷۵- صر	۱۳۷۵- مانوس کر، پال لے
	صورت پہچان لے
۱۳۷۶- جبیل	۱۳۷۶- پہاڑ
	(جمع: جبیل)
۱۳۷۷- جزع	۱۳۷۷- حصہ، ٹکڑا
۱۳۷۸- سعیا	۱۳۷۸- دوڑ کر
	(جمع: سعیا)
۱۳۷۹- حبیۃ	۱۳۷۹- دانہ
۱۳۸۰- انبتت	۱۳۸۰- اگانا

پارۃ سب

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۴۹۹- سَبَّحَ سَائِحٌ
 ۱۵۰۰- سَنَابِلٌ بَالِيَا (سُنْبُلَةٌ)
 (واحد بالی)
 ۱۵۰۱- يُضَاعَفُ بَطْهَاتَا سَبَّ
 (مصدر: مُضَاعَفَةٌ)
 ۱۵۰۲- يَنْفِقُونَ خَرِجَ كَرْتَيْ سَبَّ
 (مصدر: انْفَاقٌ)
 ۱۵۰۳- اَمْوَالٌ مَالٌ رَجَعٌ
 ۱۵۰۴- لَا يَبْتَغُونَ نَهَيْ سَبَّ يَبْتَغِي لَاتِي
 (اِتْبَاعٌ يَبْتَغِي لَانَا)
 ۱۵۰۵- مَنَّا اِحْسَانٌ
 ۱۵۰۶- اَذَى اَذَى سَتَانَا تَكْلِيْفٌ
 اذیت۔
 ۱۵۰۷- قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بَاتٍ مَعْقُولٌ
 ۱۵۰۸- مَعْقُوفَةٌ وِرْكَدٌ
 ۱۵۰۹- صَدَقَاتٌ خَيْرَاتٌ
 ۱۵۱۰- غَنِيٌّ غَنِيٌّ
 ۱۵۱۱- حَلِيمٌ تَحَلَّى وَالَا
 ۱۵۱۲- لَا تَبْطُلُوا مَتَّ بَاطِلٌ كَرُو
 ۱۵۱۳- اَلْكَذِبِيُّ مَانِدَا سَخِصٌ كِي

سورة لقمة (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۱۴- سَرَكَاءٌ دَكْهَلَانَا رِيَا كَرِنَا
 ۱۵۱۵- صَفْوَانٌ صِيَا فِجَلْنَا بِتَهْرٌ
 ۱۵۱۶- تَرَابٌ مَسِيٌّ
 ۱۵۱۷- اَصَابَ طَرِيٌّ بَرِيٌّ
 ۱۵۱۸- وَاِبِلٌ بَارِشٌ زَوْرِكِي
 ۱۵۱۹- صَلْدَا جَلْنَا صَا فِ سَخْتِ
 ۱۵۲۰- لَا يَقْدِرُونَ اِقْتِيَارَ نَهَيْ سَبَّ كَحْتِي يَا
 اُنْ كِي مَاتَه نَهَيْ سَبَّ كِي
 ۱۵۲۱- اِتْبَاعٌ چَاهِنَا، دُحُونَانَا،
 تَلَا شَ كَرِنَا۔
 ۱۵۲۲- مَوْصَاتُ اللّٰهِ رِضَا مَنَدِي،
 خُوشِي اللّٰهِ كِي۔
 ۱۵۲۳- تَبِيَّتَا جَمَانَا مَضِيوُطٌ،
 تَابِتٌ
 ۱۵۲۴- جَنَّةٌ بَارِعٌ
 (رَجَعٌ: جَنَاتٌ)
 ۱۵۲۵- سَرَابُوتَةٌ بَلَنْدِي، بَلَنْدِجَكِ
 ۱۵۲۶- اُكْلٌ مِيوَه، پَهْلٌ
 ۱۵۲۷- ضَعْفَيْنِ دُوكِنَا
 ۱۵۲۸- طَلٌّ شَبْنَمٌ، پُجُوَارٌ

پارۃ سب

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۲۹- وَدَّ جَاهِنَا
 ۱۵۳۰- اَحَدُكُمْ كُونِي تَهَارَا،
 كُونِي تَمَّ مِيں
 ۱۵۳۱- فَحْيِلٌ كَهْجُورٌ
 ۱۵۳۲- اَعْتَابٌ اَنُكُورٌ
 (واحد: عَنَبٌ)
 ۱۵۳۳- كَبْرٌ بُرْهَاطَا
 ۱۵۳۴- ذُرِّيَّةٌ اولاد
 ۱۵۳۵- ضَعْفَاءٌ ضَعِيْفٌ، كَمَزُورٌ
 (رَجَعٌ سَبَّ ضَعِيْفُ كِي)
 ۱۵۳۶- اَعْصَابٌ بَكُوْلَةٌ
 ۱۵۳۷- اِحْتَوَتْ جَلَّ اَطْهَا، جَلَّ كِيَا
 (رَجَعٌ: رِقٌ)
 ۱۵۳۸- تَفَكَّرُوا تَفَكَّرُ كَرُو مَكْمٌ
 ۱۵۳۹- طَبِيَّتٌ يَآكِ چِيْرِيں
 ۱۵۴۰- لَا تَبْتَلُوا مَتَّ نَيْتُ كَرُو،
 مَتَّ قَصْدُ كَرُو
 ۱۵۴۱- خَبِيثٌ نَآپَاكٌ، سُرِيٌّ، كَنْدِي
 ۱۵۴۲- لَسْتُكُمْ نَهَيْ سَبَّ هُو مَكْمٌ
 ۱۵۴۳- اَخِذِي لِيْسِيں وَآلِي

سورة لقمة (۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۵۴۴- لَغِيضُوا آنکھ موند لو
 ۱۵۴۵- عَفِضٌ آنکھ موند لینا،
 چشتم پوشی کرنا۔
 ۱۵۴۶- حَبِيْبٌ خُوبِيوں وَآلَا
 ۱۵۴۷- فَقرٌ تَنگِي
 ۱۵۴۸- فَحْشَاءٌ بِي حِيَانِي
 ۱۵۴۹- يُوْرِي دِي تَا سَبَّ
 ۱۵۵۰- حَكِيْمَةٌ سَبَّ
 ۱۵۵۱- يَنْ كَرُو نَهِيْتِ قَوْلِ كَر تَا سَبَّ
 ۱۵۵۲- نَفَقَةٌ خِيْرَاتٌ، لَاهُ خُدَا
 مِيں خَرِجَ كَرِنَا
 ۱۵۵۳- نَدْرَتْ نَدْرَمَانِي تَمَّ نِي يَا
 مَنَّتْ مَانِي
 ۱۵۵۴- اِنْ اَكْرٌ
 ۱۵۵۵- تَبَدُّوا ظَا هِرْ كَرُو
 (دَبْدُو)
 ۱۵۵۶- نَعِيْمًا اِچْھَا
 ۱۵۵۷- فَقرٌ حَاجَتِ مَنَدِ
 ۱۵۵۸- يَكْفُرٌ دُورِ كَر دِي كَا
 ۱۵۵۹- سَيِّئَاتٌ بُرَا تِيَاں
 دَسِيْنَةُ بُرَا تِيَاں

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۶۰۔ لَيْسَ نہیں ہے
۱۵۶۱۔ لَكِنْ لیکن
۱۵۶۲۔ وَجْهَ اللَّهِ رضامندی اللہ کی
۱۵۶۳۔ يَوْمَ پورا دیا جائے گا
۱۵۶۴۔ اُخْصَوْ ذَا رُوكَ لَمْ يَكُنْ۔
بند کئے گئے

(ح ص س)

۱۵۶۵۔ ضَرَبْنَا چلنا
۱۵۶۶۔ يَحْسَبُ گمان کرتا ہے
(ح س ب)
۱۵۶۷۔ اَعْدِيَاءَ دولت مند
(دواحد : غائب)
۱۵۶۸۔ تَعَفُّدٌ بے سوالی، سوال
سے بچنا، خودداری
۱۵۶۹۔ تَعْرِفُ پہچانتا ہے

(ع س ف)

۱۵۷۰۔ سَيِّمًا علامت، نشانی
۱۵۷۱۔ اِلْحَافًا لپٹ کر
الرُّبْعُ

۲۷
ع

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۷۲۔ بَشَرًا پچھے
۱۵۷۳۔ عَلَانِيَةً ظاہر، علانیہ
۱۵۷۴۔ اَلرُّبَا سُود
۱۵۷۵۔ لَا يَقُولُونَ نہیں کھڑے ہوئے
۱۵۷۶۔ كَمَا جِيسے
۱۵۷۷۔ يَتَخَيَّطُ بادلا کر دیا،
خبطی کر دیا۔
۱۵۷۸۔ مَسَّ چھونا، لپٹ جانا
۱۵۷۹۔ بَيْعٌ لین دین، تجارت
آیا
۱۵۸۰۔ جَاءَ آیا
۱۵۸۱۔ مَوْعِظَةً نصیحت
۱۵۸۲۔ اِنْتَهَى باز رہا
۱۵۸۳۔ سَلَفٌ پہلے ہو چکا،
ہو کر رہا
۱۵۸۴۔ عَادَ پھر کرنا
(مصدر : عَوَدٌ)
۱۵۸۵۔ مَحَقٌّ مٹانا
۱۵۸۶۔ يُؤَيِّنُ بڑھاتا ہے
۱۵۸۷۔ كَفَّاسٌ ناشکر، کھر کھر والا
(دواحد : كَافٍ)
۱۵۸۸۔ اُنْزِمَ گنہگار

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

۱۵۸۹۔ ذُرِّيًّا چھوڑ دو
۱۵۹۰۔ بَقِيٌّ باقی رہا ہو
۱۵۹۱۔ مُؤْمِنِينَ ایمان لائے والے
۱۵۹۲۔ فَادُّوْا پس خبردار ہو جاؤ
اعلان سن لو
(اذن)
۱۵۹۳۔ حَرِيْبٌ لڑائی
۱۵۹۴۔ اِنِّي اگر۔ ان کے بعد
اگر الا کا لفظ آئے
تو معنی انہیں کے ہونگے
جیسا کہ لفظ نمبر ۵۹۲
پہلے پارہ میں دَانَ
هُمَا اَلَا يَظُنُّوْنَ
کون سے سورۃ بقرہ
تو یہ کرو تم
۱۵۹۵۔ تَبَيَّنَتْ تو یہ کرو تم
۱۵۹۶۔ مَرَّةً وَسِ اَصْل
والا
۱۵۹۷۔ دُوٌّ دُور
۱۵۹۸۔ عَسْرًا تنگی
۱۵۹۹۔ نَظْرًا مہلت، انتظار
۱۶۰۰۔ مَيْسِرًا فراغت، آسانی
۱۶۰۱۔ اُنْ کہ

سورۃ بقرہ (۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۱۶۰۲۔ تَصَدَّقُوا تم صدقہ کرو
۱۶۰۳۔ تُرْجَعُونَ تم لوٹائے جاؤ گے
۱۶۰۴۔ تُؤْتَى پورا دیا جائے گا
۱۶۰۵۔ تَنْ اَيْنَ قرض کا معاملہ کرنا
۱۶۰۶۔ ذَبِيْنٌ قرض، ادھار
۱۶۰۷۔ اَجَلٌ مُّسَمًّى وقت مقرر
۱۶۰۸۔ وَكَيْلٌ اور چاہیے کہ لکھے
۱۶۰۹۔ كَاتِبٌ لکھنے والا
۱۶۱۰۔ عَدْلٌ انصاف
۱۶۱۱۔ لَا يَأْتِ انکار نہ کرے
۱۶۱۲۔ يُبْمَلِّ لکھا دے،
اعلا کرادے
۱۶۱۳۔ يَبْعَثُ کم کرنا
۱۶۱۴۔ سَفِيْهًا بے وقوف
۱۶۱۵۔ ضَعِيْفًا ناتواں، کمزور،
ضعیف
۱۶۱۶۔ وَكِيٌّ وارث، والی
۱۶۱۷۔ اِسْتَشْهَرُوا شاہد کرو، گواہ کرو
۱۶۱۸۔ مُهَيَّبِينَ دُکُوْاه (تشتیہ)
۱۶۱۹۔ سِرْبَالٌ مرد (دواحد : سِرْبَلٌ)

پارہ نمبر ۳۰

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۲۰- اَمْرًا تَنْبِي دُور تیں
 ۱۴۲۱- تَرْضَوْنَ تم پسند کرتے ہو
 ۱۴۲۲- شَهْدَاءِ گواہ
 ۱۴۲۳- تَضَلُّ جھول جائے
 ۱۴۲۴- اِحْدٰهُمَا ایک اُن دونوں
 میں سے
 ۱۴۲۵- تَنْ كَرَّ ياد دلاتے
 ۱۴۲۶- اُخْرٰى دوسری
 ۱۴۲۷- اِذَا مَا دُعُوا جب بلکارے جائیں
 بلانے جائیں
 ۱۴۲۸- لَا تَسْمَعُوا مت کاہلی کرو
 ۱۴۲۹- سَامِعٌ سستی کرنا،
 کاہلی کرنا، اکتانا
 ۱۴۳۰- صَغِيرًا چھوٹا
 ۱۴۳۱- كَبِيرًا بڑا
 ۱۴۳۲- اَقْسَطُ بہت انصاف،
 اچھا انصاف
 ۱۴۳۳- اَقْوَمُ بہت درست،
 بہت سیدھا
 ۱۴۳۴- شَهَادَةٌ گواہی
 ۱۴۳۵- اَذْنٰى بہت نزدیک

سُورَةُ لِقَاحِ (۳۰)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۳۶- لَا تَكْفُرُوا نہ شک کرو
 (در رُؤْب: شک)
 ۱۴۳۷- حَافِضًا یا تحوں با تحفہ،
 حاضر تیں
 ۱۴۳۸- تَنْبِيْزُونَ تم پھیر بدل کرتے ہو
 (دوسرا)
 ۱۴۳۹- لَا يُضَارُّ نہ ضرر پہنچایا جائے
 (ض سر)
 ۱۴۴۰- فُسُوْقٌ گنہ گاری
 ۱۴۴۱- يُعَلِّمُ سکھاتا ہے
 ۱۴۴۲- رَاهِنٌ گروی رکھنا،
 رہن رکھنا
 ۱۴۴۳- مَقْبُوْصَةٌ قبضہ میں دی ہوئی
 اعتبار کرنا، امین جاننا
 ۱۴۴۵- يُوَدِّدُ ادا کرنے
 ۱۴۴۶- اَنْتُمْ گنہ گار
 (ح س ب)
 ۱۴۴۹- سَمِعْنَا سنا ہم نے

پارہ نمبر ۳۰

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۴۵۰- اَطَعْنَا مانا ہم نے
 ۱۴۵۱- عَفُوْا اَنكَ تیری مغفرت درگا ہے
 ۱۴۵۲- مَصِيْرٌ کوٹنا
 ۱۴۵۳- لَا يَكْلِفُ نہیں تکلیف دیتا
 (ك ل ف)
 ۱۴۵۴- نَسَبْنَا ہم بھول گئے
 ۱۴۵۵- اَحْطَاْنَا ہم سے چوک ہو جائے
 ۱۴۵۶- دَاعَفُ اور درگزر کر
 ۱۴۵۷- مَوْلِدُنَا دوست ہمارا
 بچ

ال عمران سورہ

- ۱۴۵۸- نَزَّلَ اُتارا
 ۱۴۵۹- مَصَدِّقًا تصدیق کرنی والی
 ۱۴۶۰- لِيُنذِرَ اِسْرَاسَ پہلے
 ۱۴۶۱- ذَوَاتِ شِقَاقٍ انتقام لینے والا
 ۱۴۶۲- لَا يَخْفٰى نہیں چھپی
 ۱۴۶۳- يَصُوْرٌ صورت بنانا ہے،

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (۳۰)

نمبر شمار عربی اُردو

- تصویر دس ور
 ۱۴۶۴- اَمْرًا حَامٍ پیرٹ کا وہ حصہ،
 جہاں پر شکر مامور
 میں رہتا ہے
 ۱۴۶۵- كَيْفٌ جیسے، کیسے بھی
 ۱۴۶۶- مُحْكَمَاتٌ صاف معنی، محکم،
 پختی، مضبوط
 ۱۴۶۷- اَمْرًا الْكَلْبِ جڑ کتاب کی
 مراد اصل کتاب
 ۱۴۶۸- اُخْرٰى دوسری
 ۱۴۶۹- مَسْتَهْفٰتٌ ملتی جلتی
 کسی اُن دیکھی چیز کو
 کم علم شخص کو سمجھانے
 کے لئے اسکی سمجھ میں
 آنے والے اور مشاہدہ
 کے الفاظ کو استعمال
 کر کے ایسی بات
 سمجھانا جو اُس نے
 نہ دیکھی ہو، یا مثال
 کے ذریعے سے پوشیدہ
 اور غیبی چیزوں کے

بازارِ عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۱۳- اِنْعَامُ موشی، چوپائے
 ۱۷۱۵- حَرَاتٌ کھیتی
 ۱۷۱۶- حَسَنُ الْمَاءِ اچھا ٹھکانا، اچھی جگہ
 ۱۷۱۷- اِنْرَاجٌ جوڑے، بیویاں
 ۱۷۱۸- مَطْهَرَةٌ پاک صاف، تھری
 ۱۷۱۹- رِضْوَانٌ رضامندی
 ۱۷۲۰- بَصِيرَةٌ دیکھنے والا
 (مصدر: بَصَارَةٌ)
 ۱۷۲۱- عِبَادٌ بندے
 ۱۷۲۲- قَنَا بچا، ہم کو
 دق بچا۔ ناہم کو،
 سچے
 ۱۷۲۳- صِدْقَيْنٌ فرمانبرداری کرینوالے
 ۱۷۲۴- قَانِتَيْنٌ فرمانبردار
 ۱۷۲۵- قَانِتٌ خراج کرینوالے
 ۱۷۲۶- مُسْتَفِيَيْنٌ بخشش مانگنے والے
 ۱۷۲۷- مُسْتَعْرِفَيْنٌ مغفرت چاہنے والے
 ۱۷۲۸- اَسْحَاكُ رات کی آخری گھڑیاں
 رات کا پچھلا حصہ
 ۱۷۲۹- شَهْدٌ گواہی دی
 ۱۷۳۰- اِنَّهٗ کہ وہ

بازارِ عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۳۱- اُولُو الْعِلْمِ علم والے
 ۱۷۳۲- قَائِمٌ قائم
 ۱۷۳۳- قِسْطٌ انصاف
 ۱۷۳۴- اِعْنَ بَزٌ غالب
 ۱۷۳۵- حَكِيمٌ حکمت والا
 اَلتَّصِفُ
 ۱۷۳۶- سَمِعَ اِحْسَا جلد حساب لینے والا
 ۱۷۳۷- اَسْلَمْتُ میں تابع فرمان ہو گیا
 ۱۷۳۸- وَجْهِي رُخ میرا
 ۱۷۳۹- مَنِ اتَّبَعَنِي جس نے اتباع کی
 میری داصل میں
 آخری حرف رنی
 ہے یعنی میری
 عبارت میں صرف
 ن مجھے اور میرا
 ترجمانی کرتا ہے۔
 ۱۷۴۰- تَوَلَّوْا پھر گئے وہ
 ۱۷۴۱- بَلَغَ پہنچا دینا
 ۱۷۴۲- يَأْمُرُونَ حکم کرتے ہیں

بازارِ عربی (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۷۴۳- حَبِطَتْ غارت ہو گئے
 (ح ب ط)
 ۱۷۴۴- غَرَّ فريب دیا، دھوکہ دیا
 ۱۷۴۵- مَا يَفْتَرُونَ جھوٹ بتاتے تھے
 جو کچھ
 ۱۷۴۶- كَيْفَ کیسے، کس طرح
 ۱۷۴۷- وَوَقَيْتٌ پورا دیا جاتے گا
 ۱۷۴۸- اَللّٰهُمَّ يَا اللّٰه مالک
 ۱۷۴۹- مَا لَكَ مالک
 ۱۷۵۰- اَمْلَكَ سلطنت، مالک
 ۱۷۵۱- تَشَاءُ تو چاہتا ہے
 ۱۷۵۲- تَنْزِعُ تو چھین لیتا ہے
 دن س ع
 ۱۷۵۳- تَنْزِلٌ تو ذلیل کرتا ہے
 ہاتھ
 ۱۷۵۴- يَدٌ بے شک تو
 ۱۷۵۵- اَنْكَ بے شک تو
 ۱۷۵۶- تَوَلَّجُ تو داخل کرتا ہے
 (د و ل ج)
 ۱۷۵۷- لَيْلٌ رات
 ۱۷۵۸- نَهَاْسٌ دن
 ۱۷۵۹- اَوْلِيَاءُ دوست
- نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۷۶۰- اِدْوَنُ سوا
 ۱۷۶۱- نَبِيٌّ شَيْئِي کسی معاملہ میں،
 کسی شئی میں
 ۱۷۶۲- نَقَّةٌ بجا و کرنا
 ۱۷۶۳- يَحْزِرُ ڈرتا ہے دھڑرہ
 ۱۷۶۴- نَفْسُهُ اپنی ذات سے
 ۱۷۶۵- مَحْضِيٌّ حاضر، موجود
 ۱۷۶۶- اَمَلٌ اَكْبَرُ مسافت ڈور کی
 ۱۷۶۷- اَبْرٌ عَرُوفٌ شفقت کرنے والا
 بچ
 ۱۷۶۸- ذُرِّيَّةٌ اولاد
 (جمع: ذُرِّيَّاتٌ)
 ۱۷۶۹- اِمْرَأَتٌ بیوی، عورت
 ۱۷۷۰- بَطْنٌ پیٹ
 ۱۷۷۱- مُحَرَّرٌ آزاد کیا ہوا
 ۱۷۷۲- وَضَعْتُ جنی (بچہ جنی)
 ۱۷۷۳- وَضِعَ جننا
 ۱۷۷۴- اَلذَّكَرُ مرد
 ۱۷۷۵- اُنْثَى عورت
 ۱۷۷۶- سَمِيَتْ نام رکھا میں نے
 (س م ی)

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۷۷- اُعِينُ	پناہ میں دیا میں نے
۱۰۷۸- اُنْكَبْتُ	اٹھایا، اگایا، بڑھایا
۱۰۷۹- اُنْبَاتًا	اگانا، بڑھانا
۱۰۸۰- اُكْفَلُ	کفیل مقرر کیا،
	پرورش کیلئے سوچنا
۱۰۸۱- اِحْرَابٌ	محراب حجرہ، مکہ و عبادت
	گاہوں سے متصل سطح
	زمین سے بلندی پر
	بنائے جانوالے کرے
	جو فلام اور علماء کیلئے
	مخصوص ہوتے تھے
۱۰۸۲- اُنِّيْ	کہاں
۱۰۸۳- هُنَالِكَ	اُسی جگہ وہیں
۱۰۸۴- دَعَا	پکارا
۱۰۸۵- هَبْ	دے
۱۰۸۶- مِنْ لَدُنْكَ	تیری طرف سے
۱۰۸۷- مُصَدِّقًا	تصدیق کرنا والا
۱۰۸۸- كَلِمَةً	فرمان، بات
۱۰۸۹- سَرْدَارٌ	سر دار
۱۰۹۰- حَصُوْدًا	پارسا، معصوم

سُوْرَةُ اَلْعُرُوْدِ (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۰۹۱- عَلَّمُ	لوکا جمع، علمائے
۱۰۹۲- كَبُرُ	بڑھاپا
۱۰۹۳- عَاقِرًا	بانجھ
۱۰۹۴- اَلَا	کہ نہیں دان لاء
۱۰۹۵- سَرْمَدًا	اشارہ
۱۰۹۶- سَبَّحَ	پاک بیان کر
۱۰۹۷- عَشِيًّا	شام
۱۰۹۸- اِبْكَا	صبح
	پہلے
۱۰۹۹- اَقْدَبِيْ	فرمان برداری کر
۱۱۰۰- اُنْبَاءٌ	تجربیں دوحد: نبیاء،
۱۱۰۱- نُوْحِيْ	ہم وحی کرتے ہیں۔
۱۱۰۲- مَا كُنْتُ	نہیں تھا تو
۱۱۰۳- لَدَيْهِمْ	پاس اُن کے
۱۱۰۴- لَدَيْ	نزدیک، پاس
۱۱۰۵- اِدْبِاقُوْنَ	جب ڈالتے تھے
۱۱۰۶- اَقْلَامٌ	قلمیں دوحد: قلم،
۱۱۰۷- اَيُّهُمْ	کون اُن میں کا
۱۱۰۸- اَيُّ	کون
۱۱۰۹- يَخْتَصِمُوْنَ	بھگڑا کرتے تھے
۱۱۱۰- وَجِيْهًا	ذی عزت، ابرو والا

پارہ نمبر (۳)

نمبر شمار عربی اردو

۱۱۱۱- مُقَرَّبِيْنَ	قریب کئے ہوئے لوگ
۱۱۱۲- مَهْدًا	جھولا، گوارہ، گود
۱۱۱۳- كَهْلًا	ادھیڑ عمر
۱۱۱۴- يَشْرًا	آدمی
۱۱۱۵- قَضَىٰ	فیصلہ کیا، مقرر کیا
۱۱۱۶- اَهْرًا	کام
۱۱۱۷- اَخْلَقَ	بنانا ہوں میں
۱۱۱۸- طِيْنًا	مٹی
۱۱۱۹- كَهَيْبَةً	جیسے، مانند، شکل
۱۱۲۰- طَبْرًا	پرنڈ جمع: ٹیڈوں،
۱۱۲۱- نَفْحًا	پھونکنا
۱۱۲۲- اِذْنَ اللّٰهِ	اللہ کا حکم
۱۱۲۳- اَبْرِيْ	چکا کرنا ہوں اچھا کرنا ہوں
۱۱۲۴- اَلِكَهْنَةَ	مادر زاداندا
۱۱۲۵- اَبْرَصًا	کوڑھی
۱۱۲۶- مَوْتًا	مردے
۱۱۲۷- تَلَّخْرُوْنَ	جمع کرتے ہو،
	ذخیرہ کرتے ہو
۱۱۲۸- اَحْسَسَ	دیکھا، احساس کیا۔
۱۱۲۹- اَنْفُسًا	مددگار
۱۱۳۰- حَوَاهِيْرًا	حضرت عیسیٰ کے صحابی

سُوْرَةُ اَلْعُرُوْدِ (۳)

نمبر شمار عربی اردو

یا کھڑے سفید کرنا والے	
۱۱۳۱- نَحْنُ	ہم
۱۱۳۲- مَكْرًا	تدبیر کرنا، چال کرنا
	ع
الثلاثه	
۱۱۳۳- مَتَوَقِّفًا	تھکوا واپس لینے والا ہوں
	کسی عہدیدار کو اسکے
	منصب سے واپس بلانا
۱۱۳۴- رَفَعًا	بلند کرنے والا ہوں
۱۱۳۵- يُوْفِيْ	پورا دے گا
۱۱۳۶- اَجْرًا	داجری جمع، بدلہ
۱۱۳۷- تَوَابًا	مٹی
۱۱۳۸- نَبْتًا	ہم دل سے دعا کریں
۱۱۳۹- اِبْتِهَالًا	توجہ سے دعا مانگنا
	دب لے لے
۱۱۴۰- قَصَصًا	بیانِ قصص، بیخبر،
	قصہ
۱۱۴۱- سَوَاءً	برابر
۱۱۴۲- اَوْءًا	آواز، آجاؤ
۱۱۴۳- اَنْبَايًا	پائے والے رزق کی بات
۱۱۴۴- اَنْتُمْ	ہاں تم ہو

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۳۵- هُوَ لَآئِيْءٌ يَهُودِيٌّ يَمْلِكُ آلِيْنَ قَيْسِ بْنِ رَبِيْعٍ
۱۸۳۶- حَاكِمٌ مِّنْكُمْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُخَوِّفَ بِهِ الْوَجْهَ الْوَقِيْعِيْنَ
۱۸۳۷- اُوْدِيْ النَّاسِ نَزِيْقٌ تَرِيْكُوْنَ

۱۸۳۸- طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَجْمَعُوْنَ لِيُكَلِّمُوْهُ
۱۸۳۹- وَجَاءَ الْوَقِيْعُ يَوْمَئِذٍ مِّنْ غَيْرِ مَوْتٍ

۱۸۵۰- يَخْتَصِمُوْنَ
۱۸۵۱- تَأْتِيْهِمْ فِيْ يَوْمِئِذٍ غِيْرَتُهُمْ حَوِيْمًا

۱۸۵۲- يَخْتَصِمُوْنَ
۱۸۵۳- لَوْ طَاوَسَ الْوَقِيْعُ

۱۸۵۴- فَارْمَأْ
۱۸۵۵- رَاةٍ مِّنْ جَمْعٍ مَّبْنِيٍّ

۱۸۵۶- اُوْدِيْ
۱۸۵۷- اِيْمَانًا قَسِيْمًا

۱۸۵۹- حَلَاقًا حَصِيْمًا
۱۸۶۰- يَلُوْؤُوْنَ مَوْرَتِيْنَ

۱۸۶۱- اَلْسِنَتُهُمْ زَبَابِيْنُ اُنْ كِي
دَوَاخِلُ لِسَانٍ
۱۸۶۲- رِيَابِيْنٍ اَلْوَدُوْدِ اَلرَبِيْعِيْنَ

سُورَةُ اَلْعُرُوْبِ

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۶۳- اَلْعَرَبِيْنَ سَكَّاهِيْنَ
۱۸۶۴- اَلْعَرَبِيْنَ سَكَّاهِيْنَ
۱۸۶۵- اَصْحٰبِيْ

۱۸۶۶- يَبْعُوْنَ
۱۸۶۷- طَوْعًا
۱۸۶۸- كَرِهًا

۱۸۶۹- يَبْعُوْنَ
۱۸۷۰- اَبَادًا

۱۸۷۱- اَبَادًا
۱۸۷۲- اَبَادًا
۱۸۷۳- اَبَادًا

۱۸۷۴- اَبَادًا
۱۸۷۵- اَبَادًا
۱۸۷۶- اَبَادًا

۱۸۷۷- اَبَادًا
۱۸۷۸- اَبَادًا
۱۸۷۹- اَبَادًا

۱۸۸۰- اَبَادًا
۱۸۸۱- اَبَادًا
۱۸۸۲- اَبَادًا

۱۸۸۳- اَبَادًا
۱۸۸۴- اَبَادًا
۱۸۸۵- اَبَادًا

پارہ نمبر ۳

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر ۳

۱۸۷۸- اَبَادًا
۱۸۷۹- اَبَادًا

۱۸۸۰- اَبَادًا
۱۸۸۱- اَبَادًا
۱۸۸۲- اَبَادًا

۱۸۸۳- اَبَادًا
۱۸۸۴- اَبَادًا
۱۸۸۵- اَبَادًا

۱۸۸۶- اَبَادًا
۱۸۸۷- اَبَادًا
۱۸۸۸- اَبَادًا

۱۸۸۹- اَبَادًا
۱۸۹۰- اَبَادًا
۱۸۹۱- اَبَادًا

۱۸۹۲- اَبَادًا
۱۸۹۳- اَبَادًا
۱۸۹۴- اَبَادًا

۱۸۹۵- اَبَادًا
۱۸۹۶- اَبَادًا
۱۸۹۷- اَبَادًا

سُورَةُ اَلْعُرُوْبِ

نمبر شمار عربی اُردو

۱۸۹۳- اَمِنًا
۱۸۹۴- اَمِنًا
۱۸۹۵- اَمِنًا

۱۸۹۶- اَمِنًا
۱۸۹۷- اَمِنًا
۱۸۹۸- اَمِنًا

۱۸۹۹- اَمِنًا
۱۹۰۰- اَمِنًا
۱۹۰۱- اَمِنًا

۱۹۰۲- اَمِنًا
۱۹۰۳- اَمِنًا
۱۹۰۴- اَمِنًا

۱۹۰۵- اَمِنًا
۱۹۰۶- اَمِنًا
۱۹۰۷- اَمِنًا

۱۹۰۸- اَمِنًا
۱۹۰۹- اَمِنًا
۱۹۱۰- اَمِنًا

۱۹۱۱- اَمِنًا
۱۹۱۲- اَمِنًا
۱۹۱۳- اَمِنًا

۱۹۱۴- اَمِنًا
۱۹۱۵- اَمِنًا
۱۹۱۶- اَمِنًا

۱۹۱۷- اَمِنًا
۱۹۱۸- اَمِنًا
۱۹۱۹- اَمِنًا

سُورَةُ آلِ عَمْرٍاءَ

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۹۰۶- اَعْدَاءُ دشمن
 ۱۹۰۷- اَلْفُ اَلْفَتِ دى، محبت دى
 ۱۹۰۸- اَهْبَحْتُمْ ہو گئے تم
 ۱۹۰۹- اِخْوَانًا بھائی
 (واحد: اَخٌ)
 ۱۹۱۰- شَقَا كِنَارِے
 ۱۹۱۱- حَضْرَةٌ گڑھا
 ۱۹۱۲- اَلْقَدَنْ جھڑایا، بجایا
 ۱۹۱۳- وَتَلَكُنْ اور چاہیے کہ ہو
 ۱۹۱۴- اُمَّةٌ ایک جماعت
 ۱۹۱۵- تَلْبِيضٌ سفید ہوں گے
 (دب، ہی، ض)
 ۱۹۱۶- وُجُوهُ جہرے
 (واحد: وَجْهٌ)
 ۱۹۱۷- تَسْوَدٌ کالے ہوں گے
 ۱۹۱۸- تَرْجِعُ رُجُوع کئے جائیں گے
 ۱۹۱۹- اَلْاُمُورِ تمام امور، سب کام
 ۱۹۲۰- حَيِّرٌ اُمَّةٍ بہترین اُمت
 ۱۹۲۱- اِحْرَجْتَ نکالی گئی
 ۱۹۲۲- تَهْلُوْنَ تم منع کرتے ہو

سُورَةُ آلِ عَمْرٍاءَ

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۹۲۳- مُنْكَرٌ بُرَى بات
 ۱۹۲۴- اُدْمَى تکلیف
 ۱۹۲۵- اُدْبَاسٌ بیٹھیں
 (واحد: دُبٌّ)
 ۱۹۲۶- بَاءٌ مستحق ہوا
 ۱۹۲۷- عَصَبًا نافرمانی کی انھوں نے
 ۱۹۲۸- كَانُوا اَعْدَاءً وَزِيَادِي كَرْتِي تَحِي كَانُوا اَعْدَاءً وَزِيَادِي كَرْتِي تَحِي
 ۱۹۲۹- اَعْتَدْنَا زِيَادِي كَرْتِي
 ۱۹۳۰- لَيْسُوا نہیں ہیں وہ
 ۱۹۳۱- سَوَاءٌ برابر
 ۱۹۳۲- اِنَاءٌ اوقات، گھڑی
 ۱۹۳۳- يَسَارِعُونَ جلدی کرتے ہیں
 ۱۹۳۴- حَيِّرَاتٌ اچھے کام
 ۱۹۳۵- صَالِحِينَ صالح لوگ
 (واحد: صَالِحٌ)
 ۱۹۳۶- لَنْ يَكْفُرُوا نہیں نکالیا جائیگا
 اُن کا نہیں ناقدی
 کی جائے گی اُن کی
 ۱۹۳۷- لَنْ نَعْنِي نہیں کام آوے گا
 ہوا
 ۱۹۳۸- بَرِيحٌ ہوا
 ۱۹۳۹- صَوٌّ پالا، تیز سردی

سُورَةُ آلِ عَمْرٍاءَ

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۹۴۰- حَيَاتٌ کھیتی
 ۱۹۴۱- بَطَانَتًا رازدار، دوست
 ۱۹۴۲- اَلَّذِي لَوْ نِہیں کم کریں گے
 (واحد: اَلَّذِي)
 ۱۹۴۳- حَيَالًا تباہی
 ۱۹۴۴- وَدَدًا چاہا انھوں نے
 ۱۹۴۵- عَنِتُّمْ تکلیف میں پڑو تم
 (د ع ن ت)
 ۱۹۴۶- بَدَاتٌ ظاہر ہو گئی
 ۱۹۴۷- بَعْضًا بَعْضًا، ناراضی
 ۱۹۴۸- اَفْوَاهًا منہ
 (واحد: فَوْهٌ)
 ۱۹۴۹- هَا اَنْتُمْ اَوْلَادٌ تم وہ لوگ ہو
 ۱۹۵۰- عَضُّوا کاٹ کھایا انھوں نے
 ۱۹۵۱- عَضُّوا کاٹ کھانا
 ۱۹۵۲- اِنَا مِلَّ اِنگلیاں
 ۱۹۵۳- غَيْظٌ غصہ
 ۱۹۵۴- مَوْلُوا مر جاؤ
 ۱۹۵۵- اِنَّا لَصَدِّقِيْنَ والی بات
 ۱۹۵۶- تَسْتَسْكِمُكُمُ لگے چھوئے تم کو
 (د م، س، س)

سُورَةُ آلِ عَمْرٍاءَ

نمبر شمار عربی اُردو

- ۱۹۵۷- تَسْوَاهُمْ بُرَا لگے ان کو
 ۱۹۵۸- فَرَحٌ خوش ہونا
 ۱۹۵۹- كَيْدٌ تدبیر، چال
 ۱۹۶۰- عَدُوَّتٌ سویرے چلاؤ،
 (د ع، د، د)
 ۱۹۶۱- تَبَوَّأَتْ جگہ بتائی تو نے
 ۱۹۶۲- تَبَوَّأَتْ جگہ دینا
 ۱۹۶۳- مَتَاعِدٌ بیٹھنے کی جگہ
 (واحد: مَتَاعِدٌ)
 ۱۹۶۴- جَنَاحٌ جنگ، لڑائی
 ۱۹۶۵- هَمٌّ ارادہ کرنا، قصد کرنا
 ۱۹۶۶- طَائِفَتَانِ دو جماعتیں
 ۱۹۶۷- تَقَشَّلَا بھسل جائیں،
 بزدل بن کر
 ۱۹۶۸- فَشَلَّ بزدلی کرنا،
 بھسل جانا
 ۱۹۶۹- بَدْرٌ جنگ بدر
 ۱۹۷۰- اَدْلَةٌ ذلیل
 (واحد: ذَلِيلٌ)
 ۱۹۷۱- اَلَّذِي کیا نہیں

پارہ نمبر ۳۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۹۷۲۔ یُھد مدد کرے
 ۱۹۷۳۔ ثَلَاثَةَ الْآفِ تین ہزار
 ۱۹۷۴۔ مُنْذَرِ لَیْنِ اُنار سے ہوئے
 ۱۹۷۵۔ بَلِیٰ بلکہ، کیوں نہیں
 ۱۹۷۶۔ فُؤْرًا جوش
 ۱۹۷۷۔ خَمْسَةَ پانچ
 ۱۹۷۸۔ مُسْمِیْنِ نشان لگے ہوئے

الرابع

۱۹۷۹۔ بُشْرٰی خوشخبری
 ۱۹۸۰۔ نَطْمِیْنِ اطمینان ہو جائے
 ۱۹۸۱۔ قَطْعًا کاٹنا
 ۱۹۸۲۔ طَرْفًا بازو، حصہ
 ۱۹۸۳۔ کَلْبًا ذلیل کرنا
 ۱۹۸۴۔ یَنْقَلِبُوْا پلٹ گئے
 (مصدر: اِنْقِلَاب)
 ۱۹۸۵۔ خَائِبِیْنِ ناامرد
 ۱۹۸۶۔ اَضْحَافًا دوگنا بڑھتا
 ۱۹۸۷۔ مَضَاعِفًا کئی گنا بڑھتا
 ۱۹۸۸۔ اَعْدَاتٌ تیار کی گئی

سُورَةُ آلِ عَرٰفِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۱۹۸۹۔ سَارِعُوْا جلدی کرو
 (دس راع)
 ۱۹۹۰۔ عَرَضٌ چوڑائی، عرض
 ۱۹۹۱۔ سَوَاعِدٌ خوشی
 ۱۹۹۲۔ ضُرَّاءٌ سختی
 ۱۹۹۳۔ کَاطِبِیْنَ نبی جانے والے
 ۱۹۹۴۔ غَیْظٌ غصہ
 ۱۹۹۵۔ عَاقِبِیْنَ معاف کرنا والے
 ۱۹۹۶۔ فَاجِشْتُمْ بے حیائی
 ۱۹۹۷۔ ذُوْجٌ گناہ
 (واحد: ذَنْبٌ)
 ۱۹۹۸۔ لَمْ نہیں
 ۱۹۹۹۔ یُضَوِّدُ ہٹ، ضد کرنا
 ۲۰۰۰۔ نَعَمٌ بہت اچھا
 ۲۰۰۱۔ عَامِلِیْنَ کام کرنے والے
 ۲۰۰۲۔ سُنَنٌ راہیں
 ۲۰۰۳۔ سِیرٌ سیر کرو
 ۲۰۰۴۔ عَاقِبَةٌ انجام
 ۲۰۰۵۔ بَیِّنٌ بیان
 ۲۰۰۶۔ مَوْعِظَةٌ نصیحت
 ۲۰۰۷۔ لَآ تَهْتَدُوْا مت سستی کرو

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۰۰۸۔ اَعْلَوْنَ بلند ہو گے
 (واحد: اَعْلٰی)
 ۲۰۰۹۔ تَوَحُّحٌ زخم
 ۲۰۱۰۔ حَسٌّ لگا، چھوا
 ۲۰۱۱۔ اَیَّامٌ دن
 ۲۰۱۲۔ نَدْوٰی ہم باری باری
 پھرتے ہیں
 ۲۰۱۳۔ دَدُوْنَ گردش
 دینا
 ۲۰۱۴۔ یَبْحِصُّ وہ خالص کرتا ہے
 ۲۰۱۵۔ یَبْحِصُّ خالص کرنا
 ۲۰۱۶۔ مَحَقٌ مٹانا
 ۲۰۱۷۔ تَمْتَنُّوْنَ تم تمنا کرتے تھے
 ۲۰۱۸۔ فَا کیا؟
 ۲۰۱۹۔ اِنْ اگر
 ۲۰۲۰۔ اِنَّا کیا پس اگر
 ۲۰۲۱۔ مَاتَ مر جائے
 ۲۰۲۲۔ اِنْقَلَبْتُمْ پھر جاؤ گے
 ۲۰۲۳۔ اَعْقَابٌ ایرٹیاں
 ۲۰۲۴۔ اَعْقَابٌ ایرٹیاں
 ۲۰۲۵۔ اَصَابَ پڑی دمہیبت پڑنا
 ۲۰۲۶۔ صُعْفٌ کمزوری
 ۲۰۲۷۔ مَا اسْتَسْکَلُوْا نہیں عاجز ہوئے
 ۲۰۲۸۔ اَسْرَافٌ زیادتی
 ۲۰۲۹۔ تَبَّتْ ثابت رکھ
 ۲۰۳۰۔ حُسْنٌ بہت اچھا، خوب
 ۲۰۳۱۔ نُلْقِیْ ہم ڈالیں گے
 ۲۰۳۲۔ رُجِبْتُ رعب، دھاک
 ۲۰۳۳۔ سُلْطٰنًا دلیل
 ۲۰۳۴۔ بَسٌّ بُرَا، بہت بُرا
 ۲۰۳۵۔ مَنُوْیٰ ٹھکانہ

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۴۰۔ تَحْسُونَ تم کاٹ رہے تھے	دَحَسٌ بکاٹنا،
۲۰۴۱۔ فَشَلْتُمُ پھسل گئے	دَف ش ل
۲۰۴۲۔ تَنَازَعْتُمْ تنازع کیا تم نے	۲۰۵۵۔ اَلْتَقَىٰ ملیں، پھر گئیں
۲۰۴۳۔ عَصَيْتُمْ نافرمانی کی تم نے	۲۰۵۶۔ جَمَعْنِ دوجا عتیں
دَصِدٌ مَعْصِيَةٌ	۲۰۵۷۔ اِسْتَدْرَجَ پھسلا دیا، ڈمگنا دیا۔
عَصِيَانٌ	۲۰۵۸۔ عَفَا معاف کر دیا
۲۰۴۴۔ صَرَفَ پھیر دیا	۲۰۵۹۔ صَرَفَ لَوْحًا چلے وہ
۲۰۴۵۔ تَصْعَدُونَ تم چڑھے جاتے تھے	۲۰۶۰۔ غَزَىٰ لڑنے والے
د ص ع د	د و ا ح د عَا زَىٰ دواحد، عَا زَىٰ
۲۰۴۶۔ لَا تَلْسُونَ نہیں مڑے تم،	۲۰۶۱۔ حَسَرَ اُ پچھتاوا، حسرت
نہیں پلٹے تم	۲۰۶۲۔ اَلْبَيْتِ
تا کہ نہیں	۲۰۶۳۔ تَمَشَّرُونَ تم جمع کئے جاؤ گے
چوک گئی، نکل گئی	د ح ش س
اونگھ	۲۰۶۴۔ فَمِمَّا پس ساتھ جو
۲۰۴۷۔ لِكَيْلَا	۲۰۶۵۔ لِيَنْتَ نرم ہو تو دماضی
۲۰۴۸۔ فَاتَ چوک گئی، نکل گئی	مضارع: لَا نَ
۲۰۴۹۔ نَعَّاسًا اونگھ	يَلِينُ
۲۰۵۰۔ يَعْصِي دھانکتی رہی، پھاگئی	شَدَمَزَجَ
د غ ش ی	۲۰۶۶۔ فَنَطًا
۲۰۵۱۔ هَلْ لَنَا کیا ہے ہمارے لئے؟	
۲۰۵۲۔ هَهُنَا یہاں، اس جگہ	
۲۰۵۳۔ يَوْمَ نَكَلْنَا نکلنا	

پارہ نمبر ۳۳

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۶۷۔ عَلِيْبُ الْقَلْبِ سخت دل	۲۰۸۱۔ مَنَ احسان کیا
۲۰۶۸۔ اِنْقَضُوا دہ منسٹر ہو جاتے،	۲۰۸۲۔ بَعَثَ بھیجا، کھڑا کیا
بھاگ جاتے	۲۰۸۳۔ اُ کیا
۲۰۶۹۔ حَوْلِكَ گرد تیکر،	۲۰۸۴۔ وُ اور
آس پاس تیکر	۲۰۸۵۔ لَبَّأُ جب
۲۰۷۰۔ شَاوِرٌ مشورہ کرے	۲۰۸۶۔ وِثْلِي دو گنی، مثل
دُمَشَاوِرَةٌ	۲۰۸۷۔ اِنِّي کہاں
سے فعل امر	۲۰۸۸۔ تَا فَعُوْا مُنافق ہوئے وہ
۲۰۷۱۔ عَزَمْتُ قصد کیا لوئے،	۲۰۸۹۔ نَعَا لَوْ اَدَّ
عزم کیا	۲۰۹۰۔ قَاتَلُوا لَطُو
۲۰۷۲۔ مَمَّوْكَدِيْنٌ بھروسہ کرنے والے	۲۰۹۱۔ اِدْفَعُوا دفع کرو، ہٹاؤ
چھوڑ دینا	۲۰۹۲۔ يَوْمَئِذٍ اُس دن
خیانت کرے گا	۲۰۹۳۔ اَقْرَبُ زیادہ قریب
خیانت کرنا،	۲۰۹۴۔ فَعَدُوٌّ بیٹھ رہے
خیانت کیا۔	۲۰۹۵۔ لَوْ اکر
یوں دیا جائے گا	۲۰۹۶۔ اَطَاعُوا کہا ماتے وہ
ناراض، ناراضگی،	۲۰۹۷۔ فَادْرُؤْ اِس ہٹا لو
غصہ، غضب	۲۰۹۸۔ لَا تَحْسَبَنَّ مت کمان کر کہ
ٹھکانہ، جگہ	۲۰۹۹۔ يُؤْزِقُونَ رزق دے جاتے
۲۰۷۳۔ اَبْسُ بُرا، خراب	ہیں۔
۲۰۷۴۔ مَصِيْرٌ پھر جانے کی جگہ	۲۱۰۰۔ فَرِحْتُمْ خوش ہیں

سورۃ آل عمران (۳)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۸۱۔ مَنَ احسان کیا
۲۰۸۲۔ بَعَثَ بھیجا، کھڑا کیا
۲۰۸۳۔ اُ کیا
۲۰۸۴۔ وُ اور
۲۰۸۵۔ لَبَّأُ جب
۲۰۸۶۔ وِثْلِي دو گنی، مثل
۲۰۸۷۔ اِنِّي کہاں
۲۰۸۸۔ تَا فَعُوْا مُنافق ہوئے وہ
۲۰۸۹۔ نَعَا لَوْ اَدَّ
۲۰۹۰۔ قَاتَلُوا لَطُو
۲۰۹۱۔ اِدْفَعُوا دفع کرو، ہٹاؤ
۲۰۹۲۔ يَوْمَئِذٍ اُس دن
۲۰۹۳۔ اَقْرَبُ زیادہ قریب
۲۰۹۴۔ فَعَدُوٌّ بیٹھ رہے
۲۰۹۵۔ لَوْ اکر
۲۰۹۶۔ اَطَاعُوا کہا ماتے وہ
۲۰۹۷۔ فَادْرُؤْ اِس ہٹا لو
۲۰۹۸۔ لَا تَحْسَبَنَّ مت کمان کر کہ
۲۰۹۹۔ يُؤْزِقُونَ رزق دے جاتے
ہیں۔
۲۱۰۰۔ فَرِحْتُمْ خوش ہیں

پارہ نمبر ۲۳

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۰۱۔ یَسْتَبْشِرُونَ نوحی منار ہے ہیں
یا بشارت دے رہے ہیں
- ۲۱۰۲۔ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُمْ
قبول کیا انھوں نے
- ۲۱۰۳۔ اَسْتَجَابُوا لَهُمْ وَجَبْنَا لَهُمُ الْجَنَّةَ لِأَنَّ لَهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ
کافی ہے ہم کو
- ۲۱۰۴۔ نَعْمَ الْوَكِيلُ اِجْتِهَادًا
اچھا کارساز
- ۲۱۰۵۔ اِنْقَلَبُوا نَارًا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُمْ
لوٹ آئے
- ۲۱۰۶۔ ذُو فَضْلٍ وَالْوَاقِعَاتُ
فضل والا
- ۲۱۰۷۔ يُخَوِّفُ خَوْفًا مَبِينًا
خوف دلانا
- ۲۱۰۸۔ اُولَئِكَ يَرْجُونَ رِجْوًا مَبِينًا
دوست
- ۲۱۰۹۔ حَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ
ڈرو مجھ سے
- ۲۱۱۰۔ دَخَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ
ن : مجھ سے
- ۲۱۱۱۔ يُسَارِعُونَ فِي الْيَوْمِ لِقَاءِ رَبِّهِمْ
جلدی کرتے ہیں
- ۲۱۱۲۔ حَظًّا
حصہ
- ۲۱۱۳۔ نُكْرًا
ہم ڈھیل دیتے ہیں
- ۲۱۱۴۔ مُهِينًا
ہم ہمت دیتے ہیں
- ۲۱۱۵۔ يَنْزِلُ السَّمَاءَ كَاسِ مِزْجٍ
سوا کرنے والا
- ۲۱۱۶۔ يَنْزِلُ السَّمَاءَ كَاسِ مِزْجٍ
چھوڑ دے گا

سُورَةُ آلِ عَرَابِ

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۱۷۔ يَمِينًا
جدا کر دے گا، الگ کر دے گا۔
- ۲۱۱۸۔ حَبِيبًا
نا پاک
- ۲۱۱۹۔ طَيِّبًا
پاک، اچھا
- ۲۱۲۰۔ يُطْلِعُ
اطلاع دیوے
- ۲۱۲۱۔ يَجْتَنِي
پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے،
- ۲۱۲۲۔ يَخْتَلِفُونَ
بجلی کرتے ہیں
- ۲۱۲۳۔ يُطَوِّقُونَ
دب خ ل، طوق پہنائے جائینگے
- ۲۱۲۴۔ سَمِعَ
سن لیا
- ۲۱۲۵۔ فَحَبَّوْهُ
محتاج
- ۲۱۲۶۔ نَحْنُ
ہم
- ۲۱۲۷۔ اَعْيُنِيَا
دولتمند
- ۲۱۲۸۔ دُوقُوا
دو (واحد : غَيٌّ) چکھو ذائقہ
- ۲۱۲۹۔ حَرِّ نَارٍ
جلن، تیز آگ
- ۲۱۳۰۔ طَلَامًا
ظلم کرنے والا
- ۲۱۳۱۔ عَدِيلًا
بندے
- ۲۱۳۲۔ (واحد : عَبْدٌ)

پارہ نمبر ۲۳

- نمبر شمار عربی اُردو
- ۲۱۳۳۔ قَرِيبًا
نذر، قربانی
- ۲۱۳۴۔ نَافِلًا
کھائے، کھا جائے
- ۲۱۳۵۔ فَيَلْمُ
پس کیوں
- ۲۱۳۶۔ كَذَّبَ
بھٹلائے گئے
- ۲۱۳۷۔ الْمُنِيرِ
روشنی والی
- ۲۱۳۸۔ دَايِقَةً
دیکھنے والی
- ۲۱۳۹۔ تَوَفُّوْنَ
تم پورا دے جاؤ گے
- ۲۱۴۰۔ اَجْرًا
اجر (جمع) بدلہ
- ۲۱۴۱۔ حَرْجًا
دور کر دیا گیا
- ۲۱۴۲۔ فَاسًا
کامیاب ہوا
- ۲۱۴۳۔ فَوْزًا
دولتمند
- ۲۱۴۴۔ مَنَاعًا
فائدہ
- ۲۱۴۵۔ عَرَاوِسًا
دھوکہ
- ۲۱۴۶۔ عَزْمًا
عزم، اہم، حوصلہ کے کام، ہمت کے کام
- ۲۱۴۷۔ نَبِيْنًا
پھینکنا
- ۲۱۴۸۔ ذَرَاةً
ذرا
- ۲۱۴۹۔ طَهْمُوسًا
پتھر (جمع)
- ۲۱۵۰۔ اَنْوَابًا
کرتے ہیں
- ۲۱۵۱۔ يَحْمَدُ
تعارف کیجائے گی
- ۲۱۵۲۔ اِنْسِي حَمْدًا
انسی (ح م د)
- ۲۱۵۳۔ مَفَاكِرًا
خلاصی، چھٹکارہ، کامیابی
- ۲۱۵۴۔ اُولَى
دائے
- ۲۱۵۵۔ اَلْبَابِ
عقل
- ۲۱۵۶۔ (واحد : لُبٌّ)
دماغ
- ۲۱۵۷۔ يَنْكُرُونَ
انکار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں
- ۲۱۵۸۔ قِيَامًا
کھڑے
- ۲۱۵۹۔ قَعُودًا
بیٹھے
- ۲۱۶۰۔ جُنُوبًا
گروہیں (واحد : جُنُبٌ)
- ۲۱۶۱۔ يَنْفَكِرُونَ
تفکر کرتے ہیں
- ۲۱۶۲۔ بَاطِلًا
بے فائدہ، بے کار
- ۲۱۶۳۔ سُبْحَانَكَ
پاک ہے تو
- ۲۱۶۴۔ اِنْخِرَابًا
رُسوا کر دیا تو نے
- ۲۱۶۵۔ (خ س ي)
خساری
- ۲۱۶۶۔ مُنَادِيًا
مُنَادِي کرنے والا، اعلان کرنے کے
- ۲۱۶۷۔ پکارنے والا۔
- ۲۱۶۸۔ كُفْرًا
دور کر دے

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

۲۱۹۲۔ سَنِيَّاتُ بُرَاتِيَا
۲۱۹۳۔ تَوَفَّنَا مَا رَمِمْنَاكَ، وَفَاتِ
دے ہمیں۔

۲۱۹۴۔ مَعَ سَاتِه
۲۱۹۵۔ اَبْرَأَسَ نِيكَ لَوَكْ

۲۱۹۶۔ ذَكَرَ مَرْدِ

۲۱۹۷۔ اَنْتِي عَوْرَتِ

۲۱۹۸۔ اَوْدُدُوا تَكْلِيْفَ دَسْتِ كَتَّ

۲۱۹۹۔ تَقَلَّبُ شَهْرٍ (وَاحِدٌ بِلَدٍ)

۲۲۰۰۔ بِلَادٍ شَهْرٍ (وَاحِدٌ بِلَدٍ)

۲۲۰۱۔ مَأْوَا تَهْكَانَه

۲۲۰۲۔ مِهَادِ بَهْوَانَا

۲۲۰۳۔ نَزُولًا مِهْمَانِي

الثَلَاثَةُ

۲۲۰۴۔ حَاشِيَعَيْنِ عَاجِزِي كَرِيهَوَالِي

۲۲۰۵۔ اَصْبِرُوا صَبْرًا

۲۲۰۶۔ صَابِرُونَ، دُطَّيْرٌ

۲۲۰۷۔ اَبْطُورًا بِنْدَه رَهِي

مَضْبُوطٌ رَهِي

۱۱

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

قرآن پاک میں اکثر

جنگ میں پکڑی

ہوئی عورتیں، جو

مقابلہ میں آکر گرفتار

ہو چکی ہوں، یا ز خرید

کیزیوں کے لئے

استعمال ہوئے۔

داہنا ہاتھ چونکہ آدمی

کے مال پر قابض

ہوتا ہے، اور اسے

اختیار ہے کہ اپنا

مال جائز استعمال

میں لائے، اس

لئے اکثر مَلَکَتِ

اَيْمَانِ کا لفظ استعمال

کیا گیا ہے۔

۲۱۹۳۔ اَيْمَانِ دَاہِنِي هَاتِه

(وَاحِدٌ يَمِينِ)

۲۱۹۴۔ اَيْمَانِي بَهْتِ نَزْدِيكَ

۲۱۹۵۔ اَلَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ اِنصَافِي نَهْ

گرسکو گے

سورۃ النسا

نمبر شمار عربی اُردو

۲۱۹۶۔ صَدَقَاتٌ مِهْمَرِ

(وَاحِدٌ صَدَقَاتِ)

۲۱۹۷۔ نَحَلَةً خَوْشِي سَيِّخَشِشِ

۲۱۹۸۔ هَنِيئًا مَرَّةِ دَارِ

۲۱۹۹۔ مَرْدِيغًا خَوْشِ گَوَارِ

۲۲۰۰۔ قِيَامًا قَاتِمِ قِيَامِ

(مَعِيَشَتِ كَيْلَتِ)

۲۲۰۱۔ اَكْسُوًا پَهِنَاؤِ

۲۲۰۲۔ كَسُوًا پَهِنَانَا

۲۲۰۳۔ اَبْسَلُوًا اَزْمَالُو

۲۲۰۴۔ يَتَمِي تَتِيمِ (جَمْعِ)

۲۲۰۵۔ بَلَعُوًا تَهْبِجِي وَهْ

۲۲۰۶۔ اَنَسَ پَانَا

۲۲۰۷۔ اَسْرًا هَوْشِيَارِي

۲۲۰۸۔ اِدْفَعُوًا لَوْطَادُو

۲۲۰۹۔ اَسْرًا فَا زِيَادَتِي

۲۲۱۰۔ اَسْرًا جَلْدِي جَلْدِي

۲۲۱۱۔ اَسْتَعْفِفْ بِجَارِي

۲۲۱۲۔ اَسْرًا لَوْطَاؤِمِ يَا وَاپْسِ

کرو۔

۲۲۱۳۔ نَصِيْبٌ حَصَّةِ

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۱۴۔ وَالَّذِينَ مَاتُوا
 ۲۲۱۵۔ قَرَابَتِ وَالْوَالِدِينَ
 ۲۲۱۶۔ قَوْلًا تَهْوِيهِمْ
 ۲۲۱۷۔ كَثْرًا زِيَادَةً، بَهْتِ هُوَ
 ۲۲۱۸۔ مَعْرُوضًا مَقْرَرَةً، طَعْنًا
 ۲۲۱۹۔ تَسْبِيحًا بَانْتِثَابًا، تَقْسِيمًا كَرْنًا
 ۲۲۲۰۔ اَوْلَادِ الْقَرَابَةِ قَرَابَتِ وَالْوَالِدِينَ
 ۲۲۲۱۔ يَخْشَى دُرَّةً، خَوْفِ كَرِي
 ۲۲۲۲۔ سِدِّيْدًا نَرْمًا، سِدِّيْهِ،
 ۲۲۲۳۔ سَعِيْرًا بَهْرِيْمًا، كَتِيْمًا
 ۲۲۲۴۔ حَظًّا حَصْبًا
 ۲۲۲۵۔ اِنْتِثَابًا دَوْعُوْرَتَيْنِ
 ۲۲۲۶۔ تَلْتًا دَوْتِهَاتِي (تَمْنِيَّةً)
 ۲۲۲۷۔ نَصْفًا اَدَهًا
 ۲۲۲۸۔ سُدُسًا قَهْطًا (حَصْبًا)
 ۲۲۲۹۔ تَلْتًا تَيْسَرًا (حَصْبًا)
 ۲۲۳۰۔ اِحْوَاةً بَهَاتِي بَهْنًا (بَهَاتِي)

سورۃ النساء

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۳۱۔ ذِيْنَ قَرَضٍ
 ۲۲۳۲۔ لَاتَكُنْ دُوْنَ نَهْنِيْمٍ تَمَّ جَانْتِي
 ۲۲۳۳۔ ذَكَرُ اَوْلَادٍ (لِطَرَاكَ)
 ۲۲۳۴۔ رُبْعًا قَوْتِهَاتِي
 ۲۲۳۵۔ ثَمْنًا اَهْلُوْرَتِي
 ۲۲۳۶۔ كَلَالَةً اَيْسِيْمِيْتِ جَوَابِنِي
 ۲۲۳۷۔ يَخْفِيْ بَابِ اَوْلَادٍ
 ۲۲۳۸۔ اَحَّحًا بَهْنًا
 ۲۲۳۹۔ كَلًّا وَاِجْدًا هَرَايِكِ
 ۲۲۴۰۔ شَرِيْكَاءَ سَاجِهِي، بَرَابَرِ كَرِي
 ۲۲۴۱۔ عِيْلًا مَضَامًا مَضْرِبًا بَهْنِيْمًا جَانْتِي
 ۲۲۴۲۔ حَلًّا وُدًّا لِّلّٰهِ حَدِيْسِ اللّٰهِ
 ۲۲۴۳۔ يَنْعَدًا ضَابِطًا سَعْنًا كَلًّا،
 ۲۲۴۴۔ اَهْسِكُوْا رُوْكَوْ
 ۲۲۳۲۔ اَلَّذِيْنَ اَنْتِيْ وَهْ عَوْرَتِيْنِ
 ۲۲۳۵۔ اَنْتِيْ بَعْدًا جَارِيْمًا
 ۲۲۳۶۔ اَهْسِكُوْا رُوْكَوْ

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۳۷۔ اَلَّذِيْنَ اَنْتِيْ وَهْ عَوْرَتِيْنِ
 ۲۲۳۸۔ اَذُوْا تَمَكِيْفِ دَوِّ اِيْزَادُوْ
 ۲۲۳۹۔ اَعْرَضُوْا اِعْرَاضًا كَرُوْ
 ۲۲۴۰۔ اَوْ اَبَا تَيْمِيْمًا تَوْبَةً قَبُوْلًا كَرِيْمًا وَاَلًا،
 ۲۲۴۱۔ جَهَالَةً نَادِيًّا، جِهَالَتِ
 ۲۲۴۲۔ كَرِهًا زَبْرِيْتِي
 ۲۲۴۳۔ اَلتَّغْلُوْا اَمْتًا رُوْكَوْ
 ۲۲۴۴۔ اَلَّذِيْنَ هَبُوْا اِسْمًا لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْ،
 ۲۲۴۵۔ مَبِيْنَتِيْ ظَاهِرًا، صَافًا
 ۲۲۴۶۔ عَابَسُوْا خَوْبِي سَعْنًا
 ۲۲۴۷۔ عَسِيًّا مَمْكَنًا
 ۲۲۴۸۔ اَسْتَبْنٰ اَلْبَدْلَ لِيْنَا، اَيْكًا
 ۲۲۴۹۔ مَمْكَنًا تَهْكَا نَهْ، جَكَّةً
 ۲۲۵۰۔ قَنْطَارًا خَزَا نَهْ، مَالًا كَا ظَهِيْرًا
 ۲۲۵۱۔ اَقْضٰ اَبْلًا چَكَّةً
 ۲۲۴۲۔ اَمْتًا رُوْكَوْ
 ۲۲۴۳۔ اَعْرَضُوْا اِعْرَاضًا كَرُوْ
 ۲۲۴۴۔ اَوْ اَبَا تَيْمِيْمًا تَوْبَةً قَبُوْلًا كَرِيْمًا وَاَلًا،
 ۲۲۴۵۔ جَهَالَةً نَادِيًّا، جِهَالَتِ
 ۲۲۴۶۔ كَرِهًا زَبْرِيْتِي
 ۲۲۴۷۔ اَلتَّغْلُوْا اَمْتًا رُوْكَوْ
 ۲۲۴۸۔ اَلَّذِيْنَ هَبُوْا اِسْمًا لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْ،
 ۲۲۴۹۔ مَبِيْنَتِيْ ظَاهِرًا، صَافًا
 ۲۲۵۰۔ عَابَسُوْا خَوْبِي سَعْنًا
 ۲۲۵۱۔ عَسِيًّا مَمْكَنًا
 ۲۲۵۲۔ اَسْتَبْنٰ اَلْبَدْلَ لِيْنَا، اَيْكًا
 ۲۲۵۳۔ اَقْضٰ اَبْلًا چَكَّةً
 ۲۲۵۴۔ اَمْتًا رُوْكَوْ
 ۲۲۵۵۔ مَبِيْنَتِيْ ظَاهِرًا، صَافًا
 ۲۲۵۶۔ عَابَسُوْا خَوْبِي سَعْنًا
 ۲۲۵۷۔ عَسِيًّا مَمْكَنًا
 ۲۲۵۸۔ اَسْتَبْنٰ اَلْبَدْلَ لِيْنَا، اَيْكًا
 ۲۲۵۹۔ مَمْكَنًا تَهْكَا نَهْ، جَكَّةً
 ۲۲۶۰۔ قَنْطَارًا خَزَا نَهْ، مَالًا كَا ظَهِيْرًا
 ۲۲۶۱۔ اَقْضٰ اَبْلًا چَكَّةً

سورۃ النساء

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۶۲۔ هَيْتَانِ قَوْلٍ
 ۲۲۶۳۔ غَلِيْظًا كَا رْطَا
 ۲۲۶۴۔ سَلَفًا هُوْجَا كَا كَرْنَا،
 ۲۲۶۵۔ مَقْتًا نَفْرَتِ كِي بَاتِ،
 ۲۲۶۶۔ نَارَا صِي
 ۲۲۶۷۔ اَمْتًا مَائِيْنًا (اَمْتًا مَائِيْنًا)
 ۲۲۶۸۔ بِنْتًا بَيْثِيَا
 ۲۲۶۹۔ اَخْوَاتِ بَهْنِيْنِ
 ۲۲۷۰۔ اَخْتًا بَهْنِيْنِ
 ۲۲۷۱۔ عَمَّاتِ پَهْوِيْيَا
 ۲۲۷۲۔ دَعْمَةً بَجُوْحِي
 ۲۲۷۳۔ بِنْتِ الْاَخْتِ بَيْثِيَا بَهْنُوْ كِي
 ۲۲۷۴۔ (بَهَانِيَا)
 ۲۲۷۵۔ اَمْرًا صَعْنًا دُوْدَهْ پَلَا يَا اِنَّا
 ۲۲۷۶۔ عَوْرَتُوْ نِي
 ۲۲۷۷۔ مِّنَ الرِّضَاعِ دُوْدَهْ شَرِيْكَ
 ۲۲۷۸۔ رِيًّا بَا بِيْتِ يَهُوْ كِي وَهْ رُوْكِيَا
 ۲۲۷۹۔ جُوْ بِلَهْ خَا وَنَرَسِي
 ۲۲۸۰۔ هُوْ

پارہ نمبر ۵۳

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۲۴۴۔ حُجُورِ گودیاں
 ۲۲۴۵۔ فنی حُجُورِ کُمہ تمہاری گودیوں
 میں یا زیرِ پرورش
 ۲۲۴۶۔ حَلَاکِیل بیویاں
 دَحَلِیْلَۃٌ بیوی
 ۲۲۴۷۔ اَصْلَابِ نسلِ رِیْثَہ (واحد: صُلْبٌ)
 ۲۲۴۸۔ اُخْتِیْنِ دو بہنیں (مثنیٰ)
 (واحد: اُخْتٌ)

سُوْرَةُ النِّسَاءِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر ۵۴

- ۲۲۴۹۔ مَحْصَنَاتِ (۱) شادی شدہ عورتیں، شوہر والیاں۔
 ۲۲۵۰۔ مَحْصَنَاتِ یا دامن مرد، حصار نکاح میں محفوظ رکھنے والے، یا نکاح کی ذمے داریاں قبول کرنے والے۔

۲۲۵۱۔ مُسْلِمَاتِ اَزَادِ شَهْوَتِ رَانِی کرنے والے۔

۲۲۵۲۔ اُجُورِ مہر

۲۲۵۳۔ طُوْرًا گنجائش، مقدور

۲۲۵۴۔ مَحْصَنَاتِ (۲) باوقار شریف

آزاد اور خاندانی

مسلم عورتیں

پارہ نمبر ۵۵

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۲۵۵۔ قَنَیْتِ لونڈیاں، بانڈیاں (واحد: قَنَکٌ)
 ۲۲۵۶۔ مَحْصَنَاتِ (۳) حصارِ نکاح میں محفوظ رہنے والیاں، پارسا عورتیں
 (۴) مَحْصَنَاتِ دف، مَحْصَنَاتِ کا لفظ اس رکوع میں تین معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے اور اس کے نمبر ۳، ۲، ۱ ملاحظہ فرمائیں
 (۱) شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں،
 (۲) آزاد عورتیں یا باوقار شریف اور خاندانی مسلم خواتین جو اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھتے ہوئے ہوں

سُوْرَةُ النِّسَاءِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو

- (۳) پارسا عورتیں جو حصارِ نکاح میں محفوظ رہیں، مذکورہ بالا تینوں قسم کی عورتوں پر ایک ہی لفظ مَحْصَنَاتِ کا استعمال کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن قرینہ اور پورے رکوع کی تقریر پڑھ لینے کے بعد معنی میں آسانی ہو جاتی ہے مزید سہولت کیلئے کوئی ترجمہ دیکھ کر اطمینان کر لیں تو معلوم ہوگا کہ تمام الفاظ کی اسپرٹ معنوی اعتبار سے قلعہ میں محفوظ رہنے کی ہے اسی لئے اس لفظ کے اصل معنی حِصْنِ یعنی قلعہ میں داخل کرنا ہے مَحْصَنَاتِ، اِحْصَانِ

پارہ نمبر (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

سے اسم مفعول جمع
موت ہے۔

۲۲۸۷۔ عَيَّرَ مَفْعُولٌ نَهَى عَلَانِيَةً

بدکاری کیوں انبیاں
چوری چھپے آشنائی
کرنا۔

۲۲۸۸۔ اخْدَانٌ جُورِيٌّ مَفْعُولٌ اَشْنَانِيٌّ

۲۲۸۹۔ اُخْصِنَ نِكَاحٌ فِي لِي جَائِلٌ

۲۲۹۰۔ اَتَيْنَ كَرِيهُنَ وَهٍ

۲۲۹۱۔ عَدَّتْ بَدْكَارِيٌّ

۲۲۹۲۔ سُنُّنٌ رَاهِيٌّ دَطْرِيْقِيٌّ

۲۲۹۳۔ سَهَوَاتٌ خَوَاهِشَاتٌ

۲۲۹۴۔ مَيْلٌ جُهْمَكٌ جَانَانٌ

۲۲۹۵۔ عَن تَرَاضٍ رِضَامُنْدِيٍّ سَيِّئٌ

۲۲۹۶۔ عُدَّ وَاثًا زِيَادَتِيٍّ سَيِّئٌ

۲۲۹۷۔ نَصَلِيْبِيٌّ بِهَمِّ دَاخِلٍ كَرِيْهِنٌ

۲۲۹۸۔ تَجْتَبِيْبُوْا بِجُوْكَ تَمٍّ

اجتناب کرو گے تم

۲۲۹۹۔ كَبِيْرٌ بَرَاكِنَاهُ

۲۳۰۰۔ تَمَهَّقُوْنَ مَنَعٌ كَتَّ جَاتِيٍّ هُوْ

۲۳۰۱۔ نَكْفَرُ هَمٌّ دُوْرٌ كَرِيْهِنٌ كَتَّ

۲۳۰۲۔ مَن خَلَا دَاخِلٌ هُوْنِيٌّ كِي جَلَدٌ

۲۳۰۳۔ كَرِيْبًا بَاغْرَتٌ مَعْتَرِزٌ

۲۳۰۴۔ لَا تَمْتَوُا مَتَّ اَرَزُوْ كَرُوْ

۲۳۰۵۔ مَوَالِيٌّ وَاْرَثٌ

۲۳۰۶۔ عَقَدَتْ عَهْدٌ بِنْدَهٌ هُوْنِيٌّ

۲۳۰۷۔ اِيْمَانُكُمْ دَايْمٌ بَاتِهٌ تَهَاكِيٌّ

۲۳۰۸۔ قَوَامُوْنَ قَا تَمْرٌ رِيْبِيٌّ دَايْمٌ

۲۳۰۹۔ مَالِحَاتٌ نِيْكٌ عَوْرَتِيْنَ

۲۳۱۰۔ قُنِيْتٌ فَرَا تَمْرٌ دَاوْرَتِيْنَ

۲۳۱۱۔ نُسُوْرٌ بَدُوْعَانِيٌّ

۲۳۱۲۔ مَصَاجِعٌ خَوَالِكِيْنَ لِيْ كِي جَلِيْهِنٌ

۲۳۱۳۔ عَلِيْبًا بَلَنْدٌ عَلِيٌّ اَعْلَى

۲۳۱۴۔ اُوْرٌ زَبْرٌ دَسْتٌ

پارہ نمبر (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

(مصدر: اجتناب)

۲۲۹۹۔ كَبِيْرٌ بَرَاكِنَاهُ

۲۳۰۰۔ تَمَهَّقُوْنَ مَنَعٌ كَتَّ جَاتِيٍّ هُوْ

۲۳۰۱۔ نَكْفَرُ هَمٌّ دُوْرٌ كَرِيْهِنٌ كَتَّ

۲۳۰۲۔ مَن خَلَا دَاخِلٌ هُوْنِيٌّ كِي جَلَدٌ

۲۳۰۳۔ كَرِيْبًا بَاغْرَتٌ مَعْتَرِزٌ

۲۳۰۴۔ لَا تَمْتَوُا مَتَّ اَرَزُوْ كَرُوْ

۲۳۰۵۔ مَوَالِيٌّ وَاْرَثٌ

۲۳۰۶۔ عَقَدَتْ عَهْدٌ بِنْدَهٌ هُوْنِيٌّ

۲۳۰۷۔ اِيْمَانُكُمْ دَايْمٌ بَاتِهٌ تَهَاكِيٌّ

۲۳۰۸۔ قَوَامُوْنَ قَا تَمْرٌ رِيْبِيٌّ دَايْمٌ

۲۳۰۹۔ مَالِحَاتٌ نِيْكٌ عَوْرَتِيْنَ

۲۳۱۰۔ قُنِيْتٌ فَرَا تَمْرٌ دَاوْرَتِيْنَ

۲۳۱۱۔ نُسُوْرٌ بَدُوْعَانِيٌّ

۲۳۱۲۔ مَصَاجِعٌ خَوَالِكِيْنَ لِيْ كِي جَلِيْهِنٌ

۲۳۱۳۔ عَلِيْبًا بَلَنْدٌ عَلِيٌّ اَعْلَى

۲۳۱۴۔ اُوْرٌ زَبْرٌ دَسْتٌ

۲۳۱۵۔ جَاوْرٌ اَهْنِيٌّ بَرُوْسِيٌّ دُوْرٌ

۲۳۱۶۔ صَاْحِبٌ نَا كَرُوْثٌ كَا سَا تَهِيٌّ

۲۳۱۷۔ اِيْبِيْنَ السِّيْلِ رَا هُ كِي مَسَا فَرٌ

۲۳۱۸۔ فُحُوْرًا فُحُوْرًا فُحُوْرًا

۲۳۱۹۔ مُخْتَالًا اِتْرَانِيٌّ دَاوْلَا

۲۳۲۰۔ قَرِيْبًا نَزِيْدِيْكٌ هَمِّ مَجْلِسٌ

۲۳۲۱۔ قَرِيْبًا هَمِّ نَشِيْنٌ تَمْرِيْنٌ سَا تَهِيٌّ

۲۳۲۲۔ مَا دَا كِيَا هُو جَاتَا

۲۳۲۳۔ لُوْ اَكْرٌ

۲۳۲۴۔ مِمْتَالٌ بَهْرٌ وِزْنٌ بَرَا بَرٌ

۲۳۲۵۔ اِنْ اَكْرٌ

۲۳۲۶۔ تَا كُ هُو دَتَا كُ اَصْلٌ

۲۳۲۷۔ تَا كُ فِيْ تَا كُ تَهَا

۲۳۲۸۔ مَن لَّنْ نَهْ اَسْ كِي يَاسٌ سَيِّئٌ

۲۳۲۹۔ جِنًّا لَاتِيْنَ كَتَّ هَمٌّ

پارہ نمبر (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

۲۳۱۴۔ حَكَمًا مَنصَفٌ تَصْفِيَّةٌ

۲۳۱۵۔ جَاوْرٌ اَهْنِيٌّ بَرُوْسِيٌّ دُوْرٌ

۲۳۱۶۔ صَاْحِبٌ نَا كَرُوْثٌ كَا سَا تَهِيٌّ

۲۳۱۷۔ اِيْبِيْنَ السِّيْلِ رَا هُ كِي مَسَا فَرٌ

۲۳۱۸۔ فُحُوْرًا فُحُوْرًا فُحُوْرًا

۲۳۱۹۔ مُخْتَالًا اِتْرَانِيٌّ دَاوْلَا

۲۳۲۰۔ قَرِيْبًا نَزِيْدِيْكٌ هَمِّ مَجْلِسٌ

۲۳۲۱۔ قَرِيْبًا هَمِّ نَشِيْنٌ تَمْرِيْنٌ سَا تَهِيٌّ

۲۳۲۲۔ مَا دَا كِيَا هُو جَاتَا

۲۳۲۳۔ لُوْ اَكْرٌ

۲۳۲۴۔ مِمْتَالٌ بَهْرٌ وِزْنٌ بَرَا بَرٌ

۲۳۲۵۔ اِنْ اَكْرٌ

۲۳۲۶۔ تَا كُ هُو دَتَا كُ اَصْلٌ

۲۳۲۷۔ تَا كُ فِيْ تَا كُ تَهَا

۲۳۲۸۔ مَن لَّنْ نَهْ اَسْ كِي يَاسٌ سَيِّئٌ

۲۳۲۹۔ جِنًّا لَاتِيْنَ كَتَّ هَمٌّ

۲۳۳۰۔ تَمَهَّقُوْا تَمَهَّقُوْا تَمَهَّقُوْا

۲۳۳۱۔ صَعِيْدًا مَسِيٌّ

۲۳۳۲۔ طِيْبًا پَاكٌ

پارہ نمبر (۲۴)

نمبر شمار عربی اردو

۲۳۲۹۔ هُوْلًا يَسْبُ اِن سَبٌ

۲۳۳۰۔ تَسْوِيٌّ بَرَا بَرٌ هُو جَاتِيٌّ

۲۳۳۱۔ حَلِيْبًا پَاكٌ

۲۳۳۲۔ لَا تَقْرُبُوْا مَتَّ قَرِيْبٌ جَاوْرٌ

۲۳۳۳۔ سَكْرِيٌّ نَشِيْنٌ

۲۳۳۴۔ جُنْبًا حَالَتٌ جَنَابَتِيْنَ

۲۳۳۵۔ عَا بَرِيٌّ كُزْنِيٌّ دَاوْلَا مَسَا فَرٌ

۲۳۳۶۔ تَغْسِلُوْا غَسْلٌ كَرُوْ نَهَا لُوْ

۲۳۳۷۔ مَرَضِيٌّ يَمَارٌ مَرِيْضٌ

۲۳۳۸۔ عَا كُ قَضَايَةٌ حَا جَتٌ

۲۳۳۹۔ لَمَسْتُمْ صَحِيْبَتِي كِي هُو تَمْنِيٌّ

۲۳۴۰۔ تَمَهَّقُوْا تَمَهَّقُوْا تَمَهَّقُوْا

۲۳۴۱۔ صَعِيْدًا مَسِيٌّ

۲۳۴۲۔ طِيْبًا پَاكٌ

پارہ نمبر ۱۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۲۳۔ اِسْمُوحَا مَسْحُ كَرُو، ہاتھ پھیر لو
 ۲۲۲۴۔ دُجُوْلَا چہرہ (جمع)
 ۲۲۲۵۔ عَفُوْ عَافُ كَرْنِے والا
 ۲۲۲۶۔ يَحْرُقُوْنَ پھیر دیتے ہیں،
 تحریف کر دیتے ہیں
 ۲۲۲۷۔ مَوَاضِعُ جگہ، موضوع
 ۲۲۲۸۔ عَصِيْبَاتَا نمانا، ہم نے یا نہیں
 مانتے ہم
 ۲۲۲۹۔ اِسْتَمِعْ سُنْ (فعل امر)
 ۲۲۳۰۔ غَيْرُ مَسْمُوعٍ نہ سنا یا جاتو
 یہ ذومعنی لفظ ہے،
 ایک معنی تو اس کے
 یہ ہیں کہ آپ کے
 خلاف مرضی کوئی
 بات آپ کو نہیں
 سنانی جاسکتی۔
 دوسرے معنی یہ کہ
 تم اس قابل ہی
 نہیں ہو کہ کوئی تمہیں

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

نمبر شمار عربی اُردو

کچھ سنائے علاوہ اسکے
 ایک معنی یہ بھی ہیں کہ
 تم ہرے ہو جاؤ۔
 مَخَالِفِيْنَ قُرْآنِ
 نبی اکرم کے دَولَانِ
 تقریر میں کوئی بات
 سمجھے کیلئے ٹہرنے کو
 کہتے تو اِسْتَمِعْ كِے
 ساتھ غَيْرُ مَسْمُوعٍ
 بھی کہتے۔ یہ بات
 ٹھیک اسی طرح کی
 ہے جیسے رَاعِيَا كُو
 مَوْزٍ كِرِيْرَا عِيْنَا كِهِنَا
 ۲۲۳۱۔ اِنِّيَا سِيْحُ دِيْكِرُ، مروڑ دیکر
 ۲۲۳۲۔ اَلْسِنَتَا زَبَانِيْنَ
 (زبان: زبان،
 عیب لگانا، طعن کرنا
 ۲۲۳۳۔ طَعْنَا
 ۲۲۳۴۔ اَتَوَمُّمُ
 بہت بہتر، بہت
 مضبوط، بہت سیرھا
 ہم مٹھا ڈالیں گے
 ۲۲۳۵۔ نَطْمِسُ
 (ط م س)

پارہ نمبر ۱۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۳۶۔ نَوَدَّ هَمَّ بھیر دیں گے
 (د د و)
 ۲۲۳۷۔ اُدْبَا سَا پِیْطُ (دُبُّ: پیٹھ)
 ۲۲۳۸۔ اَصْحَابُ سِيْجِرَا لَے، اُن
 اَلْسِنَتِ كَا قَصَبُ نَوْرَهٗ اَعْرَافِ
 میں مذکور ہے۔
 ۲۲۳۹۔ مَفْعُوْلَا كِیا گیا، ہو کر رہے گا
 ۲۲۴۰۔ دُوْنِ ذٰلِكَ سِوَا اِسْ كِے
 ۲۲۴۱۔ اِفْتَرَا يَ بَا نَدھ لیا، گڑھ لیا،
 جھوٹ ٹوٹ کا
 ۲۲۴۲۔ فَيْتَلَا تَا گے برابر
 ۲۲۴۳۔ جَبْتَا بے حقیقت،
 بے اصل جاؤ،
 فَا لْ كِرِيْ، ٹوٹنے
 ٹوٹنے، شگون،
 ہورت اور دوسری
 ذہنی چیزوں کیلئے
 استعمال کیا گیا ہے
 ۲۲۴۴۔ تَقْبِرَا ذرا سا، تھوڑا
 ۲۲۴۵۔ نَضَجْتَا كَلَّ جاتنگی، جل جاتنگی

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

نمبر شمار عربی اُردو

۲۲۴۶۔ جَلُوْدُ چمڑہ، کھال
 (جَلْدُ: کی جمع)

الرَّبْع

۲۲۴۷۔ اَبْدَا ہمیشہ
 ۲۲۴۸۔ نَطَلَا سِیَاہ، چھاؤں
 ۲۲۴۹۔ تَطَلَّيْلَا گھنی چھاؤں
 ۲۲۵۰۔ تَوَدَّ دَا پہنچا دو
 ۲۲۵۱۔ نَعِيْمَا بہت اچھی، خوب،
 نعمت سے بھرپور
 ۲۲۵۲۔ اُولِيْ اَلْاَمْرِ صَاحِبِ حَكْمِ
 ۲۲۵۳۔ تَا وِيْلَا اِنْجَام، خلاصہ
 ۲۲۵۴۔ يَزْعُمُوْنَ دَعْوَى كَرْتِے ہیں
 (د ن ع م)
 ۲۲۵۵۔ يَتَخَاكُوْدَا فيصليجائیں
 ۲۲۵۶۔ صَدَّ دَا ہٹ ہٹا، پہلوئی کرنا
 ۲۲۵۷۔ يَحْلِفُوْنَ حَلْفِ اٹھاتے ہیں،
 قسم کھاتے ہیں۔
 ۲۲۵۸۔ اِنْ نَبِيْنِ ذِمَّتِيْ اِسْ
 لفظ کے ”اگر“ کے

بَارَةٌ مُدَبَّرَةٌ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اَلَا آنے سے معنی ہونگے نہیں
 ۲۳۷۹- تَوَفَّقًا موافقت، بھلائی
 ۲۳۸۰- اِعْرَضَ اعراض کر
 ۲۳۸۱- عَظَّمَ نصیحت کر
 ۲۳۸۲- تَوَلَّى كَلِيمًا بات پہنچی ہوئی
 ۲۳۸۳- فَلَاؤُكَ بِكَ پس تم تھے تیرے رب کی (دو قسمیہ ہے)
 ۲۳۸۴- شَجَرَ جھکڑا واقع ہوا
 ۲۳۸۵- حَرَجًا تنگی
 ۲۳۸۶- قَضَيْتَ فیصلہ کیا تو نے
 ۲۳۸۷- سَلِمُوا مان لیں
 ۲۳۸۸- تَسَلَّمَا تابع فرمان بن کر
 ۲۳۸۹- تَتَبَّعْتَا ثابت رکھنے والا، پختہ کرنے والا۔
 ۲۳۹۰- صَارَ يَتَّبِعُونَ سچے لوگ
 ۲۳۹۱- سَرَّ دِيْعًا دوست
 ۲۳۹۲- حُدُوا لو
 ۲۳۹۳- حَنُّوا بچاؤ کا سامان

سُرُوْدُ الشَّامِ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۳۹۴- اِنْقَرَضَ انکلو
 ۲۳۹۵- تَبَّأَتْ متفرق، الگ الگ
 ۲۳۹۶- يَبْطِئَنَّ ہٹنا ہے، دیر کرتا ہے
 ۲۳۹۷- تَبْطِئَنَّ (مصدر) دیر کرنا
 ۲۳۹۸- عَلَىٰ جھیر
 ۲۳۹۹- مَوَدَّةً دوستی
 ۲۴۰۰- يَلْتَمِسُنِي اے کاش کہ میں
 ۲۴۰۱- فَوَسْرٌ کامیابی
 ۲۴۰۲- يَشْرُوْنَ بیچتے ہیں
 ۲۴۰۳- مَا لَكُمْ کیا ہوا تم کو
 ۲۴۰۴- مَسْتَضْعِفِينَ کمزور لوگ، ناتواں
 ۲۴۰۵- وَلَدَانٌ لڑکے
 ۲۴۰۶- اَهْلَانَا رہنے والے ہیں
 ۲۴۰۷- مَن لَّدُنْكَ اپنے نزدیک سے
 ۲۴۰۸- كَيْدٌ تدبیر
 ۲۴۰۹- كُفُّوا روک رکھو
 ۲۴۱۰- حَسْبِيَا ذُرٌّ نوف
 ۲۴۱۱- تَوَلَّى کیوں نہیں

بَارَةٌ مُدَبَّرَةٌ (۴)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۱۲- اَجَلٌ وقت، مہلت
 ۲۴۱۳- فَنِيْلًا تاکے برابر
 ۲۴۱۴- اِيْمَانًا جہاں کہیں بھی
 ۲۴۱۵- يَدٌ بَرَكٌ پالے گی
 ۲۴۱۶- بَرُوْجٌ قلعے
 ۲۴۱۷- مَسِيْدَةٌ بلند، مضبوط
 ۲۴۱۸- فَمَالٌ پس کیا ہوا
 ۲۴۱۹- لَا يَكَاذُوْنَ نہیں قریب ہوتے
 ۲۴۲۰- يَعْقُفُوْنَ سمجھتے (مصدر)؛ فقہ
 ۲۴۲۱- طَاعَةٌ فرمانبرداری
 ۲۴۲۲- بَيَّتَ رات کے وقت
 ۲۴۲۳- يَبِيْتُونَ مشورہ کرنا
 ۲۴۲۴- يَنْدُبُوْنَ تدریس کرتے ہیں
 ۲۴۲۵- لَوْجِدُوا البتہ پاتے وہ
 ۲۴۲۶- اِدْعَاؤًا پھیلاتے ہیں
 ۲۴۲۷- يَسْتَبْطِئُوْنَ تحقیق کرتے ہیں
 ۲۴۲۸- حَرَضَ رغبت دلانا
 ۲۴۲۹- عَسَىٰ قریب
 ۲۴۳۰- يَكْتَفُ رُكَّعًا روک دے گا
 ۲۴۳۱- اَسَدًا بہت سخت
 ۲۴۳۲- بَأْسٌ جنگ
 ۲۴۳۳- تَنَكُّيْلًا بند کرنے میں، سخت نرا دینے میں
 ۲۴۳۴- كَفَّلَ حصہ
 ۲۴۳۵- تَحِيَّتًا دُعا سلام
 النصف
 ۲۴۳۶- اُرْكَسَ اُلْطَا پھیر دیا
 ۲۴۳۷- يَصْلُوْنَ ملتے ہیں
 ۲۴۳۸- حَصْرَتٌ رُكَّعًا ہنگامے ہو گئے
 ۲۴۳۹- سَلَطَ مُسَلِّطًا
 ۲۴۴۰- تَحْرِيْرًا آزاد کرنا
 ۲۴۴۱- رَقَبَةً گردن

سورة النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۴۲۔ دینے خون بہا
 ۲۲۴۳۔ سئلہ پورا دیا جاتے،
 سپرد کیا جاتے
 ۲۲۴۴۔ شہرین دو ماہ
 (شہر: واحد)
 ۲۲۴۵۔ مُتَابِعِينَ لکاتار، مسلسل
 ۲۲۴۶۔ مُتَعَبًا قصداً، جان پوجھ کر
 ۲۲۴۷۔ ضَيَّبْتُمْ چلو تم، سفر کرو تم
 ۲۲۴۸۔ اَلْقَى ڈالا، ملاقات کیا
 ۲۲۴۹۔ لَسْتُ نہیں ہے تو
 ۲۲۵۰۔ عَرَضُ اسباب
 ۲۲۵۱۔ مَعَانِمَ غنیمتیں
 ۲۲۵۲۔ لَا يَسْتَوِي نہیں ہے برابر
 ۲۲۵۳۔ غَيَّرَ اُولَى سوائے ضرور والے،
 الفیور علاوہ ضرور والوں کے،
 چنکو کوئی عذر نہ ہو
 ۲۲۵۴۔ تَوَنَّى وفات دی، جان
 قبض کی گئی
 ۲۲۵۵۔ فِيمَا کس چیز میں
 ۲۲۵۶۔ حَيْثُ بہانہ، حیلہ، تدبیر

سورة النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۵۷۔ مُرَاعِيًا جگہ، با فراغت مکان
 ۲۲۵۸۔ دَرَاثِ پانا
 ۲۲۵۹۔ وَتَعَّ نابت ہو گیا، واقع ہو گیا
 ۲۲۶۰۔ تَقْصَى وَ اُكْمُ كُرُو، قصر کرو
 (رق ص س)
 ۲۲۶۱۔ يَفْتِنُ فتنہ میں ڈالے
 (ف ت ن)
 ۲۲۶۲۔ كُنْتُ ہوا تو، ہوا تو
 ۲۲۶۳۔ تَقَمُّ کھڑے ہوئے،
 قائم ہوئے
 ۲۲۶۴۔ اَسْلَمْتُمْ ہتھیار جمع :
 سلاح کی ،
 ۲۲۶۵۔ تَأْتِ آوے
 ۲۲۶۶۔ حَذَّرَا بچاؤ کا سامان
 ۲۲۶۷۔ اَتَّبَعْتُمْ اسباب تمہارا
 ۲۲۶۸۔ مَيَلْتُمْ جھک جانا، آپڑنا،
 جملہ کرنا
 ۲۲۶۹۔ وَاجِدَا یکبارگی
 ۲۲۷۰۔ مَطَرُ بارش
 ۲۲۷۱۔ اَنْ تَضَعُوا کہ رکھ دو

سورة النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۷۲۔ اَطْمَأْنَنْتُمْ اطمینان پاؤ تم
 ۲۲۷۳۔ تَأْكُمُونَ تم رنج اٹھا رہے ہو
 (ا ل م)
 ۲۲۷۴۔ تَرْجُونَ تم اُمید رکھتے ہو
 ۲۲۷۵۔ اَسْرًا دکھانا
 ۲۲۷۶۔ خَائِبِينَ خانت کر نیوالے
 ۲۲۷۷۔ خَصِيمًا جھگڑا کرنے والا،
 طرفداری کرنے والا
 ۲۲۷۸۔ اَلْجَادِلُ مت جدال کر
 ۲۲۷۹۔ يَخْتَاوُنَ خیانت کرتے ہیں
 ۲۲۸۰۔ خَوَانًا خیانت کرنے والا
 ۲۲۸۱۔ اَتَّيْمًا گنہگار
 ۲۲۸۲۔ يَسْتَحْتَوُونَ پھپھتے ہیں
 ۲۲۸۳۔ يَبْتَئِنُونَ چوری چھپے شورہ
 کرتے ہیں
 ۲۲۸۴۔ يَزْمُ تہمت لگاتے گا،
 پھینکے گا
 ۲۲۸۵۔ بَرِيحًا بے گناہ
 ۲۲۸۶۔ اِحْتِمَالًا اٹھالیا
 ۲۲۸۷۔ قِيلًا

سورة النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۲۸۸۔ هَمَّتْ ارادہ کر لیا
 ۲۲۸۹۔ عَلِمَ سکھایا
 الشَّلَّةُ
 ۲۲۸۹۔ نَجْوَى سرگوشی، مجلس
 گفتگو کیلئے بیٹھنا
 ۲۲۹۰۔ اِسْتَأْنَقَ اختلاف کرے گا
 ۲۲۹۱۔ نَضْبَهُ ہم اس کو داخل
 کریں گے۔
 ۲۲۹۲۔ مَا ذُوْنَ ذَالِكِ جو کچھ سوائے اسکے
 ۲۲۹۳۔ اِنْتِغَا دلیویاں، زبانی چیز
 ۲۲۹۴۔ مَوْبِدًا سرکش مردود
 ۲۲۹۵۔ يَبْتَلِنُ تراشیں گے
 ۲۲۹۶۔ اِذَانٌ کان دو احد: اذُن
 ۲۲۹۷۔ اِنْعَامًا چوپائے، مویشی
 (جمع نَعْمَةٍ کی)
 ۲۲۹۸۔ غُرُورًا فریب ڈھوکہ
 ۲۲۹۹۔ مَجِيضًا بھانکنے کی جگہ
 ۲۳۰۰۔ اَصْدَقُ بہت سچا
 ۲۳۰۱۔ قِيلًا قول، بات، وعدہ

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۰۲۔ نَقِيرًا ذراسا

۲۵۰۳۔ خَلِيلًا دوست

۲۵۰۴۔ يَسْتَلْفُونَ فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں۔

۲۵۰۵۔ تَزْعَبُونَ تم رغبت کرتے ہو

۲۵۰۶۔ نَعْلٌ شوہر

۲۵۰۷۔ اُحْضِرْتِ حاضر کی گئی

۲۵۰۸۔ اسْتَحْجَبْتَ بخیل

۲۵۰۹۔ حَرَصْتُمْ حرص کرو تم

۲۵۱۰۔ مَعْلَقَةٌ ادھر میں لٹکی ہوئی

۲۵۱۱۔ اِيَّاكُمْ تم کو بھی

۲۵۱۲۔ حَمِيْدًا تعریف کیا گیا

۲۵۱۳۔ يَاتِ دُب، لائے گا

۲۵۱۴۔ اَدْوَى بہتر، لائق تر،

خیر خواہ

۲۵۱۵۔ اَلْهَوَايَ خواہش

۲۵۱۶۔ تَلَوُ بیتی بیان کرو گے

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۱۷۔ اِنْدَادًا زیادہ ہو گئے،

آگے بڑھ گئے۔

۲۵۱۸۔ يَحْوِضُونَ بات کریں، بحث

کریں، حجت

بازی کرنا۔

۲۵۱۹۔ حَنِثٌ بات جمع:

احادیث

۲۵۲۰۔ يَتَرَبَّصُونَ انتظار کرتے ہیں

۲۵۲۱۔ كَسَمْتُمْ غالب آتے ہم،

حفاظت کی ہم نے

۲۵۲۲۔ نَمْنَعُكُمْ ہم نے پچا دیا تم کو

(م ن ع)

۲۵۲۳۔ كَسَانِي کابلی سے کسماتے

ہوتے (کشل)

سستی، کابلی

۲۵۲۴۔ مَلَّ بَدَائِبِي بزدب،

ڈگمگاتے ہوتے

۲۵۲۵۔ سُلْطَانٌ غلبہ، حجت

۲۵۲۶۔ سُلْطَانًا مَبِينًا حجت صریحہ

پارہ نمبر ۲۵

نمبر شمار عربی اُردو

۲۵۲۷۔ اَللَّزِيكَ درجہ

۲۵۲۸۔ اسْفَلَ بہت نیچا

۲۵۲۹۔ اَخْلَصُوا خالص کر لیا

۲۵۳۰۔ مَا كَيْفَعَلُ کیا کرے گا

۲۵۳۱۔ جَهْرًا پکار کر کہنا،

صاف کھلم کھلا

۲۵۳۲۔ قَدِيرًا قدرت والا

۲۵۳۳۔ حَقًّا سچے، یقینی

۲۵۳۴۔ جَهْرًا ظاہر

۲۵۳۵۔ ضَعْفَةً بجلی

۲۵۳۶۔ عَفْوًا ہم نے معاف کیا

۲۵۳۷۔ لَانَعَنُوا حد سے مت گزرو

۲۵۳۸۔ سَوِيًّا سوںی دینا

۲۵۳۹۔ شَبِيْهًا شبہ ڈال دیا گیا

(ش ب ع)

۲۵۴۰۔ مَوْجُوْدًا دینے والے

۲۵۴۱۔ نَزُوْمًا وہ کتاب اللہ جو

حضرت داؤدؑ

نوٹ

ایک لفظ مختلف شکلیں بدل کر آتا ہے۔ تب اس کی ہر شکل سے واقفیت طالب علم کو اچھی طرح ہو جائے، اس سہولت کے پیش نظر اب تک جو الفاظ دئے گئے ہیں، انہیں بار بار دہرایا بھی گیا ہے۔

(مرتب)

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 پر نازل کی گئی۔
 ۲۵۲۲۔ قَصَصْنَا ہم نے بیان کیا
 (دق ص ص)
 ۲۵۲۳۔ تَكَلَّمْنَا بات کرنا
 ۲۵۲۴۔ مُبَشِّرِينَ خوشخبری سنانے والے
 ۲۵۲۵۔ مُنذِرِينَ ڈر، خوف سنانے والے، ڈرانے والے
 ۲۵۲۶۔ حَجَّتْ عَذْر
 ۲۵۲۷۔ طَرَبَتْ رَاہ
 ۲۵۲۸۔ سَبَّحَتْ آسان
 ۲۵۲۹۔ لَا تَعْلَمُوا غلومت کرو
 ۲۵۳۰۔ كَلِمَاتٍ فرمان، حکم
 ۲۵۳۱۔ أَلْقَى ڈال دیا، پہنچا دیا
 ۲۵۳۲۔ ثَلَاثَةَ تین
 ۲۵۳۳۔ أَنْتَهُمْ يَا زَاكَاةَ، رُكَّ جَاؤ
 ۲۵۳۴۔ لَنْ يَسْتَنْكِفَ نَكَارَ كَرَّعَ گَا
 (ن ك ف)
 ۲۵۳۵۔ اسْتَنْكَافٌ (مصدر)
 انکار کرنا، عار کرنا
 ۲۵۳۶۔ بُوْهَانَ دلیل

سورۃ المائدہ (۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۳۷۔ يَسْتَفْتُونَ سوال پوچھتے ہیں
 ۲۵۳۸۔ ثَلَاثَانَ دوتہائی
 دَنْتًا ایک تہائی
 ۲۵۳۹۔ عَقُودٌ عہد (واحد)
 ۲۵۴۰۔ بَهِيمَةً چرنیوالے جانور، چوپائے۔
 ۲۵۴۱۔ أَنْعَامٌ چوپائے، مویشی
 ۲۵۴۲۔ عَيْدٌ مُحَلِّيٌّ نہیں حلال، یعنی حلال نہ سمجھو
 ۲۵۴۳۔ صَيْدٌ شکار
 ۲۵۴۴۔ حُرْمٌ حالتِ احرام میں
 (احرام ایک
 تہ بند اور ایک
 چادر بغیر سلی ہوتی،
 جوج کے ایام میں
 حاجی لوگ پہنتے ہیں،

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۴۵۔ لَا تَحْلُوا حلال سمجھو، یعنی اللہ
 تعالیٰ کی نشانیوں کی
 بے حرمتی کرنا حلال
 نہ سمجھو۔
 ۲۵۴۶۔ شَعَائِرُ نشانیاں
 ۲۵۴۷۔ شَهْرٌ حَرَامٌ محرم مہینہ، ادب کے
 لائق مہینہ
 ۲۵۴۸۔ الْهَدْيِ قربانی کا جانور
 ۲۵۴۹۔ قَلَابِدٌ قربانی کے وہ جانور
 جن کے گلے میں بطور
 نذر خداوندی کی
 علامت کے پٹے
 ڈالے گئے ہوں جمع
 ہے قِلَادَةٌ کی۔
 ۲۵۵۰۔ أَمِينٌ قصہ کرنے والے
 ۲۵۵۱۔ بَيْتِ الْحَرَامِ محترم گھر،
 بیت اللہ شریف
 ۲۵۵۲۔ حَلَلْتُمْ حلال ہو تم، یعنی
 حالتِ احرام سے
 باہر آ جاؤ۔
 ۲۵۵۳۔ اِصْطَادٌ شکار کرو

سورۃ المائدہ (۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۴۲۔ اِصْطَادٌ شکار کرنا
 (ص ی د)
 ۲۵۴۵۔ لَا يَجْرِمُكُمْ كُرْهُنَّ آمَاہ کرتے تم کو
 ۲۵۴۶۔ شَتَانٌ دُشمنی، بغض
 ۲۵۴۷۔ تَعَاوَدُوا تعاون کرو، مدد کرو
 ۲۵۴۸۔ عُدْوَانٌ زیادتی، ظلم
 الرِّبْح
 ۲۵۴۹۔ مَيْتَةٌ مُرْدَار
 ۲۵۵۰۔ دَمٌ خُون
 ۲۵۵۱۔ لَحْمٌ گوشت
 ۲۵۵۲۔ خِنْزِيرٌ سَوْر
 ۲۵۵۳۔ اِهْلٌ پیکار جاسے،
 نامزد کیا جاسے۔
 ۲۵۵۴۔ مَنَحْنَقَةٌ ایسا جانور جو کلا
 گھونٹنے سے مر گیا ہو
 ۲۵۵۵۔ مَوْتُودَةٌ ایسا جانور جو کسی
 ضرب یا لاش ماننے
 سے مر گیا ہو۔
 ۲۵۵۶۔ مَوْتُودِيَّتٌ ایسا جانور جو کسی دینی
 جگہ سے گزر کر مر گیا ہو

پارہ نمبر ۳۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۸۷۔ فطیحة ایسا جانور جو کسی
 ٹکر سے یا سینگ
 مارنے سے مرگیا ہو
 ۲۵۸۸۔ اسْتَبْعَ ورنہ
 ۲۵۸۹۔ دُکِيتُمُ پاک کر لو تم،
 ذبح کر لو تم
 ۲۵۹۰۔ ذُبِحَ ذبح کیا جاتے
 ۲۵۹۱۔ نَصَبُ استس گاہ،
 آستانے، تھان
 ۲۵۹۲۔ تَشْتَقِسُهُ قسمت معلوم کرو
 ۲۵۹۳۔ اَنْزَلَاهُ قسمت معلوم کرنے
 کے پائے، سٹہ
 لاشری وغیرہ جاہلیت
 جدیدہ کی پیداوار
 بھی اسی لفظ کے
 ہم معنی ہیں۔
 ۲۵۹۴۔ يَبَسَّ مایوس ہو گئے
 ۲۵۹۵۔ اَصْطَرَّ بے بس ہوا
 ۲۵۹۶۔ مَحْبَصَةٌ بھوک
 ۲۵۹۷۔ مَتَجَانَفُ جھکنے والا، مائل
 ہونے والا۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۹۸۔ جَوَارِحُ زخم دینے والے
 ۲۵۹۹۔ مُكَلِّبِينَ شکار کی تعلیم لئے
 ہوئے شکاری
 جانور۔
 ۲۶۰۰۔ اَمْسَكْنَ روکے رکھیں
 ۲۶۰۱۔ مَحْضَلَتِ ياکر امن خورتیں
 ۲۶۰۲۔ مَتَّحِذِي پیکرنے والے
 دُمْتَحِذِي تھان،
 مضاف ہوئی وہ
 سے ن گریا،
 ۲۶۰۳۔ قُمْتُمُ گھرے ہو تم، اٹھو تم
 ۲۶۰۴۔ اَيَّدِي دُونوں ہاتھ
 کہنیاں
 ۲۶۰۵۔ مَرَأِقُ سر (جمع)
 ۲۶۰۶۔ رَأْدُسُ پیر درجہ (واحد)
 ۲۶۰۷۔ اَمْرَجُلُ دونوں گتھے
 ۲۶۰۸۔ كَعْبَيْنِ حالت جنابت
 ۲۶۰۹۔ جُنْبًا جائے استنجا
 ۲۶۱۰۔ عَاظُ صحبت کی ہوتم نے
 ۲۶۱۱۔ لَمَسْتُمُ قول لیا ہے اس نے
 ۲۶۱۲۔ وَاتَّقِ ہلاک کرے وہ

پارہ نمبر ۳۸

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۶۱۳۔ جَجِيمٌ آگ کا ڈھیر
 ۲۶۱۴۔ هَمٌّ قسید کیا
 ۲۶۱۵۔ يَبْسُطُوا دراز کریں
 ۲۶۱۶۔ كَفَّ بند کر دیا
 دروگدیا،
 ۲۶۱۷۔ اِثْنِي عَشْرَ بارہ
 ۲۶۱۸۔ نَقِيًّا سردار
 ۲۶۱۹۔ عَزَّزْتَهُمُ قوت سے ساتھ دو
 ۲۶۲۰۔ نَقَضَ توڑنا
 ۲۶۲۱۔ لَا تَزَالُ نہیں فرصت پائیگا تو
 ۲۶۲۲۔ نَطَّلِعُ اطلاع پاتا رہے گا
 ۲۶۲۳۔ اَصْفَحَ درگزر کر
 ۲۶۲۴۔ اَعْرَضْنَا لگادی ہم نے
 ۲۶۲۵۔ سَوَّفَ جلدی، عنقریب
 ۲۶۲۶۔ يَصْنَعُونَ کرتے ہیں وہ
 ۲۶۲۷۔ سَبِيلُ لاپس (واحد)
 سبیل،
 ۲۶۲۸۔ سَلَّمُ سلامتی
 ۲۶۲۹۔ مَنِ يَمْلِكُ کون اختیار رکھتا ہے؟
 ۲۶۳۰۔ يُهْلِكُ ہلاک کرے وہ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۶۳۱۔ نَحْنُ ہم
 ۲۶۳۲۔ اَبْنَاءُ دُائِبُونَ بیٹے
 (دائبن کی جمع)
 بہت محبوب
 ۲۶۳۳۔ اَحْبَاءُ پس کیوں
 ۲۶۳۴۔ فَلَئِمَ آدمی
 ۲۶۳۵۔ بَشَرٌ سلسلہ موقوف،
 توڑا پڑے پیچھے،
 دو پیغمبروں کے بیچ
 کا زمانہ جب کہ کوئی
 نبی موجود نہ ہو۔
 ۲۶۳۷۔ لَمْ يَدْعُ نہیں دیا گیا
 ۲۶۳۸۔ مَقْدَسِي پاك
 ۲۶۳۹۔ لَا تَزِيدُ ذِمَّتَ لَطِ پادوں پھر
 جاؤ
 ۲۶۴۰۔ تَنْقَلِبُوا پلٹ جاؤ گے تم
 ۲۶۴۱۔ جَبَّارِينَ زبردست
 ۲۶۴۲۔ رَجُلِينَ دو آدمی
 ۲۶۴۳۔ اَلْبَابُ دروازہ باب
 ۲۶۴۴۔ اَبْكَا کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ

پارہ نمبر ۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۳۵۔ مَا كَاذِبًا جَبَّكَ وَهِيں گے
 ۲۴۳۶۔ اذْهَبْ توجا
 ۲۴۳۷۔ قَاتِلَا لڑو تم دونوں
 ۲۴۳۸۔ هُمْئَا اسی جگہ پر
 ۲۴۳۹۔ لَا اَمْلِكُ نہیں میں اختیار رکھتا
 ۲۴۵۰۔ نَفْسِي میری جان
 ۲۴۵۱۔ اِنِّي ميسر اچھائی
 ۲۴۵۲۔ اَفْرَقْ جلائی ڈال، فیصلہ کر
 ۲۴۵۳۔ مَحْرَمَةً حرام کی گئی
 ۲۴۵۴۔ اَرْبَعِينَ چالیس سال
 ۲۴۵۵۔ سَنَةً سال
 ۲۴۵۶۔ يَتِيَهُونَ سرگرداں پھر بیٹے
 ۲۴۵۷۔ مَارَے مارے پھر بیٹے
 ۲۴۵۸۔ لَا تَأْسُ مت غم کر، مت افسوس کر،
 النصف اور تلاوت کر،
 النصف

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۵۹۔ نَبَاً خبیر جمع:
 ۲۴۶۰۔ اِنِّي دوبيٹے
 ۲۴۶۱۔ قَوْلًا پیش کی انھوں نے
 ۲۴۶۲۔ قَوْلًا نَبَاً قریانی، نیاز
 ۲۴۶۳۔ تَقْبَلُ قبول کر گئی
 ۲۴۶۴۔ بَسَطَتْ دراز کرے گا تو
 ۲۴۶۵۔ اِنِّي طرف میری
 ۲۴۶۶۔ يَدِي تیرا ہاتھ
 ۲۴۶۷۔ بِبَاسِطٍ دراز کرنے والا
 ۲۴۶۸۔ تَبْوَةً مستحق ہو جائے گا تو
 ۲۴۶۹۔ تَكُونُ ہو جائے
 ۲۴۷۰۔ طَوَّعَتْ رغبت دلائی
 ۲۴۷۱۔ اصْبَحَ ہو گیا
 ۲۴۷۲۔ بَعَثَ بھیجا
 ۲۴۷۳۔ عُرَابٌ کوا
 ۲۴۷۴۔ يَبِيحُ کُریدتا ہے
 ۲۴۷۵۔ يُوَارِيهِ پھیلتے،
 ڈھانک دے
 ۲۴۷۶۔ سَوَاءٌ لاش
 ۲۴۷۷۔ يُوَارِيهِ افسوس میری حالت پر

پارہ نمبر ۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۷۸۔ اَخْرَجْنِي دوسرے
 ۲۴۷۹۔ اَكْلُونِ خوب ڈٹ کر کھاؤ
 ۲۴۸۰۔ مَالِ حَرَامٍ مال حرام
 ۲۴۸۱۔ يَحْكُمُونَ فیصلہ چاہتے ہیں
 ۲۴۸۲۔ اَحْبَابُ علماء
 ۲۴۸۳۔ عَيْنٌ آنکھ
 ۲۴۸۴۔ اَنْفٌ ناک
 ۲۴۸۵۔ اُذُنٌ کان
 ۲۴۸۶۔ يَسِّنُ دانت
 ۲۴۸۷۔ زَحْمٌ زخم (جمع)
 ۲۴۸۸۔ قِصَاصٌ بدلہ
 ۲۴۸۹۔ كُفَّارَةٌ گناہ کا کفارہ، یا گناہ اتارنا۔
 ۲۴۹۰۔ قَفَّيْنَا پیچھے لائے ہم
 ۲۴۹۱۔ اَنْتَارٌ نشان، پیچھے
 ۲۴۹۲۔ مَهْمِيْنَا نکہبان

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۷۸۔ اَخْرَجْنِي دوسرے
 ۲۴۷۹۔ اَكْلُونِ خوب ڈٹ کر کھاؤ
 ۲۴۸۰۔ مَالِ حَرَامٍ مال حرام
 ۲۴۸۱۔ يَحْكُمُونَ فیصلہ چاہتے ہیں
 ۲۴۸۲۔ اَحْبَابُ علماء
 ۲۴۸۳۔ عَيْنٌ آنکھ
 ۲۴۸۴۔ اَنْفٌ ناک
 ۲۴۸۵۔ اُذُنٌ کان
 ۲۴۸۶۔ يَسِّنُ دانت
 ۲۴۸۷۔ زَحْمٌ زخم (جمع)
 ۲۴۸۸۔ قِصَاصٌ بدلہ
 ۲۴۸۹۔ كُفَّارَةٌ گناہ کا کفارہ، یا گناہ اتارنا۔
 ۲۴۹۰۔ قَفَّيْنَا پیچھے لائے ہم
 ۲۴۹۱۔ اَنْتَارٌ نشان، پیچھے
 ۲۴۹۲۔ مَهْمِيْنَا نکہبان

پارہ نمبر ۵۵

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۱۳۔ شریعت
 ۲۴۱۴۔ منہا کجا راہ عمل
 ۲۴۱۵۔ خیرات بھلے کام، بہتر کام
 ۲۴۱۶۔ یتوں دوست رکھے گا
 ۲۴۱۷۔ ۵ ایزکے گروش، چکر
 ۲۴۱۸۔ افسوس قسم کھانی انھوں نے
 ۲۴۱۹۔ جہن سخت
 ۲۴۲۰۔ ایک انہم قسمیں انکی
 الثلثت
 ۲۴۲۱۔ یرتد پھر جائے گا
 ۲۴۲۲۔ اذیہ نرمی کرنے والے
 ۲۴۲۳۔ اعزہ سخت
 ۲۴۲۴۔ لومئہ ملامت کرنا
 ۲۴۲۵۔ لاکم ملامت کرنے والا
 ۲۴۲۶۔ جرب گردہ، جماعت
 جمع: اخراب
 ۲۴۲۷۔ لعیبا کھیل
 ۲۴۲۸۔ نادینم بکارتے ہو تم
 ۲۴۲۹۔ تہیون تم عیب پاتے ہو

سورۃ المائدہ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۳۰۔ هل انبتکم کیا جڑوں میں تمکو
 دن ب ۶
 ۲۴۳۱۔ متوحیہ جزا، ثواب
 ۲۴۳۲۔ تردہ بندر
 تردہ: بندر (واحد)
 ۲۴۳۳۔ خنازیر سور (جمع)
 ۲۴۳۴۔ شوکانا برا ٹھکانہ
 ۲۴۳۵۔ اصل بہت بیکے، گمراہ
 ۲۴۳۶۔ لولا کیوں نہیں
 ۲۴۳۷۔ تانیون درویش لوگ
 ۲۴۳۸۔ انخاس علماء لوگ
 ۲۴۳۹۔ معلولہ تنگ ہوئے،
 بندھ گئے۔
 ۲۴۴۰۔ غلت تنگ کر دئے گئے،
 باندھ دئے گئے۔
 ۲۴۴۱۔ جسوطن کھلے ہوئے، کشادہ
 ۲۴۴۲۔ القینا ڈال دیا ہم نے
 ۲۴۴۳۔ اوقدوا سلگاتے ہیں
 ۲۴۴۴۔ حراب لڑائی
 ۲۴۴۵۔ اطفأ بجھا دیتا ہے
 ۲۴۴۶۔ کفرنا دور کر دیتے ہیں ہم

پارہ نمبر ۵۶

نمبر شمار عربی اُردو
 معاف کر دیتے ہیں ہم
 ۲۴۴۷۔ مقتصدہ بیچ کی راہ والی
 ۲۴۴۸۔ ساء خراب بُرا
 ۲۴۴۹۔ یحصم بچائے گا
 مصدر: عصمۃ
 ۲۴۵۰۔ لستم نہیں ہو تم
 ۲۴۵۱۔ تقموا قائم کرو تم
 ۲۴۵۲۔ لاتانس مت غم کرو
 ۲۴۵۳۔ هادوا یہودی ہو گئے
 ۲۴۵۴۔ صابون ستارہ پرست
 (فرقہ صابی)
 ۲۴۵۵۔ لاتہوی نہیں چاہتے تھے
 ۲۴۵۶۔ حسبوا گمان کیا انھوں نے
 ۲۴۵۷۔ عکوا اندھے ہوئے
 ۲۴۵۸۔ صموا بہرے ہوئے
 ۲۴۵۹۔ ثالث ثلثہ تیسرا تین میں کا،
 یاتین میں سے ایک
 ۲۴۶۰۔ صلیقتا بہت سچی عورت
 ولی صفت خاتون
 ۲۴۶۱۔ کانایا کلان دونوں کھاتے تھے

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۴۶۲۔ انظر دیکھ
 ۲۴۶۳۔ یؤذون اٹکرائے جا رہے ہیں
 ۲۴۶۴۔ لعن لعنت کی گئی
 (فعل مجہول)
 ۲۴۶۵۔ علی لسان زبان سے
 ۲۴۶۶۔ عصوا نافرمانی کی
 ۲۴۶۷۔ یعدون حد سے نکل گئے تھے
 ۲۴۶۸۔ اعتلوا حد سے نکلنا
 ۲۴۶۹۔ لا یبتاھون نہیں منگرتے تھے
 ۲۴۷۰۔ لبس البتہرا،
 بہت بُرا۔
 ۲۴۷۱۔ ترای دیکھے گا تو
 ۲۴۷۲۔ یؤذون دوستی کرتے ہیں
 ۲۴۷۳۔ قد مت آگے بھیجا
 ۲۴۷۴۔ سخط ناراض ہوا
 ۲۴۷۵۔ لحن البتہرا تو
 ۲۴۷۶۔ مؤذہ دوستی، جاہت
 ۲۴۷۷۔ قیسین پڑھے لکھے لوگ
 ۲۴۷۸۔ رھبنا درویش لوگ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو



۲۷۷- سَمِعُوا سُنْتَةَ بِيْن
 ۲۷۸- اَعْيَنَهُمْ اَنْ تَكْفِيْنَ
 ۲۷۹- دَفِى ضِ
 ۲۸۰- اَسْوَدُ مَوْعِ
 ۲۸۱- اَنْتَابِ
 ۲۸۲- لَانُحَرِّمُوا
 ۲۸۳- طَيِّبَاتٍ
 ۲۸۴- لَعُوْ
 ۲۸۵- اَيْبَانَ
 ۲۸۶- عَقَلْنَا
 ۲۸۷- اَطْعَامًا

سنتے ہیں
 آنکھیں اُن کی
 بہتی ہیں
 دفعی ض
 آنسو (دُمُوعِ
 الف) جمع ہے
 تو اب دیا، بدلہ دیا
 مت حرام کرو،
 مت حرام سمجھو۔
 پاکیزہ چیزیں
 بیکار
 تم میں
 گرہ باندھی تم نے،
 مضبوط باندھا
 کھلا دینا

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو

۲۸۸- اَدْسَطُ
 ۲۸۹- حَلَقْتُمْ
 ۲۹۰- اَنْصَابِ
 ۲۹۱- بَرْتِ
 ۲۹۲- رَجْسٍ
 ۲۹۳- يُوْرَقِ
 ۲۹۴- هَلْ
 ۲۹۵- مَنْتَهَوْنَ
 ۲۹۶- تَوَلَّيْتُمْ
 ۲۹۷- حَصِيْدٍ
 ۲۹۸- تَنَالُ
 ۲۹۹- رِمَاحٍ
 ۳۰۰- نَعَمَ
 ۳۰۱- ذَوَا عَدْلٍ
 ۳۰۲- بَالِغِ الْاٰكْفَانِ
 ۳۰۳- وَبَالَ

بیچ کا
 حلق، قسم کھاؤ تم
 تمہاں، آستانے،
 برت
 گندی، ناپاک
 ڈالنے کا،
 واقع کرے گا
 کیا
 باز آجانبوں نے
 رُک جانے والے
 پھر جاؤ تم
 شکار
 پہنچے گا
 نیزے
 جانور، چوپایہ
 دو انصاف والے
 آدمی
 بالغ اکفان پہنچا یا جائے کعبہ
 تک
 وبال، شامت

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو

۳۰۴- عَادَ
 ۳۰۵- سَيَّارًا
 ۳۰۶- صَيِّدٍ
 ۳۰۷- بَيْتِ الْاٰمِرِ
 ۳۰۸- بِحَصِيْدٍ
 ۳۰۹- سَائِبَةٍ
 ۳۱۰- دَصِيْلَةٍ
 ۳۱۱- حَامٍ
 ۳۱۲- حَصِيْبًا
 ۳۱۳- وَجَدْنَا

پھر سے کیا
 مسافر (دُفَا قَلَمًا)
 صید الیوم شکار (شکل) کا
 بیت امیر احرام کے لائق گھر
 کمان پھاڑ کر چھوڑ دینے
 جانے والا جانور
 سائبہ جو غیر اللہ کی
 نیاز پر چھوڑا جائے
 ایسی اونٹنی، جو ایک
 مادہ جننے کے بعد
 دوسری بار بھی مادہ
 جتنے، یعنی مادہ ملائے
 مشرکین کا طریقہ تھا
 کہ ایسی اونٹنی کو
 غیر اللہ کے نام پر
 چھوڑ دیتے تھے
 دین کے چھ جہادینے
 والا اونٹ
 کافی ہے ہم کو
 پایا یا ہم نے

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۴- اِثْنِ
 ۳۱۵- تَحْبِسُوْنَ
 ۳۱۶- اِنْ تَبَيْتُمْ
 ۳۱۷- اِثْمِيْنَ
 ۳۱۸- عُدُوْ
 ۳۱۹- اِسْتَحَقَّا
 ۳۲۰- اَوْلِيَّيْنَ
 ۳۲۱- اِدْنِيْ
 ۳۲۲- تُوْرَدُ
 ۳۲۳- مَا ذَا
 ۳۲۴- اِحْبَابِكُمْ
 ۳۲۵- صَهْدٍ
 ۳۲۶- اَكْفَلًا
 ۳۲۷- طَيِّبِيْنَ
 ۳۲۸- كَهَيْبَتِيْ
 ۳۲۹- تَنْفَعُ
 ۳۳۰- تُبْرِئِيْ

دو
 قریب کے لوگ
 بہت نزدیک
 ڈوکر دی جائیں گی،
 روکر دی جائیں گی
 کیا
 جواب دئے گئے تم
 گواہ، پچھن
 ادھیڑ عمر
 طیب
 جیسے کہ صورت
 تو پھولکتا (تھا)
 تو اچھا کر دیتا
 (تھا)

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۳۱- اَكْمَةَ مادر زاد اندھے کو
 ۲۸۳۲- اَبْرَصٌ کوڑھی کو
 ۲۸۳۳- كَفَقْتُ روک دیا میں نے

الربیع

۲۸۳۴- مَا اَقْلَتْ کھانے کا دسترخوان
 ۲۸۳۵- مَا اَقْلَتْ نہیں کہا میں نے
 ۲۸۳۶- مَا دُمْتُ جیتک رہا میں
 ۲۸۳۷- بَرَقَبَيْتُ نگہبان
 ۲۸۳۸- فَوَسْرٌ کامیابی

الْاِنْعَامُ سُورَةُ

۲۸۳۹- يَعْزِبُ اُنَّ بَرَّابھرتے ہیں
 ۲۸۴۰- اَجَلَ مُسَمًّى وقت مقرر
 ۲۸۴۱- تَهْتَدُونَ تم شکرتے ہو
 ۲۸۴۲- مَوْضِعَيْنِ اعراض کرنے والے

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۴۳- سَوَفَ تغافل کرنے والے
 ۲۸۴۴- اَبْقَاؤُا عقرب، جلد
 ۲۸۴۵- فَرْنَ زماں، ایک نہ ایک
 ۲۸۴۶- مَكْنَا ہم نے طاقت دی
 ۲۸۴۷- مَكْنٌ ٹھکانہ دینا،
 متمکن کرنا،
 طاقت دینا،
 جمادینا، جگہ دینا

۲۸۴۸- رَا زور کی بارش
 ۲۸۴۹- اَنْهَامٌ نہریں
 ۲۸۵۰- ذُرُوءٌ گناہ
 ۲۸۵۱- اَنْشَاكَ اٹھایا ہم نے،
 پیدا کیا ہم نے

۲۸۵۲- تَرْنَ طَامِسٌ کاغذ
 ۲۸۵۳- لَهْسٌ چھوٹا
 ۲۸۵۴- مَلَكٌ فرشتہ
 ۲۸۵۵- لَبَسْنَا جمع: ملاؤ گے
 ۲۸۵۶- يَكْسُونَ شبہ ڈالتے ہیں
 شبہ کرتے ہیں

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۵۷- حَاقٌ گھیر لیا
 ۲۸۵۸- سَخِرُوا مستحی کی انھوں نے
 ۲۸۵۹- سَخِرَ ٹھٹھا کرنا، مستحی کرنا

۲۸۶۰- سَيَّرُوا سیر کرو
 ۲۸۶۱- عَاقِبَةُ انجام
 ۲۸۶۲- مَكْنِ بَيْنَ بھٹلانے والے
 ۲۸۶۳- لَهْنٌ کس کے لئے
 ۲۸۶۴- مَكْنٌ بستہ ہے، رہتا ہے
 ۲۸۶۵- فَاطِرٌ بنانے والا
 ۲۸۶۶- يَطْعُمُ کھلاتا ہے

۲۸۶۷- لَا يَطْعَمُ کھلایا نہیں جاتا
 ۲۸۶۸- اُمْرٌ حکم دیا گیا میں
 ۲۸۶۹- يَصُوفٌ پھیرا جاتے
 ۲۸۷۰- يَوْمَئِذٍ اُس دن
 ۲۸۷۱- كَا شَفِ کھولنے والا
 دُور کرنے والا

۲۸۷۲- قَاهِرٌ قابو یافتہ، زبردست
 ۲۸۷۳- فَوْقِ اوپر
 ۲۸۷۴- اَيُّ كُونِ کونسی
 ۸

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۷۵- اَفْتَرَى جھوٹ بانڈھ لیا
 ۲۸۷۶- اَيُّنَ کہاں
 ۲۸۷۷- تَوَعَّدُونَ تم زعم کرتے تھے،
 دعوئی کرتے تھے

۲۸۷۸- لَمْ تَكُنْ نہ ہوگی
 ۲۸۷۹- فَتَنْتَهُمْ قتنہ بازی انکی،
 یہاں بازی انکی
 ۲۸۸۰- وَاللّٰهِ قسم اللہ کی
 ۲۸۸۱- مَا كُنَّا نہ تھے ہم
 ۲۸۸۲- يَسْتَبِخُ کان دھرتا ہے
 ۲۸۸۳- اَكْتَتَ حجاب،
 آڑ

۲۸۸۴- فَعَمَّ سمجھنا
 ۲۸۸۵- وَقَدَّ بوجھ
 ۲۸۸۶- يُجَادِلُونَ جھگڑتے ہیں،
 جدال کرتے ہیں
 ۲۸۸۷- اَسَا طَيْرٌ کہانیاں
 پہلے لوگ
 ۲۸۸۸- اَوَّلِينَ پہلے لوگ
 ۲۸۸۹- يَمْتَحِنُونَ منع کرتے ہیں
 ۲۸۹۰- يَنْسَوْنَ اُکے رہتے ہیں
 (دُور رہتے ہیں)

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۸۹۱۔ وَقِفُوا کھڑے کئے جانتے
 ۲۸۹۲۔ لِيَلْبَسْنَا اے کاش کہ ہم
 ۲۸۹۳۔ نَزِدُ ہم پھر دیتے جائیں
 ۲۸۹۴۔ نَكُونُ ہو جائیں ہم
 ۲۸۹۵۔ بِنَا ظاہر ہو گیا
 ۲۸۹۶۔ لَعَادُوا اللہ ہی کرتے پھر سے
 ۲۸۹۷۔ مَبُوءِينَ اٹھائے جانوالے
 ۲۸۹۸۔ اَلَيْسَ کیا نہیں ہے
 ۲۸۹۹۔ سَاعَةً قیامت
 ۲۹۰۰۔ بَعَثَهُ اچانک
 ۲۹۰۱۔ حَسْرَتَنَا ہائے افسوس ہم پر
 ۲۹۰۲۔ فَرَطْنَا تقصیر کی ہم نے،
 لا پرواہی کی ہم نے
 ۲۹۰۳۔ يَحْمِلُونَ اٹھاتے ہیں
 ۲۹۰۴۔ اَوْرَاسًا بوجھ
 ۲۹۰۵۔ طُورًا پیٹھ (جمع)
 ۲۹۰۶۔ مَا يَرُونَ جو کچھ اٹھا رہے ہیں

سورۃ الانعام ۶۵

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۹۰۷۔ لَهَوٌ مشغلہ،
 جی بہلانا
 ۲۹۰۸۔ يَجْحَدُونَ انکار کرتے ہیں
 ۲۹۰۹۔ كَبُرُ بھاری ہوا
 ۲۹۱۰۔ اسْتَطَعَتْ ہو سکے تجھ سے
 ۲۹۱۱۔ تَبَعِي دھونڈے تو
 ۲۹۱۲۔ نَفَقًا سرنگ
 ۲۹۱۳۔ سُلَمًا سیڑھی

النصف

۲۹۱۴۔ ذَابَتْ جانداز
 ۲۹۱۵۔ طَائِرٌ (طائر) پرندہ
 ۲۹۱۶۔ يَطِيرُ اڑتا ہے
 ۲۹۱۷۔ جَنَّا حَيًّا اپنے بازو پر
 ۲۹۱۸۔ اَمَمٌ اُمَمِیں
 (واحد: اُمَّتٌ)
 ۲۹۱۹۔ مَنِ يَشَأْ اللہ جیسے اللہ چاہے
 ۲۹۲۰۔ اَيُّهَا اسی کو
 ۲۹۲۱۔ يَكْتَسِفُ دُور کر دیتا ہے
 ۲۹۲۲۔ يَبْصُرُونَ اٹھیلے ہیں وہ بارگاہِ

پارہ نمبر ۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۹۲۳۔ لَوْلَا کیوں نہیں
 ۲۹۲۴۔ بَأْسُنَا عذاب ہمارا
 ۲۹۲۵۔ نُرِيَنَّ زینت دی گئی
 ۲۹۲۶۔ نَسُوا بھول گئے وہ
 ۲۹۲۷۔ مَا كَرُّوا جس کی یاد دلائی
 ۲۹۲۸۔ فَرِحُوا خوش ہو گئے۔
 اترانے لگے
 ۲۹۲۹۔ مُتِلِّسُونَ نا امید ہو گئے
 ۲۹۳۰۔ قَطَعَ کاٹ ڈالی گئی
 ۲۹۳۱۔ اَبْرَ جڑ
 ۲۹۳۲۔ يَصْدُقُونَ وہ ہٹ جاتے ہیں
 پلٹ جاتے ہیں
 ۲۹۳۳۔ خَوَارِجُ اللہ خزانے اللہ کے
 ۲۹۳۴۔ عَلِمُوا نہیں جانتا میں
 ۲۹۳۵۔ غَيْبٌ غیب، چھپی ہوئی
 ۲۹۳۶۔ اَلَا قَوْلٌ نہیں کہتا میں
 ۲۹۳۷۔ هَلْ يَسْتَوِي کیا برابر میں
 ۲۹۳۸۔ اَعْمَى اندھا
 ۲۹۳۹۔ يَبْصُرُ دیکھنے والا
 ۲۹۴۰۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۱۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۲۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۳۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۴۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۵۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۶۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۷۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۸۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۴۹۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۵۰۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۵۱۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۵۲۔ اَنْذِرُوا
 ۲۹۵۳۔ اَنْذِرُوا

سورۃ الانعام ۶۵

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۹۴۰۔ اَنْذِرُوا خبر کر دے،
 ڈرادے۔
 ۲۹۴۱۔ لَا تَقْرُدْ مت ہانک،
 مت ڈور کر
 ۲۹۴۲۔ عَادُوا صبح
 ۲۹۴۳۔ عَشِيٌّ شام
 ۲۹۴۴۔ وَجْهَهُ رضامندی اسکی
 (چہرہ)
 ۲۹۴۵۔ مَا عَلَيْكَ نہیں تجھ پر
 ۲۹۴۶۔ اَرَأَيْتَ مِمَّنْ اُتُوا
 ہم نے
 ۲۹۴۷۔ تَسْتَعِينُ بیان ہو جائے،
 ظاہر ہو جائے۔
 ۲۹۴۸۔ نَهَيْتُ منع کر دیا گیا میں،
 روک دیا گیا میں
 ۲۹۴۹۔ تَسْتَعْجِلُونَ تم جلدی چاہتے ہو
 ۲۹۵۰۔ اِنْ اِلَيْكُمْ نہیں حکم
 ۲۹۵۱۔ خَيْرٌ اَلْفَاصِلِينَ بہتر فیصلہ کرنے والا
 ۲۹۵۲۔ مَقَاتِلٌ (واحد) کئی
 ۲۹۵۳۔ مَقَاتِلٌ (جمع) کئی

پارہ نمبر (۴۷)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۹۵۳۔ مَا سَقَطُ نہیں کرتا
 ۲۹۵۵۔ وَرَقًا پتہ، ورق
 ۲۹۵۶۔ رَطْبًا تر چیز
 ۲۹۵۷۔ بِبَاسٍ سوکھی چیز
 ۲۹۵۸۔ جَوَّحْتُمْ کما یا تم نے
 ۲۹۵۹۔ حَفَظْتُمْ نگران، نگہبان
 ۲۹۶۰۔ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ نہیں کمی کرتے ہیں
 نہیں تقصیر کرتے
 ۲۹۶۱۔ أَسْرَعُ بہت ہی جلد
 ۲۹۶۲۔ نَصَوْعًا گڑبگڑا کر،
 عاجزی سے
 ۲۹۶۳۔ حُفِيئًا چپکے سے، خوفزدہ
 ہو کر
 ۲۹۶۴۔ كَذِبٌ سخی بہم
 ۲۹۶۵۔ يَلْبَسُ بھڑا دے گا
 ۲۹۶۶۔ شَيْعًا ٹولیاں، گروہ
 ۲۹۶۷۔ يَذْبُقُ چکھا دے گا
 ۲۹۶۸۔ لَسْتُ نہیں ہوں میں
 ۲۹۶۹۔ يَحْوِضُونَ بحث کرتے ہیں
 (گھسنے)

سورۃ الانعام (۶)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۹۷۰۔ اِنَّمَا اگر، جب بھی، یا
 ۲۹۷۱۔ يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے بھکو
 ۲۹۷۲۔ لَا تَقْعُدَنَّ مت بیٹھ
 ۲۹۷۳۔ بَعْدَ الذِّكْرِ نصیحت کے بعد
 ۲۹۷۴۔ ذَرْنِ چھوڑ
 ۲۹۷۵۔ عَزَّتْ فریب دیا
 ۲۹۷۶۔ اَنْ تَبْسُلَ کہ پھنس جائے،
 سونپا جائے
 ۲۹۷۷۔ شَفِيعٌ شفاعت کرنے والا
 ۲۹۷۸۔ تَعَدَّلْ بدلہ دیوے معاوضہ
 ۲۹۷۹۔ كُلُّ مَدَالٍ سارے بدلے
 ۲۹۸۰۔ اُبْسِلُوا سونپے گئے،
 پھنس گئے
 ۲۹۸۱۔ شَرَابٌ پینا
 ۲۹۸۲۔ حَمِيمٌ گرم، کھولتا ہوا
 ۲۹۸۳۔ اَلْبَيْتُ دردناک
 ۲۹۸۴۔ اَنْذَعُوا گھیا ہم پکاریں
 ۲۹۸۵۔ نَوَدٌ لوٹ جائیں ہم
 ۲۹۸۶۔ اَعْقَابُ اڑیاں
 ۲۹۸۷۔ اَسْتَهْوَتْ بے راہ کر دیا اسکو

پارہ نمبر (۴۸)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۲۹۸۸۔ حَيَّرَانِ حیران، سر اسیمہ
 ۲۹۸۹۔ اَصْحَابٌ ساتھی، اصحاب
 ۲۹۹۰۔ اِغْتِنَا آہمارے پاس
 ۲۹۹۱۔ كُنْ ہو جاؤ
 ۲۹۹۲۔ فَيَكُونُ پس وہ ہو جائے گا

الثلثة

- ۲۹۹۳۔ يُنْفَخُ پھونکا جائے گا
 ۲۹۹۴۔ صَوْرًا نرسنگھا
 ۲۹۹۵۔ اَدْرَسَ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے چچا
 یا باپ کا نام
 ۲۹۹۶۔ اَصْحَابًا بُت، مورتیں
 ۲۹۹۷۔ اِنَّا كُنَّا دیکھا میں نے بھکو
 ۲۹۹۸۔ نَزَجِي دیکھا یا ہم نے
 ۲۹۹۹۔ مَدَكُوتٌ بادشاہی
 ۳۰۰۰۔ جَنٌّ ڈھانپ لیا
 ۳۰۰۱۔ اِنَّا دیکھا اس نے
 ۳۰۰۲۔ كَذَّبًا ستارہ
 ۳۰۰۳۔ اَفْلًا چھپ گیا
 ۳۰۰۴۔ اَوَّلِينَ چھپ جائیوے

سورۃ الانعام (۶)

نمبر شمار عربی اُردو

- ۳۰۰۵۔ قَمَرًا چاند
 ۳۰۰۶۔ رَاٰنَا رُشًا، چمکتا ہوا
 ۳۰۰۷۔ شَمْسٍ سورج
 ۳۰۰۸۔ وَجَهْتُمْ رُخ کیا میں نے
 ۳۰۰۹۔ حَبْنَقًا یکسو
 ۳۰۱۰۔ فَرِيقَيْنِ دو فریق
 ۳۰۱۱۔ اَحَقُّ زیادہ مستحق
 ۳۰۱۲۔ اَمْنٌ امن
 ۳۰۱۳۔ لَمْ يَلْبَسُوا نہیں ملایا، نہیں
 مخلوط کیا
 ۳۰۱۴۔ اَشْرَكُوا شُرک کرتے وہ
 ۳۰۱۵۔ وَكَلَّمْنَا مقرر کر دیا ہم نے
 ۳۰۱۶۔ اِنْتَدَاكُمْ اقتدار، پیروی کر
 ۳۰۱۷۔ اِنَّا اُنھوں نے
 ۳۰۱۸۔ تَرَاهُمْ تَر اُنھیں قدر جانی
 ۳۰۱۹۔ حَوْصًا بحث
 ۳۰۲۰۔ مَصَدِّقٌ تصدیق کرنے والا
 ۳۰۲۱۔ يَكْفِي كَم سے پہلے سے

پارہ نمبر ۱۰۱

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۰۲۲۔ تَنْزِيلُ تَوَجُّدِ رُكُودِ
 ۳۰۲۳۔ اُمُّ الْقُرَىٰ بستیوں کی ماں، مرکزی بستی مراد مکہ مکرمہ
 ۳۰۲۴۔ حَوْنٌ اِرْدُغِرْدِ، اَسْ پاس
 ۳۰۲۵۔ عَمْرَاتٌ سختیاں
 ۳۰۲۶۔ بَا سِطْوٰ اَکے بڑھائے ہوئے
 ۳۰۲۷۔ هُوْنٌ ذَلَّتْ، رِسْوَانِي
 ۳۰۲۸۔ حِشْمُوْنَا اَکے تمہارے پاس
 ۳۰۲۹۔ فُرَادِي اکیلے، تنہا
 ۳۰۳۰۔ اَوَّلُ مَرْوَةٍ پہلی بار
 ۳۰۳۱۔ حَوْنًا دیا ہونے
 ۳۰۳۲۔ رَعْمَتُهُ دُوی کیا دھما، تم نے (ذ ع م)
 ۳۰۳۳۔ فَا لَيْقٌ پھاڑنے والا
 ۳۰۳۴۔ اَلْوَيُّ گٹھلیاں
 ۳۰۳۵۔ اَصْبَاحٌ صبح
 ۳۰۳۶۔ سَكْنًا راحت، آرام، سکون۔
 ۳۰۳۷۔ حَسْبَانَا پھرنے والے صاحبے
 ۳۰۳۸۔ تَقْدِيرٌ اندازہ

سُورَةُ الْاِنَامِ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۰۳۹۔ نَجْوَمٌ تارے (واحد نَجْمٌ)
 ۳۰۴۰۔ اُنشَاٌ پیداکیا
 ۳۰۴۱۔ مُسْتَقَرٌّ قَرَارِ گاہ
 ۳۰۴۲۔ مُسْتَوْدَعٌ سوچے جانے کی جگہ
 ۳۰۴۳۔ نَبَاتٌ بُوٹیاں، نباتات
 ۳۰۴۴۔ حَضْوٌ سبز
 ۳۰۴۵۔ حَبًّا دانے
 ۳۰۴۶۔ مُنْتَرِكًا ایک پر ایک، چڑھا ہوا، تہہ بہہ
 ۳۰۴۷۔ نَحْلٌ کھجور
 ۳۰۴۸۔ طَلْعٌ فونے، گابجھ
 ۳۰۴۹۔ قَنَوَانٌ گٹھ
 ۳۰۵۰۔ ذَانِبَاتٌ جھٹکنے ہوئے (مارے بوجھ کے)
 ۳۰۵۱۔ اَعْنَابٌ انگور
 ۳۰۵۲۔ رَمَانٌ انار
 ۳۰۵۳۔ مُسْتَبَهًا ایک دو کرے ملتے جلتے
 ۳۰۵۴۔ ثَمَرٌ پھل

پارہ نمبر ۱۰۲

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۰۵۵۔ اَتَمَّرٌ پھل دیوے
 ۳۰۵۶۔ يَنْعِيهِ پکنا پھل کا
 ۳۰۵۷۔ يَنْعُ پکنا
 ۳۰۵۸۔ حَرَقُوْا پھاڑ نکالا
 ۳۰۵۹۔ بِنِيْنٌ سیٹے
 ۳۰۶۰۔ بِنَاتٌ بیٹیاں
 ۳۰۶۱۔ تَعَالَىٰ بلند
 ۳۰۶۲۔ عَمَّا اس چیز سے
 ۳۰۶۳۔ يَصِفُوْنَ بیان کرتے ہیں، بات بناتے ہیں
 (د ص ف)
 ۳۰۶۴۔ يَبْدِيْعٌ موجود
 ۳۰۶۵۔ اَنِيٰ کہاں
 ۳۰۶۶۔ لَمْ تَكُنْ نہیں ہے
 ۳۰۶۷۔ صَاحِبَةٌ بیوی، ساتھ والی
 ۳۰۶۸۔ ذَالِكُمْ یہ (وہ)
 یہ تو آپ کو معلوم
 ہی ہے کہ ذَالِكْ
 کے معنی یہ (وہ)
 کے ہوتے ہیں، لیکن

سُورَةُ الْاِنَامِ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو
 جب یہ لفظ کسی
 کے سامنے برائے
 خطاب استعمال ہوگا
 تو اس کا طریقہ یہ ہے
 کہ جیسے ایک آدمی
 کے سامنے ذَالِكْ
 ڈو کیلئے ذَالِكُمْ،
 جمع کیلئے ذَالِكُمْ
 اس طرح لفظ تَلِكْ
 (مؤنث کیلئے) بھی
 جیسے تَلِكْ، تَلِكُمْ
 کارساز
 ۳۰۷۰۔ لَا تَكُنْ بِرَاكٍ نہیں پاسکتی
 ۳۰۷۱۔ اِذْرَاكٌ پالینا
 ۳۰۷۲۔ اَبْصَارٌ آنکھیں، بصارت (بصیرت)
 ۳۰۷۳۔ اَلطَّيْفُ بہت باریک بین
 ۳۰۷۴۔ دَرَسَتْ پڑھا دیا تو نے، درس دیدیا تو نے (درس)
 ۳۰۷۵۔ اَعْرَضَ منہ پھیرے، کنارہ کش ہو جا

پارہ نمبر ۷۷

نمبر شمار عربی اُردو

۳۰۷۶۔ لَا تَسْبُوا مَت بَرَاكُو
 ۳۰۷۷۔ مَا يَشْعُرُ كِيَا سَمِجْهِيں آتا ہے؟
 ۳۰۷۸۔ تَقَلَّبَ ہم اٹا پھیر دیں گے
 ۳۰۷۹۔ اَفْعِدْتُ دِل
 ۳۰۸۰۔ اَوَّلَ مَرَّةٍ پہلی بار
 ۳۰۸۱۔ طُعْيَانٌ سرخشی
 ۳۰۸۲۔ يَجْعَلُونَ بھٹکے پھرتے ہیں

پارہ نمبر ۷۸

۳۰۸۳۔ تَبَلَّغٌ مَدِّعَابِل، سامنے
 ۳۰۸۴۔ يَجْهَلُونَ جہالت کی باتیں
 کرتے ہیں
 ۳۰۸۵۔ عَدَاؤًا دشمنِ رجوع
 اَعْدَاءُ
 ۳۰۸۶۔ نَحْرَفُ چلنی چڑھی باتیں
 ۳۰۸۷۔ غُرُورًا فریب، دھوکہ
 ۳۰۸۸۔ دَمْرٌ چھوڑ دے
 ۳۰۸۹۔ تَصْنَعِي بھٹکتے ہیں نائل ہوتے ہیں

سُورَةُ الْاِنْعَامِ ۶۶

نمبر شمار عربی اُردو

۳۰۹۰۔ يَقْدِرُونَ وہ اڑکاب کرتے
 ہیں، کھاتے ہیں
 ۳۰۹۱۔ مُقْتَرُونَ کمائی کرنے والے
 ۳۰۹۲۔ اَبْتَعِي جابھوں میں،
 ڈھونڈوں میں،
 تلاش کروں میں
 ۳۰۹۳۔ حَكَمًا فیصلہ کرنے والا
 ۳۰۹۴۔ مُفَضَّلًا بہت تفصیل والی
 پوری ہوتی
 ۳۰۹۵۔ تَكْتُمُ بات
 ۳۰۹۶۔ كَلِمَةً سچائی
 ۳۰۹۷۔ صِدْقًا راستی، انصاف
 ۳۰۹۸۔ عَدْلًا بدلنے والا
 ۳۰۹۹۔ مُبَدِّلٌ اٹکل بازی کرتے ہیں
 ۳۱۰۰۔ يَخْرُصُونَ یاد کیا گیا
 ۳۱۰۱۔ ذِكْرٌ تفصیل سے بیان
 کر دیا
 ۳۱۰۲۔ فَضْلٌ خیال ڈالتے ہیں
 ۳۱۰۳۔ يُوْحُونَ چلتا ہے
 ۳۱۰۴۔ يَمْشِي بڑے لوگ، سرغنہ
 ۳۱۰۵۔ اَكْبَرُ

پارہ نمبر ۷۹

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۰۶۔ مُجْرِمِينَكَ جرم کرنے والے
 (اس لبتی کے)
 ۳۱۰۷۔ ذُنُوبِي دے جائیں ہم
 ۳۱۰۸۔ اَعْلَمُ خوب جانتا ہے
 ۳۱۰۹۔ صَغَائِرٌ ذلت
 ۳۱۱۰۔ يَتَوَحَّحُ کھول دیتا ہے
 ۳۱۱۱۔ صَدْرِي سینه
 ۳۱۱۲۔ صَبِيحًا تنگ
 ۳۱۱۳۔ حَرَجًا خوب رکا ہوا
 ۳۱۱۴۔ كَاثِمًا جیسے کہ
 ۳۱۱۵۔ يَصْعَدُ چڑھتا ہے
 ۳۱۱۶۔ رَاجِسٌ گندگی، عذاب
 ۳۱۱۷۔ دَارُ السَّلَامِ گھرِ سلامتی کا
 ۳۱۱۸۔ يَلْمَعُونَ اسے جماعت
 ۳۱۱۹۔ اسْتَمْتَعُ فائدہ اٹھایا
 ۳۱۲۰۔ بَلَعْنَا پینے ہم
 ۳۱۲۱۔ اَجَلْتُ مقرر کیا تو نے
 ۳۱۲۲۔ مَتَوَيُّ حٹھکانا
 ۳۱۲۳۔ يَا نِكْمٌ آئے تمہارے پاس
 ۳۱۲۴۔ يَعْصُونَ بیان کرتے ہیں

سُورَةُ الْاِنْعَامِ ۶۶

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۲۵۔ شَهِدْنَا گواہی دی ہم نے
 ۳۱۲۶۔ مَهْلِكٌ ہلاک کرنے والا
 ۳۱۲۷۔ ذُّوَالرَّحْمَةِ مہربانی کرنے والا
 ۳۱۲۸۔ يَسْتَخْلِفُ جانشین کر دے
 ۳۱۲۹۔ اَلْبَتَّةُ صرور آئیو اللہ ہے
 ۳۱۳۰۔ يَهْتَبِي پہنچتا ہے
 ۳۱۳۱۔ يُوْذُو ہلاک کر دیا
 ۳۱۳۲۔ يَلْبَسُوا مشتہ کر دیا
 ۳۱۳۳۔ حَجْرًا اچھوتی
 ۳۱۳۴۔ اَفْتَرَاءٌ جھوٹ موٹ لگا دینا
 ۳۱۳۵۔ ذُّوَالرَّحْمَةِ مردِ دو احد:
 ذکر
 ۳۱۳۶۔ وَصَفٌ بیان کرنا
 ۳۱۳۷۔ سَفْهًا بے وقوفی

الرَّيْع

۳۱۳۸۔ مَعْرُوفَاتٌ ٹپوں پر چڑھاتے
 جانپوائے درخت،
 پھتری پر چڑھاتے
 جانپوائے درخت

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۳۹- حَصَادٌ كَانُوا
 ۳۱۴۰- حَبُولَةً بوجھا اٹھانے والے جانور
 ۳۱۴۱- فَرَسًا زمین کو لگے ہوئے
 چھوٹے قدر کے جانور
 جو زمین کو لگے چلتے ہیں
 یا جن کی کھالوں کو
 پھانے کے کام میں
 لایا جاتا ہے۔

۳۱۴۲- تَلْبِينًا آطْمًا
 ۳۱۴۳- اُدْرَاجٌ جوڑے
 ۳۱۴۴- صَانٌ بھیڑ
 ۳۱۴۵- مَعْرٌ بکری
 ۳۱۴۶- ذَكْرَيْنِ دو نر
 ۳۱۴۷- اُنْتَيْنِ دو مادہ

۳۱۴۸- اَسْنَانًا لادے ہوئے،
 اٹھاتے ہوئے

۳۱۴۹- اَرْحَامٍ پیٹ
 ۳۱۵۰- اِبِلٌ اونٹ

۳۱۵۱- لَا اَجِدُ نہیں پاتا میں
 ۳۱۵۲- مَحْرَمًا حرام کیا ہوا

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۵۳- عَلٰى طَائِفٍ کھانے والے پر
 ۳۱۵۴- مِمَّا نَحْوِ
 ۳۱۵۵- مَسْفُوحًا بہتا ہوا
 ۳۱۵۶- ذِي ظُفْرِ ناسخ والے جانور
 ۳۱۵۷- غَنَمٌ بھیڑ، بکری
 ۳۱۵۸- شُحُوْمٌ چربی
 ۳۱۵۹- حَوَائِيَا اتر پیاں
 ۳۱۶۰- اِخْتَلَطَ مخلوط ہو، لگی ہو
 ۳۱۶۱- عَظْمٌ ہڈی
 ۳۱۶۲- وَاِسْعَةً کُشَادِی
 ۳۱۶۳- تَحْرُصُونَ تم اٹکل کرتے ہو
 ۳۱۶۴- اَلْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ دلیل پوری
 ۳۱۶۵- هَلُمُّ لے آؤ

۳۱۶۶- اِمْلَاقٍ افلاس، معاشتیگی
 ۳۱۶۷- اِیْثَاهُمْ انکو بھی

۳۱۶۸- مَا ظَهَرَ جو کچھ ظاہر ہے
 ۳۱۶۹- مَا لَطِنٌ جو کچھ پوشیدہ ہے
 ۳۱۷۰- اَشْدُّ جوانی، مضبوطی

۳۱۷۱- اِدْرَافًا پورا کرو
 ۳۱۷۲- کِیْلٌ ناپ

سُورَةُ الْاِنْعَامِ (۶)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۷۳- مِثْرَانٌ تول
 ۳۱۷۴- قِسْطٌ انصاف
 ۳۱۷۵- اَنْ تَقُولُوْا کہہ دو گے
 ۳۱۷۶- دِرَاسَةً پڑھنا پڑھانا
 ۳۱۷۷- اِهْدٰی خوب ہدایت یافتہ
 ۳۱۷۸- اَظْلَمُ بہت ظالم
 ۳۱۷۹- صَدَفٌ پھار رہا، کتر کر چلا
 ۳۱۸۰- یَضْرِبُونَ کتر کر چلتے ہیں
 ۳۱۸۱- لَسْتُ نہیں ہے تو
 ۳۱۸۲- حَسَنَةً نیکی
 ۳۱۸۳- عَسُوْا امثال دشمنی
 ۳۱۸۴- دِیْنًا قِیْمًا دین حکم
 ۳۱۸۵- نَشْكٌ قربانی
 ۳۱۸۶- مَعْرِيَةً زندگی میری
 ۳۱۸۷- مَمَانِيَةً موت میری
 ۳۱۸۸- لَا تَكُنْ مِنَ نَبُوْجِهٖ اٹھانے کا
 ۳۱۸۹- وَاَنْزِلَ اِلَيْهِ بوجھا اٹھا ہوا
 ۳۱۹۰- دِیْنًا بوجھ
 ۳۱۹۱- مَرْجِعٌ لوٹ کر جانیکی جگہ
 ۳۱۹۲- خَلِّفَتْ جانشین

سُورَةُ الْاِعْرَاقِ (۷)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۱۹۳- مِثْرَانٌ تول
 ۳۱۹۴- قِسْطٌ انصاف

النصف

سُورَةُ الْاِعْرَاقِ (۷)

۳۱۹۵- لَا یَكُنْ نہ ہونا چاہیے
 ۳۱۹۶- بِاَسْنَانٍ عذاب ہمارا
 ۳۱۹۷- حَرَجٌ تنگی
 ۳۱۹۸- بِنَائِكَ رات
 ۳۱۹۹- تَاكِلُوْنَ دوپہر کے وقت
 ۳۲۰۰- سَوْنَةَ سونے والے
 (قبیلہ)

۳۲۰۱- یَوْمَئِذٍ اس دن
 ۳۲۰۲- تَقَلَّتْ بھاری
 ۳۲۰۳- مَوَازِیْنُ تول، وزن
 ۳۲۰۴- بَلَا جھوٹا
 ۳۲۰۵- مَعَالِشِ سامان معیشت

پارہ نمبر ۱۸

نمبر شمار عربی اُردو

- ۳۲۰۳۔ ضِعْرَيْنِ ذیل لوگ،
چھوٹے لوگ
۳۲۰۴۔ اَنْظُرْ مہلت دے
۳۲۰۵۔ يَبْعَثُونَ اُٹھائے جائیں گے
۳۲۰۶۔ مُنْظَرِيْنَ ڈھیل دتے گئے،
منتظر رکھے گئے
۳۲۰۷۔ اَعْرَبَتْ بہکا دیا تو نے
۳۲۰۸۔ اَفْعَلْنَ بیٹھ کر رہوں گا
۳۲۰۹۔ اَيْمَانِ داہنی جانب
۳۲۱۰۔ شَيْءًا بایں جانب
۳۲۱۱۔ لَا تَجِدُ دپائے گا تو
۳۲۱۲۔ مَعَهُ مَوْمًا بُرے حال،
نذمت کیا ہوا
۳۲۱۳۔ مَدَّ حُورًا دُور کیا ہوا، مردود
۳۲۱۴۔ اَمْلَكُنْ بھر دوں گا
۳۲۱۵۔ ذُرِّيْ جھپایا گیا
۳۲۱۶۔ سَوَاتٍ قابلِ حجاب، یا
چھپائی جانے کے
لائق (شرم گاہ)
۳۲۱۷۔ قَاسَمَ قسم کھائی

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

- ۳۲۱۸۔ اُنَارِيَا
۳۲۱۹۔ بَدَلَتْ ظاہر ہو گئی
۳۲۲۰۔ يَخْضِبْنَ رُكْنَ لگے،
چکانے لگے
(دوہ دونوں)
۳۲۲۱۔ وَرَاقٍ پتے، ورق
۳۲۲۲۔ اَرِيَا زینت
۳۲۲۳۔ اِيْمَانِ لَبَاسِ پیریزگاری کا
۳۲۲۴۔ لَا يَفْتَنَنَّكُمْ بہکا دے تم کو
۳۲۲۵۔ يَنْزِعْ اُنَارِيَا، کھینچ لیا
۳۲۲۶۔ قَبِيْلَةً قبیلہ اُس کا
۳۲۲۷۔ اَرِيْمُوْرًا سیدھا رکھو
۳۲۲۸۔ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر مسجد کے موقع پر،
یعنی نماز کے وقت
جاؤ گے۔
۳۲۲۹۔ تَعُوْذُونَ دوبارہ پیدائے
جاؤ گے۔
۳۲۳۰۔ لَا يَسْتَأْذِنُ انہیں پچھے ہٹ
سکیں گے۔
۳۲۳۱۔ لَا يَسْتَفِيْذُونَ انہیں اگے کل سکیں گے

پارہ نمبر ۱۸

نمبر شمار عربی اُردو

- ۳۲۳۲۔ ضَلُّوْا کھو گئے، بھاگ گئے
۳۲۳۳۔ اُخْتَمَهَا بہن اُسکی سجنس
۳۲۳۴۔ اِذَا رُكُوْا جمع ہوں گے
۳۲۳۵۔ لَا تَفْتَحْ نہیں کھولے جائیں گے
۳۲۳۶۔ يَلِيْحُ داخل ہو جائے
۳۲۳۷۔ جَهَنَّمَ اونٹ
۳۲۳۸۔ سَمَّاءٍ ناکہ سونی کا
۳۲۳۹۔ عَوَاشٍ اور ہنا
۳۲۴۰۔ نَوَاصِبًا کھینچ لیں گے ہم،
دُور کر دیں گے ہم
۳۲۴۱۔ غِيْلًا ناتوشی، غبار
۳۲۴۲۔ نُوْدُوْرًا پکارے جائیں گے

الثلثة
۳۲۴۳۔ نَادَى پکاریں گے
۳۲۴۴۔ نَعَمٌ ہاں
۳۲۴۵۔ اَذِّنْ اعلان کرے گا
۳۲۴۶۔ مُؤَذِّنٌ اعلان کرنے والا
۳۲۴۷۔ عَوَجًا ٹیڑھا پن
۳۲۴۸۔ حِجَابٍ پردہ، اوٹ، آڑ

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

- ۳۲۴۹۔ اَعْرَفٌ اونچی جگہ،
جنت اور دوزخ کی
حد فاصل، جن لوگوں
کی نیکیاں اور بدیاں
برابر ہوئی، وہ اُس
وقت تک اعراف
کی جگہ ٹھہرائے جائیں گے
جتک کہ اہل جنت
اور اہل دوزخ اپنے
اپنے مقامات میں جا
ئیں، آخر کار اہل
اعراف بھی جنت میں
داخل ہوں گے۔
۳۲۵۰۔ سَيِّمًا پہچان، نشانی
۳۲۵۱۔ يَطْمَعُونَ چاہت رکھتے ہوں گے
۳۲۵۲۔ صَوِّفَتْ پھیری جائے گی،
چکر جائے گی
۳۲۵۳۔ تَلْقَاءُ ملاقات
۳۲۵۴۔ مَا اَعْنَى انہیں کام آیا
۳۲۵۵۔ لَا يَسْأَلُ انہیں پہچانے گا

پارہ ۱۸

نمبر شمار عربی اُردو

۳۲۵۴	اَفِيضُوا	ڈالو، بہادو
۳۲۵۷	نَسَى	بھلا دیں گے ہم،
		نظر انداز کر دیں گے
۳۲۵۸	هَلْ لَنَا	کیا ہے ہمارے لئے
۳۲۵۹	نُورٌ	پھیر دے جائیں ہم
		چلے
۳۲۶۰	سِنَّةٌ اَيَّامٍ	چلے یا ام
۳۲۶۱	يُعْنَى	ڈھانک دیتا ہے
۳۲۶۲	يَطْلُبُ	ڈھونڈتا ہے،
		پہچان لگا آتا ہے
۳۲۶۳	حَنِينًا	جلدی جلدی
۳۲۶۴	مُسْجِرَاتٍ	قابو میں کئے ہوتے
۳۲۶۵	تَبْلُوكَ	برکت والا
۳۲۶۶	نَصْرًا	عاجزی سے،
		رگڑ کر اکر
۳۲۶۷	خُفْيَةً	چپکے چپکے
۳۲۶۸	طَعْمًا	طع سے، امید سے
۳۲۶۹	رِيَاخٍ	ہوا میں،
۳۲۷۰	بَشْرًا	خوشخبری، بشارت
۳۲۷۱	اُقْلَّتْ	اٹھاتی ہے
۳۲۷۲	سَحَابًا	بادل

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

۳۲۷۳	ثَقَالًا	بھاری، بوجھل
۳۲۷۴	مُسْتَقْرًا	بانک دیتے ہیں ہم
		چلا دیتے ہیں ہم
۳۲۷۵	بَلَدٍ مَّيْتٍ	مردہ زمین،
		خشک بخیر علاقہ، یا
		مردہ شہر
۳۲۷۶	الْبَلَدِ الطَّيِّبِ	اچھا شہر تمہری زمین
۳۲۷۷	نَبَاتٍ	کھیتی باڑی
۳۲۷۸	تَكِنًا	تھوڑی سی ناقص
		چلے
۳۲۷۹	بِرِّسَالٍ	پیغامات
		(واحد: برِّسَالَةٌ)
۳۲۸۰	اَنْصَحُ	نیر خواہی کرتا ہوں
		(نصیحت: مصدر)
۳۲۸۱	عَجَبْتُمْ	تعجب لگا تم کو
۳۲۸۲	قَوْمًا عِدِيًّا	قوم اندھی
		چلے
۳۲۸۳	عَادًا	قوم عاد،
		جسکی طرف حضرت
		ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا
۳۲۸۴	مَلَا	سردار

پارہ ۱۹

نمبر شمار عربی اُردو

۳۲۸۵	سَفَاهَةً	بے وقوفی
۳۲۸۶	نَفْنُنٌ	ہم کمان کرتے ہیں
۳۲۸۷	نَاصِحٌ	خیر خواہ
۳۲۸۸	زَادٌ	زیادہ کیا
۳۲۸۹	بِضْطَّةٍ	پھیلاؤ، شادگی
۳۲۹۰	الْاَلَمِ	نعتیں، اسان
۳۲۹۱	وَقِعٌ	واقع ہوا
۳۲۹۲	بِرَّجَسٍ	غلاب
۳۲۹۳	اَسْمَاءٍ	نام (اسم: واحد)
۳۲۹۴	مَسْتَهْمُونَ	نادھریاے تم نے
		دمصدر: تَسْتَهْمُونَ
۳۲۹۵	اَبْرٌ	چڑھ
		چلے
۳۲۹۶	ثَمُودٌ	قوم ثمود، جسکی طرف
		حضرت صالحؑ کو
		بھیجا گیا
۳۲۹۷	نَاقَتًا	اونٹنی
۳۲۹۸	تَأْكُلُ	کھاتے وہ
۳۲۹۹	لَوَا	جگہ دی
۳۳۰۰	مُهْمُولٌ	نرم، نرم زمین،
		سہولت

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

۳۳۰۱	قُصُورٍ	محل (قَصْر: واحد)
۳۳۰۲	تَمَجُّونَ	تراش لیتے ہو
۳۳۰۳	جِبَالٍ	پہاڑ
		(جَبَل: پہاڑ)
۳۳۰۴	يُبُوتُ	گھر دہکتا: واحد)
۳۳۰۵	لَا تَعْتَدُوا	مت نافرمانی کرو
۳۳۰۶	اَسْتَضْعِفُوا	مذکور رکھے گئے
۳۳۰۷	مُرْسَلًا	بھیجا گیا
۳۳۰۸	عَقْرًا	کاٹ دیا انھوں نے
۳۳۰۹	عَدُوًّا	حد سے نکل گئے
۳۳۱۰	اَنْكَبَاتٍ	لے آہمارے پاس
۳۳۱۱	يَعِدُ	تو وعدہ کرتا ہے
۳۳۱۲	مُرْسَلِينَ	بھیجے گئے پیغمبر
۳۳۱۳	رَجْفَةً	زلزلہ
۳۳۱۴	جُنُودِينَ	اندھ گئے ہوتے
		زانو کے بل
۳۳۱۵	تَوْنِي	منہ پھیرا اُس نے
۳۳۱۶	تَأْوِنٌ	کرتے ہو
		(آتے ہو)
۳۳۱۷	مَاسَبِقٍ	نہیں پہلے کیا
۳۳۱۸	مِنْ اَخْلٍ	کسی نے بھی

پارہ زندہ

نمبر شمار عربی اُردو

۳۳۱۹۔ اُنْكَاسٌ لَوْكٍ
۳۳۲۰۔ يَتَطَهَّرُونَ پاك رہنا چاہتے
ہیں۔
۳۳۲۱۔ غَيْرِ يَوْمٍ پیچھے رہ جائیوے
۳۳۲۲۔ اَمَطْرُكَا برسایا ہم نے
۳۳۲۳۔ مَطْرًا برسانا
(دبارش)

۳۳۲۴۔ مَدِينٍ وَه عِلَاقَةٍ
جہاں حضرت شعيبؑ

کو بھیجا گیا

۳۳۲۵۔ لَا تَبْتَغُوا مَتْلَمَ كَرُو

۳۳۲۶۔ اَشْيَاءَ چيزیں

۳۳۲۷۔ لَا تَقْعُدُوا مَتْلَمَ يَطْفُو

۳۳۲۸۔ تُوْنَعِلُ ذُنْ وَعَدَه ديتے ہو،
ڈراتے ہو۔

دھکی ديتے ہو۔

۳۳۲۹۔ فَضْلُ ذُنْ رَوَكْتَهُ هُو

۳۳۳۰۔ كَثْرٌ بہت کر دیا

تعداد بڑھادی

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ زندہ

۳۳۳۱۔ لَتَعْرُؤُنَّ البتہ پلٹ آؤ گے

۳۳۳۲۔ كُرْ هَيْئِنَ ناپسند کرئیوے

۳۳۳۳۔ اَمَّا كَرِيْمًا باندھ لیا ہم نے

۳۳۳۴۔ عَلَنَّا ہم پلٹ آئے

۳۳۳۵۔ لَتَعْرُؤُنَّ ہمیں بسے تھے

۳۳۳۶۔ اَسْمَىٰ عِلْمَ كَرُوں میں،
انسوس کروں میں

خوب ہو گئے،

۳۳۳۷۔ عَفْوًا بڑھ گئے۔

۳۳۳۸۔ اَوْنٌ مَطْمِنٌ ہو گئے

۳۳۳۹۔ نَاكِبُونَ سونے والے

۳۳۴۰۔ صَحْحِيٌّ دن چڑھے

۳۳۴۱۔ مَكْرٌ تدبیر

ثابت ہوں جم کر

۳۳۴۲۔ حَقِيْقٌ

پارہ زندہ

نمبر شمار عربی اُردو

۳۳۴۳۔ اَلْقَىٰ ڈال دیا

۳۳۴۴۔ تَعْبَانٌ اڑ دیا، بڑا سانپ

۳۳۴۵۔ نَزَعَ کھینچ نکالا

۳۳۴۶۔ بَيْضَاءُ سفید، چمکتا ہوا

۳۳۴۷۔ كَيْسًا کیا؟

۳۳۴۸۔ اَنْجَاهُ ڈھیل دے

۳۳۴۹۔ مَدِينٍ شہر

۳۳۵۰۔ حَشْرِيْنَ اگھٹا کرئیوے

۳۳۵۱۔ سَجْرٌ جادوگر

۳۳۵۲۔ عَلِيمٌ جاننے والا

۳۳۵۳۔ مَسْحَرَةٌ جادوگر لوگ

۳۳۵۴۔ اِمَّا خواہ، یا

۳۳۵۵۔ اَنْ كہ

۳۳۵۶۔ تَلْقَىٰ ڈالتا ہے تو

۳۳۵۷۔ مُتَلَقِّينَ ڈالتے والے

۳۳۵۸۔ اَلْقُوْا ڈالو تم

۳۳۵۹۔ مَسْحُوْرًا جادو کر دیا انھوں نے

۳۳۶۰۔ اَعْيُنٌ آنکھیں

۳۳۶۱۔ اِسْتَوْهَبُوْا ڈرا دیا انھوں نے

سورة الاعراف

نمبر شمار عربی اُردو

۳۳۶۲۔ جَاہِلُوْنَ اے آئے

۳۳۶۳۔ اَلْقَىٰ ڈال دے تو

۳۳۶۴۔ تَلْقَفٌ ننگلے لگا

۳۳۶۵۔ يٰۤاٰذْكُوْنَ بنایا تھا انھوں نے

۳۳۶۶۔ اَطْلَ جھوٹ ثابت ہوا

۳۳۶۷۔ غَلِيْبُوْا مغلوب ہو گئے،
ہار گئے

۳۳۶۸۔ هٰذَا لَكَ اس جگہ

۳۳۶۹۔ اَلْقَىٰ ڈالے گئے

۳۳۷۰۔ اٰذُنٌ میں اجازت دوں

حکم دوں

۳۳۷۱۔ اَقْطَعْنَ كَاثَ ذٰلِوْلِ كَاغْرُوْد

۳۳۷۲۔ اَصْلَبِيْنَ سولی دوں گا

۳۳۷۳۔ مُنْقَلِبُونَ پلٹ کر جائیوے

۳۳۷۴۔ تَنْهَعُ عِيْبَ جانا تو نے

دن ق م،
ڈال دے

۳۳۷۵۔ اَفْرَعٌ چھوڑتا ہے تو

۳۳۷۶۔ نَقَاتِلُ ہم قتل کریں گے

۳۳۷۷۔ نَسْتَنْجِيْ ہم زندہ چھوڑیں گے

پارہ نمبر ۳۹

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۳۷۹۔ تَاہِرُونَ ہر طرح کا زور رکھنے والے
 ۳۳۸۰۔ اُوْدِيْنَا ستائے گئے ہم
 ۳۳۸۱۔ سِنِيْنَ قحط سالی
 ۳۳۸۲۔ نَقِصْ نقصان
 ۳۳۸۳۔ لَنَا هَلِيْۙ ہمارے لئے تو ہونا
 ہی چاہیئے۔
 ۳۳۸۴۔ يَطِيْرُوْنَ نوحست بتائی،
 بدشگون لیا
 ۳۳۸۵۔ طِيْرٌ بدشگون، نوحست
 ۳۳۸۶۔ مَهْلِكًا کیسی بھی، کچھ بھی
 ۳۳۸۷۔ جُرَادٌ بڑیاں
 ۳۳۸۸۔ قَبِيْلٌ گھن کا کیرٹا
 ۳۳۸۹۔ صَفَاوَعٌ مینڈک
 ۳۳۹۰۔ رَجَزٌ عذاب
 ۳۳۹۱۔ كَشَفٌ کھول دینا، دُور کر دینا
 ۳۳۹۲۔ بَلُوْعًا پینچنے والے
 ۳۳۹۳۔ يَنْكَبُوْنَ عہد شکنی کرتے تھے وہ
 ۳۳۹۴۔ يَمٌ سمندر،
 دریا۔
 ۳۳۹۵۔ مَسَارِقٌ مشرقی جانب

پارہ نمبر ۳۸

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۳۹۶۔ مَخَارِبٌ مغرب مغربی جانب
 ۳۳۹۷۔ دَهْرًا ہلاک کر دیا ہم نے
 ۳۳۹۸۔ يَعْشَوْنَ ادنیٰ عمارت بناتے
 تھے۔
 الربیع
 ۳۳۹۹۔ جَادِرًا پار کر دیا ہم نے
 ۳۴۰۰۔ يَكْفُوْنَ بیٹھے تھے جم کر
 ۳۴۰۱۔ مُتَبَدِّئًا تباہ ہونے والا
 ۳۴۰۲۔ ثَلَاثِيْنَ تیس
 ۳۴۰۳۔ مِثَقَاتٌ وقت کا تقریر،
 معین وقت
 ۳۴۰۴۔ اَنْ يَّعِيْنَ چالیس
 ۳۴۰۵۔ اِخْلُقْنِيْ غلیقہ یا جان نشین
 ہو رہنا میرا
 ۳۴۰۶۔ اَصْلِحْ اصلاح رکھنا
 ۳۴۰۷۔ اَرَبِيْ دیکھا مجھے
 ۳۴۰۸۔ لَنْ تَرَانِيْ ہرگز نہیں دیکھ سکے گا
 تو مجھ کو۔
 ۳۴۰۹۔ تَجَلِيْ تجلی کی

پارہ نمبر ۳۷

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۴۱۰۔ دَكَا ریزہ ریزہ
 ۳۴۱۱۔ نَحْرًا گر پڑا
 ۳۴۱۲۔ صَعِقًا بے ہوش ہو کر
 ۳۴۱۳۔ اَفْأَقٌ ہوش میں آیا
 ۳۴۱۴۔ اَلْوَاخُ تختیاں
 (لَوْحٌ : واحد)
 ۳۴۱۵۔ اُوْصْرِيْ دیکھاؤں گا میں
 ۳۴۱۶۔ اَصْرَفٌ دُور بھینک دُور گا
 میں (پھیر دے گا میں)
 ۳۴۱۷۔ رُشْدًا بھلائی
 ۳۴۱۸۔ غِيْبِيْ سرکش
 ۳۴۱۹۔ حُلِيٌّ زیورات
 ۳۴۲۰۔ جَسَدًا بدن، جسم
 ۳۴۲۱۔ اَخْوَارٌ آواز
 ۳۴۲۲۔ سَقَطٌ ٹوٹ کر گر گیا یا گرایا
 گیا۔
 ۳۴۲۳۔ غَضْبَانٌ غصہ میں بھرا ہوا
 ۳۴۲۴۔ اِسْفَا رنجیدہ، افسوس
 کرتا ہوا۔
 ۳۴۲۵۔ يَجْرُ كَيْفِيْنَ کچھنچ رہا تھا

سورۃ الاعراف (۷۰)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۴۲۶۔ اِبْنُ اُمِّ بَيْطِيْ مَاں کے،
 یعنی بھائی
 ۳۴۲۷۔ لَا تَقْتُمُوْا مَتَّ خورش کر
 ۳۴۲۸۔ سَكَّتْ ٹھنڈا ہوا غصہ،
 خاموش ہوا۔
 ۳۴۲۹۔ فُتِحَتْ لَكَاوَتْ لکھاوٹ
 ۳۴۳۰۔ يَرْكَبُوْنَ دُور رکھتے ہیں
 ۳۴۳۱۔ اِحْتَاكِرُ چن لیا، منتخب کر لیا
 (مصدر: اِحْتِيَآءٌ)
 ۳۴۳۲۔ سَبْعِيْنَ ستر
 ۳۴۳۳۔ اِنْيَايٌ مجھ کو بھی
 ۳۴۳۴۔ فَنَنْتَشِكُ تیری آزمائش،
 یا امتحان تیری طرف
 ۳۴۳۵۔ خَيْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ سب سے اچھا کھٹنے
 والوں میں سے
 ۳۴۳۶۔ هُنَّ رَاہ پر طوسی ہم نے
 ۳۴۳۷۔ اَصْبِيْبٌ ڈال دیتا ہوں میں
 ۳۴۳۸۔ اَسْءَا چاہتا ہوں میں
 ۳۴۳۹۔ اَفْحٰی بے پڑھا
 ۳۴۴۰۔ مَكْنُوْبًا لکھا ہوا

بازۃ اللغات

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۳۲۳۱۔ یَضَعُ	اُتار دیتا ہے
۳۲۳۲۔ اِصْرٌ	بوجھ
۳۲۳۳۔ اَفْلاکٌ	طوق
۳۲۳۴۔ عَزْرٌ	توت دینا، ساتھ دینا۔
۳۲۳۵۔ اِنْتَنَا عَشْرٌ بَارَةً	بچ
۳۲۳۶۔ اَسْبَاطًا	بڑی بڑی جماعتیں، ٹولیاں۔
۳۲۳۷۔ اِنْبِجَسَتْ	پھوٹ نکلے
۳۲۳۸۔ عَيْدًا	چشم، پانی کے سوت
۳۲۳۹۔ حَيْثَانٌ	پھلیاں
۳۲۴۰۔ شَرْمًا	دخوت، واحد، ظاہر
النصف	
۳۲۴۱۔ نَعَطُونَ	نصیحت کرتے ہو
۳۲۴۲۔ مَعْدِنَةٌ	عذریاں کرنا
۳۲۴۳۔ بَيْبِيسٌ	بُرا، خراب

بازۃ اللغات

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۳۲۴۴۔ عَنَوًا	سرکشی کی
۳۲۴۵۔ نَهْوًا	منع کئے گئے
۳۲۴۶۔ بَلَوْنَا	آزمایا ہم نے
۳۲۴۷۔ خَلَفٌ	جانشین ہونے
۳۲۴۸۔ خَلَفٌ	جانشین
۳۲۴۹۔ وِرْثَةٌ	وارث ہونے
۳۲۵۰۔ يَأْخُذُ ذِي	لیتے ہیں
۳۲۵۱۔ عَوْضٌ	مال و متاع، اسباب۔
۳۲۵۲۔ دَسُوًا	پڑھا انہوں نے
۳۲۵۳۔ مُمْسِكُونَ	مضبوط رکھتے ہیں
۳۲۵۴۔ نَتَقْنَا	اُٹھایا ہم نے، معلق کر دیا۔
۳۲۵۵۔ ظُلَّةٌ	چھتری، سائبان
۳۲۵۶۔ وَاِقَعٌ	گرنے والا
۳۲۵۷۔ اَلْسُنٌ	گیا نہیں ہوں میں
۳۲۵۸۔ اَشْرَاكٌ	شرک کیا
۳۲۵۹۔ مُبْطِلُونَ	جھوٹے لوگ، باطل پرست
۳۲۶۰۔ اِنْسَلَجٌ	نکل بھاگا

بازۃ اللغات

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۳۲۸۷۔ هَادِيٌ	ہدایت دینے والا
۳۲۸۸۔ اَيَّانٌ	کب
۳۲۸۹۔ مَرْنَهًا	اُس کا ٹھہرنا
۳۲۹۰۔ لَا يُجَلِّي	نہیں ظاہر کرے گا
۳۲۹۱۔ نَقَلْتُ	بھاری ہو گئی
۳۲۹۲۔ بَعَثَةٌ	اچانک
۳۲۹۳۔ كَأَنَّكَ	جیسے کہ تو، گویا کہ تو۔
۳۲۹۴۔ حَفِيٌّ	ٹوہ لگانے والا، تلاش کرنے والا۔
۳۲۹۵۔ لَا اَمْلِكُ	نہیں اختیار رکھتا میں
۳۲۹۶۔ لِنَفْسِي	لئے میری جان کے
۳۲۹۷۔ لَوْ كُنْتُ	اگر ہوتا میں
۳۲۹۸۔ اَعْلَمُ الْغَيْبِ	جاننا میں غیب کو
۳۲۹۹۔ اَسْكَتَتْ	بہت جمع کر لیتا میں
۳۳۰۰۔ يَشْكُنُ	تا کہ کون حاصل کرے
۳۳۰۱۔ تَعَشَّى	ڈھانک لیا، چھا گیا
۳۳۰۲۔ حَكَلْتُ	اُٹھالیا
۳۳۰۳۔ حَمَلٌ	بوجھ، حمل
۳۳۰۴۔ حَفِيْفًا	ہلکا
۳۳۰۱۔ اُنْبَجِعُ	پھیلے گا
۳۳۰۲۔ غَوِيْنٌ	گمراہ
۳۳۰۳۔ اَخْلَدٌ	لگ کر چپک کر بیٹھ گیا
۳۳۰۴۔ كَلْبٌ	کتا
۳۳۰۵۔ تَخْبِلُ	لا دے تو
۳۳۰۶۔ يَلْهَثُ	زبان لٹکانے گا، ہانپنے گا
۳۳۰۷۔ مَهْتَدِيٌّ	ہدایت پانے والا
۳۳۰۸۔ ذُرٌّ اَنَا	چھوڑے ہم نے
۳۳۰۹۔ اَصْلٌ	بہت پہلے ہوئے
۳۳۱۰۔ حُسْنِيٌّ	اچھے اچھے
۳۳۱۱۔ اُحْلِيٌّ	ڈھیل ڈوں گا میں
۳۳۱۲۔ كَيْدٌ	تدبیر
۳۳۱۳۔ مَبِيْنٌ	مضبوط
۳۳۱۴۔ حِنَةٌ	جنون
۳۳۱۵۔ اَقْرَبٌ	قرب آگیا
۳۳۱۶۔ اَتَى حَدِيْثٌ	کوسی بات

سُورَةُ الْاِنْفَالِ (۸)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۵۲۲. اجْتَنِبَتْ كَيْفَ لَا يَأْتُوا
 ۳۵۲۳. قُرْبَىٰ يَرْجَاهُ
 ۳۵۲۴. اسْتَمْعُوا دِهْيَانَ لَكَا كَرْسُو
 ۳۵۲۵. اَنْصَتُوا حُبُّ يَوْجَاوُ
 ۳۵۲۶. دُونَ الْجَهْرِ كَمَا وَاَرْسِ
 ۳۵۲۷. غَدًا وَ صَبْحُ كُو
 ۳۵۲۸. اَصَالُ شَامِ

الثَلَاثَةُ

الْاِنْفَالِ (۸) سُورَةُ

۳۵۲۹. اَنْفَالِ مَالِ غَنِيْمَتِ
 ۳۵۳۰. ذَاتِ بَيْنِكُمْ مَعَالَا اَيْسَ كَيْ تَهَارُ
 ۳۵۳۱. وَجَلَبَتْ دِلَّ جَالَتْ هِي،
 گھرا جاتے ہیں۔
 ۳۵۳۲. كَمَا هَيْسَ كَيْ تَهِي
 ۳۵۳۳. يَجَادُوْنَ مَحْتِ كَرِيْشِ جَدَالِ كَرِ
 ۳۵۳۴. تَبِيْنَ ظَاهِرِ يَوْكِيَا
 ۳۵۳۵. كَانَمَا هَيْسَ كَيْ جِيْ طَرِحِ

سُورَةُ الْاِنْفَالِ (۸)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۵۳۶. يُسَافِرُونَ بَانَكَةَ جَالَتْ هِي
 ۳۵۳۷. اِحْدَىٰ كُوْنَىٰ اَيْكُ
 ۳۵۳۸. اَنْهَافَا كَعْمَ كَهْ لَهْ تَهَارِ
 ۳۵۳۹. تُوْدُوْنَ تَمَّ جَابَتْ تَحْتِ دُوْدُ
 ۳۵۴۰. غَدًا سَوَا
 ۳۵۴۱. ذَاتِ الشُّوْكَهْ شَوْتِ وَالِي تَهْيَارِ
 والی۔
 ۳۵۴۲. حَقَّ ثَابِتِ كَرْسِ كَا
 ۳۵۴۳. يَبْطِلُ بَاطِلِ كَرْسِ كَا
 ۳۵۴۴. تَشْتَعِنْتُونَ تَمَّ فَرِيَادِ كَرْسِ تَحْتِ
 ۳۵۴۵. مُمِيْدًا مَدْرُ كَرْسِ وَالِي
 ۳۵۴۶. مَزْدُوْبِيْنَ سِلْسِلَهْ وَاَرْجَلِ اَنْتِ
 والے۔
 ۳۵۴۷. نَعَاسٌ اَوْ نَعْمٌ
 ۳۵۴۸. يَزِدُّ بَانْدَهْ دَسِ
 مضبوط کر دے
 ۳۵۴۹. اَعْتَانِ كَرْسِ
 (جمع، عنق کی،
 مہوڑ پر
 ۳۵۵۰. كَلَّ بِنَاكِنِ مَخَالَفَتِ كِي اَنْهَوْنَ
 ۳۵۵۱. شَاوُوْنَ مَخَالَفَتِ كِي اَنْهَوْنَ
 اُچک لے جاتے

سُورَةُ الْاِنْفَالِ (۸)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۵۵۲. مَدَّ مَقَابِلِ
 ۳۵۵۳. مَتَحْرَسًا پَنِيْرَ اَبْرِنِ وَالِي
 ۳۵۵۴. مُمْتَحِنًا جَلَّ بَرْنِ وَالِي
 (لڑائی کے وقت)
 ۳۵۵۵. مَرَّ مَيْتٌ پھینکا تو نے
 ۳۵۵۶. مَرَّحَىٰ پھینکا اس نے
 ۳۵۵۷. مَبْتَلِيَّ اَرْمَاشِ كَرْسِ
 ۳۵۵۸. بَلَاءٌ اَرْمَاشِ
 ۳۵۵۹. مَوْهِنٌ كَمْرُ وَاَرْسِ وَالِي
 ۳۵۶۰. تَعْوُذًا تَمَّ بَهْرِ كَرْسِ
 ۳۵۶۱. نَعْلٌ ہم پھر کریں گے
 ۳۵۶۲. اَلَا تَوَلَّوْا مَتَّ پھرو،
 مَتَّ اَلُوْا۔
 ۳۵۶۳. سَرَّ اَلَّ ذَاتِ بَدْرِيْنَ مَخْلُوْقِ
 (جانور)
 ۳۵۶۴. اسْتَمْعِبُوا قَبُولِ كَرْسِ
 ۳۵۶۵. يَحْوُلُ حَاتِلِ ہوتا ہے،
 اُڑ بستا ہے۔
 ۳۵۶۶. حَاصَّتْ خَاصَّتْ
 ۳۵۶۷. يَنْخَلِفُ اُچک لے جاتے

پارہ نمبر ۷۹

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۵۹۸۔ اُدَى جگدی
 ۳۵۹۹۔ لَا تَخُونُوا مت خیانت کرو
 ۳۵۹۰۔ يَتَّبِعُوا قید کریں
 د ث ب ت
 ۳۵۹۱۔ اَفْطَرُ برسا دے تو
 ۳۵۹۲۔ اَوْلِيَاءُ والی
 ر ج بے ذی کی
 ۳۵۹۳۔ مَكَاءُ سینی بجانا
 ۳۵۹۴۔ تَهْدِيهِ تالیاں بجانا
 ۳۵۹۵۔ يُعِيدُ جُدا کر دے گا
 ۳۵۹۶۔ يُوَدِّعُ اُکھا کر دے گا
 ۳۵۹۷۔ اَنْ يَنْتَهُوا اگر باز آجائیں
 ۳۵۹۸۔ سَلَفٌ ہو چکا، سو ہو چکا۔
 ۳۵۹۹۔ يُوَدِّدُوا پھر کریں گے
 ۳۵۸۰۔ مَضَتْ ہو گدڑی
 ۳۵۸۱۔ مَوْلَى دوست

سُورَةُ الْاَنْفَالِ (۸)

نمبر شمار عربی اردو

پارہ نمبر ۸۰

۳۵۸۱۔ اَعْلَمُوا جان لو، سمجھو
 ۳۵۸۲۔ غَنِيْتُمْ مال نہمت لیا تم نے
 ۳۵۸۳۔ خُمْسُ پانچواں حصہ
 ۳۵۸۴۔ عُدُوَّةَ النَّبِیِّا کُنارے اس پار
 ۳۵۸۵۔ عَن دَاةِ الْفُجُوْرِ کُنارے اس پار
 ۳۵۸۶۔ الرِّكْبُ سوار
 ۳۵۸۷۔ اَسْفَلَ نیچے
 ۳۵۸۸۔ قَوَاعِلُ تَمَّ وعارہ مقرر کرتے تم
 ۳۵۸۹۔ مَنَامِكُمْ تیسکے خواب میں
 ۳۵۹۰۔ فَبَثَلْتُمْ شستی کرتے تم
 د ف س ل
 ۳۵۹۱۔ سَلَمُوا سلامت رکھا، محفوظ رکھا
 ۳۵۹۲۔ يُقْبَلُ تھوڑا دکھا یا
 د ق ب ل سے

پارہ نمبر ۷۹

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۵۹۳۔ تَلَّ هَبٌ جاتی رہے گی
 ۳۵۹۴۔ بِرِیْحِكُمْ ہوا تمہاری
 ۳۵۹۵۔ بَطْرًا اتر کر (بطرہ)
 اترانا: شیخی بتانا
 ۳۵۹۶۔ جَاؤُا پڑوسی
 ۳۵۹۷۔ نَكَّصٌ پھر گیا
 ۳۵۹۸۔ حَرِیْقٌ جلنے کا، تیز جلن
 ۳۵۹۹۔ ظُلْمًا ظلم کرنے والا
 ۳۶۰۰۔ ذَابٌ عادت
 ۳۶۰۱۔ لَمْ يَكُ نہیں ہے وہ
 ۳۶۰۲۔ مُعَيَّرًا بدلنے والا
 ۳۶۰۳۔ كُلُّ مَرَّةٍ ہر مرتبہ
 ۳۶۰۴۔ تَتَّقَنُ تو چھا جائے ان پر، غالب آجائے
 ۳۶۰۵۔ حَزْبٌ لڑائی
 ۳۶۰۶۔ شَرِدٌ بھگا دے، منتشر
 کر ڈال
 ۳۶۰۷۔ تَخَافُنَّ خوف کرے تو اذلیتہ
 کرے
 ۳۶۰۸۔ اَسْبَنُ پھینک دے تو

سُورَةُ الْاَنْفَالِ (۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۶۰۹۔ رِبَاطِ الْمُنَیْبِلِ بندھے ہوئے گھوڑے
 ۳۶۱۰۔ تَزْهِيْبُونَ ڈرائے رکھو
 ۳۶۱۱۔ جَمْعًا جھک جائیں وہ
 (ج ن ح)
 ۳۶۱۲۔ اَلْفَتَّ ذالری
 ۳۶۱۳۔ حَرَضٌ رغبت دلا
 ۳۶۱۴۔ عَشْرُونَ بیس
 ۳۶۱۵۔ يَغْلِبُونَ غالب آئیں گے
 ۳۶۱۶۔ مَابِئْتَيْنِ دو نمود (مثنیہ)
 ۳۶۱۷۔ مائة ایک سو
 ۳۶۱۸۔ اَلْفًا ایک ہزار
 اب
 ۳۶۱۹۔ اَللِّبْنُ تخفیف کردی
 ۳۶۲۰۔ خَفَّفَ
 کمزوری
 ۳۶۲۱۔ صَعْفًا
 ۳۶۲۲۔ اَلْقَائِنِ دو ہزار
 ۳۶۲۳۔ اَسْرَى قیدی
 دواحد: اَسْبِزْجُ
 ۳۶۲۴۔ يَنْبَحْنُ خونریزی کرے
 ۳۶۲۵۔ كَوْلًا اگر نہ ہوتا

پارہ نمبر ۱۷۳

نمبر شمار عربی اُردو

۳۶۲۶۔ سَبَقُ پہلے سے ہو چکا

۳۶۲۷۔ اَمَكَنَّ قاب میں دیا اُس نے

۳۶۲۸۔ اَوْوَا جگہ دی انہوں نے

۳۶۲۹۔ وَاَلَايَتُ تعلق، ذمہ داری

۳۶۳۰۔ اِسْتَنْصَرُوا مدد چاہیں وہ

۳۶۳۱۔ اُولُو الْأَرْحَامِ قرابت والے،

رشتے دار

۳۶۳۲۔ اَزَلَى زیادہ حق دار

الرَّبِيعُ

التَّوْبَةُ سُورَةٌ

۳۶۳۳۔ بَرَاءَةٌ بیزاری کا اعلان

۳۶۳۴۔ سَبَّحُوا چل پھرو

(مصدر: سِيَاخَةٌ)

۳۶۳۵۔ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ چار ماہ

۳۶۳۶۔ غَيْرُ مُعْجِزٍ جِنِّي نہیں عاجز کر سکتے

سُورَةُ التَّوْبَةِ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۶۳۷۔ مَحْزَنِي رسوا کرنے والا

۳۶۳۸۔ اِذَا اُنْ اعلان

۳۶۳۹۔ لَمْ يَنْقُصُوا نہ توڑا ہو،

تراب نہ کیا ہو

(د ن ق ص)

۳۶۴۰۔ اِسْتَلَخَ نکل جاتے

۳۶۴۱۔ اَشْهَرُ الْحُرِّ م محرم مہینے

۳۶۴۲۔ اُخْصِرُوا گھبرو

۳۶۴۳۔ اَفْعَلُوا بیٹھو

۳۶۴۴۔ مَرَّضِدْ داؤ کھات کی جگہ

۳۶۴۵۔ خَلُّوا چھوڑ دو، خالی کرو

۳۶۴۶۔ اَحَلُّ كَوْنِي کوئی

۳۶۴۷۔ اِسْتِجَارَكَ پناہ مانگی اُس نے

تجھ سے۔

۳۶۴۸۔ اَجْرٌ پناہ دے تو

۳۶۴۹۔ مَا اَمِنَ جائے امن

۳۶۵۰۔ يَنْظُرُوا غالب اٹھائیں وہ

۳۶۵۱۔ لَا يَرْتَابُوا نہیں محاذ کریں گے

(د س ق ب)

۳۶۵۲۔ اِلَّا قرابت کا پاس

پارہ نمبر ۱۷۲

نمبر شمار عربی اُردو

۳۶۵۳۔ ذَمَّتْ عہد کی ذمہ داری

۳۶۵۴۔ تَأْتِي انکار کیا، مانا نہیں

۳۶۵۵۔ نَكَثُوا توڑ دیا

(د ن ك ث)

۳۶۵۶۔ اِسْتَبْرَأَ سردار، پیشوا

(واحد: اِمْرًا)

۳۶۵۷۔ هَمُّوا ارادہ کیا

۳۶۵۸۔ اَحَقُّ بہت حق دار

۳۶۵۹۔ يَشْفِ شفا دے گا

۳۶۶۰۔ غَنَظٌ غصہ

۳۶۶۱۔ تَنَزَّلُوا چھوڑ دے جاؤ گے

۳۶۶۲۔ وَ لِيَجْزِيَ دہی دوست، بھیدی

۳۶۶۳۔ مَا كَانَ نہیں ہے لائق

۳۶۶۴۔ يَعْجُرُوا آباد کریں

(ع م ص)

۳۶۶۵۔ سَقَايَةَ الْحَاجِّ پانی پلانا حاجیوں کو

۳۶۶۶۔ عِمَارَةً خدمت کرنا،

آباد کرنا

۳۶۶۷۔ لَا يَسْتَوُونَ نہیں برابر ہو سکتے

۳۶۶۸۔ اَعْظَمُ بہت بڑا

سُورَةُ التَّوْبَةِ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۶۶۹۔ فَارْتَدُّونَ کامیاب ہوئے والے

۳۶۷۰۔ نِعْمَةٌ مُّقْتَصِفَةٌ نعمت والا مقام

۳۶۷۱۔ اِسْتَحْبَبُوا محبت بتائیں وہ

۳۶۷۲۔ عَشِيْرَةٌ كَنِبَہ، قبیلہ

۳۶۷۳۔ اِقْدَرَفَ کمانا

۳۶۷۴۔ كَسَادٌ مندی، کساد بازاری

۳۶۷۵۔ مَسْكَنٌ مکانات

(مَسْكَنٌ كِي جَمْع)

۳۶۷۶۔ اَحَبُّ زیادہ پسند، محبوب

۳۶۷۷۔ تَرَ يَنْظُرُوا انتظار کرو

۳۶۷۸۔ مَوَاطِنُ مواقع، جگہ

۳۶۷۹۔ حُنَيْنٌ مکہ اور طائف کے

درمیان ایک مقام کا

نام جہاں ۸ھ میں

جنگ ہوئی تھی۔

۳۶۸۰۔ ضَاكَتْ تنگ ہو گئی

۳۶۸۱۔ رَحْبَتْ كشادہ تھی

۳۶۸۲۔ مُلَى بِرَبِيْعٍ پیٹھ پھرنے والے

۳۶۸۳۔ سَكَبَتْ تَسْلِي

۳۶۸۴۔ جُنُودًا لشکر

پارہ نمبر (۱۰)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۶۸۵۔ نَجَسٌ ناپاک
۳۶۸۶۔ عَامٌ برس سال
۳۶۸۷۔ عَيْكَةٌ معاشی بد حالی،
تجارتی نقصان
۳۶۸۸۔ جَزِيَّةٌ جزیہ:
ایک خاص رقم جو
خلافتِ علی منہاج
النبوت میں غیر مسلم
شہریوں سے سالانہ
وصول کی جاتی ہے
اس محصول کے بعد
ملکی سرحدوں کی
حفاظت اور فوجی
خدمات میں انھیں
اور کچھ نہ کرنا پڑیگا
۳۶۸۹۔ عَن يَدٍ اپنے ہاتھ سے
۳۶۹۰۔ صَاعِرُونَ ذلیل، چھوٹے
۳۶۹۱۔ يُضَاهَوْنَ وہ نقل کرتے ہیں،
یا ریس کرتے ہیں،
کسی کی بات کی طرح

سورۃ التوبہ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو

خود بھی سر ملا کر بات
کرنا۔
۳۶۹۲۔ اُخْبَارٌ علمائے
۳۶۹۳۔ رُهْبَانٌ درویش
۳۶۹۴۔ يُطْفِئُونَ بجھانا چاہتے ہیں
(مصدر: اطفأ)
۳۶۹۵۔ يَأْتِي نہیں قبول کرے گا،
مانے گا نہیں
۳۶۹۶۔ يُظْمِرُ غالب کر دے گا
النصف
۳۶۹۷۔ يَكْفُرُونَ جمع کرتے ہیں
(ك ن ن)
۳۶۹۸۔ ذَهَبٌ سونا
۳۶۹۹۔ فِضَّةٌ چاندی
۳۷۰۰۔ يُحْبِئِي تپایا جائے گا
۳۷۰۱۔ تُكْوَى داغ دیا جائے گا
۳۷۰۲۔ حِبَاكُ پیشانیاں، ماتھے
(واحد: حَبْهَةٌ)
۳۷۰۳۔ جُنُوبٌ کروٹیں
(ج ن ب): واحد)

پارہ نمبر (۱۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۷۰۴۔ كَذِبٌ خزانہ جمع کرنا
۳۷۰۵۔ عَلَا گنتی
۳۷۰۶۔ اَمْرٌ بَعْدَ چارہ
۳۷۰۷۔ حُرْمٌ محرم جیسے ذیقعد،
ذی الحجہ، محرم اور
رجب ان چار ماہوں
میں حج کے ادب
کے سبب جنگ کرنا
منع ہے۔
۳۷۰۸۔ كَافِرٌ کافر
۳۷۰۹۔ اَلْسِسِيُّ مہینوں کی گنتی آگے
پہچھے کرنا۔
۳۷۱۰۔ يُوَاطَّئُونَ موافقت کریں
۳۷۱۱۔ اِنْفِرُوا نکلو
۳۷۱۲۔ اِنَّا قَلْبُنَا بوجہ ہو جائے تو تم
(ث ق ل)
۳۷۱۳۔ ثَانِي اثنین، دوسرا دو میں کا
۳۷۱۴۔ سُفْلِي نیچے
۳۷۱۵۔ عَلِيًّا اونچی
۳۷۱۶۔ حَقًّا ناک، تھوڑے

سورۃ التوبہ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو

سامان کے ساتھ۔
۳۷۱۷۔ رَقَالًا بھاری بہت
سامان کے ساتھ
۳۷۱۸۔ عَرَضٌ اسباب، مال
۳۷۱۹۔ قَاصِدًا درمیانی، معمولی سا
ہلکا سا۔
۳۷۲۰۔ بُعِدَتْ دُورگی
۳۷۲۱۔ شَقَّتْ شققت والی راہ،
پہاڑ مسافت
۳۷۲۲۔ اِذْنَتْ اجازت دی تو نے
۳۷۲۳۔ يَسْتَأْذِنُ اجازت مانگتا ہے
۳۷۲۴۔ اِرْتَابٌ شک میں پڑ گئے
۳۷۲۵۔ يَتَرَدَّدُونَ متردہ ہوتے، شک
میں پڑ گئے۔
۳۷۲۶۔ حُرُوجٌ نکلنا
۳۷۲۷۔ اَعْلُوًا تیار کرتے وہ
۳۷۲۸۔ عَلَا سامان تیار کرنا
۳۷۲۹۔ اُنْبِعَاتٌ اٹھنا، کھڑا کرنا
۳۷۳۰۔ حَبَاكُ فساد، خرابی
۳۷۳۱۔ اَزْدٌ هَعُوًا البتہ دوڑاتے

بازہ نمبر ۲۱۰

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۷۳۲. سَمْعُونُ بھیدی، چھپ کر
 سننے والے۔
 ۲۷۳۳. خَلَلَكُمْ بِحَبْرٍ تمہارے
 ۲۷۳۴. قَلْبُوا اُنٹ پلٹ کیا اُنھوں
 ۲۷۳۵. اِسْدُنْ پروانگی دے،
 اجازت دے
 ۲۷۳۶. سَقَطُوا گر پڑے وہ
 ۲۷۳۷. تَسَوُّوا بُرَالِکَا
 ۲۷۳۸. فَرِحَ توش ہونا
 ۲۷۳۹. اِحْدَى ایک
 ۲۷۴۰. حُسْنِيَيْنِ دو بھلائیاں
 ۲۷۴۱. طَوْنًا توشی سے
 ۲۷۴۲. كَرَّهَا ناتوشی سے
 ۲۷۴۳. نَفَقَتْ خرج
 ۲۷۴۴. كَسَالِي کاپلی
 ۲۷۴۵. تَرَهَّقَ نکل جائے
 ۲۷۴۶. يَهْرُ تُونُ ڈرپوک
 (ڈرتے ہیں)
 ۲۷۴۷. مَلَجًا جاتے پناہ
 ۲۷۴۸. مَعَارَاتُ غَارِ (جمع)
 ۲۷۴۹. مَدَّ خَلًا گھس کر چھیننے کی جگہ

سورۃ التوبہ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۷۵۰. يَجْمَعُونَ سرکشی کرتے ہیں
 ۳۷۵۱. يَلْمِزُ عیب لگاتا ہے
 ۳۷۵۲. اَعْطُوا دتے جائیں
 ۳۷۵۳. يَسْخَطُونَ ناراض ہوتے ہیں
 ۳۷۵۴. حَسْبُنَا کافی ہیں ہم کو
 ۳۷۵۵. اَغْبُونَ رغبت کرنے والے
 ۳۷۵۶. غَمِيلِينَ دکارنٹان صدقا، کسی کی
 ذمہ داری پر کام کرنے والے
 ۳۷۵۷. هَوْلَةً الفت دلانا، یا دلائل لینے
 ۳۷۵۸. رِقَابِ گردن دچھڑانا
 ۳۷۵۹. غَارِمِينَ قرضدار
 ۳۷۶۰. اِبْنِ السَّبِيلِ راہ کا مسافر
 ۳۷۶۱. يُؤَدُّونَ ایزادیتے ہیں
 ۳۷۶۲. اُدْنُ بات سننے والا،
 کان رکھنے والا

الثلثة

۳۷۶۳. يُحَادِدُ مخالفت کرے گا
 ۳۷۶۴. حَوْضٍ بحث کرنا
 ۳۷۶۵. لَعِبٍ کھیلنا

بازہ نمبر ۲۱۱

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۷۶۶. اَلْاَعْدَاءُ مت عذر بیان کرو
 ۳۷۶۷. حَلَقٌ حصہ
 ۳۷۶۸. حُضْنُمْ تم چال چلے
 ۳۷۶۹. مَوْتِفَاتِ الثَّانِي ہونی بستیاں
 ۳۷۷۰. اَنْتَ آتے
 ۳۷۷۱. جَدَّتِ عَلِيٌّ باغات ہمیشہ کے
 ۳۷۷۲. اَعْلَظُ اسنخی کر
 ۳۷۷۳. نَعَمَ عیب جانتا
 ۳۷۷۴. بَيْفٌ ہوگا
 ۳۷۷۵. اَعْقَبَ لگا دیا
 ۳۷۷۶. اَخْلَفُوا خلاف کیا
 ۳۷۷۷. مَطْوِيَّيْنِ توشی سے گزینے والے
 ۳۷۷۸. جُهْدٌ محنت
 ۳۷۷۹. سَبْعِينَ رشتہ
 ۳۷۸۰. مُخْلَفُونَ پیچھے رہ جانے والے
 ۳۷۸۱. خَلْفٌ پیچھے
 ۳۷۸۲. مَفْعَدٌ پیچھنے پر
 ۳۷۸۳. حَرٌّ گرمی

سورۃ التوبہ (۹)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۳۷۸۴. يَصْحَكُوا ہنس لیں
 ۳۷۸۵. يَبْكُوا رونا پڑے گا
 ۳۷۸۶. خَالِفِينَ پیچھے رہ گئے پیٹھ
 جانے والے
 ۳۷۸۷. اُولُو الطُّولِ صاحب دولت
 ۳۷۸۸. خَوَالِفِ خانہ نشین عورتیں
 جو گھر کے لوگ باہر
 جانے پر پیچھے گھبریں
 ۳۷۸۹. مَعَلَّوْنَ عذر بیان کرتے والے
 ۳۷۹۰. اَعْرَابٍ دیہاتی لوگ
 ۳۷۹۱. نَصَبُوا خیر خواہی کی، خالص
 ہوتے۔
 ۳۷۹۲. اَحْبِلُ سواری دوں میں
 ۳۷۹۳. دَمَعٌ آنسو
 ۳۷۹۴. سَبِيلٌ راہ، قانونی چارہ
 جونی۔
 ۳۷۹۵. اَعْتَبَاءُ دولت مند

نمبر شمار عربی اردو

سورۃ یونس (۱۰)

- ۳۸۵۳۔ قَنَمٌ صَدَقَ قَدَمِ رَاسَتِي اُو ر
صداقت کا۔
۳۸۵۴۔ يَبِيْنٌ وَّ
پہلی بار پیدا کرتا ہے
۳۸۵۵۔ خَلَقَ
مخلوق، پیدائش
۳۸۵۶۔ يُعِيدُ
دوسری بار پیدا
کرتا ہے۔
۳۸۵۷۔ ضِيَاءٌ
چمکدار، روشنی
۳۸۵۸۔ قَدَّرَ
مقرر کر دی
۳۸۵۹۔ مَنَازِلَ
منزل (جمع)
۳۸۶۰۔ عُلْدٌ
گنتی
۳۸۶۱۔ سِنِينَ
برس، سال
۳۸۶۲۔ لَا يُرْجُونَ
نہیں امید رکھتے
۳۸۶۳۔ دَعَا
پکار، دُعا
۳۸۶۴۔ تَحِيَّاتٌ
ملاقات کی دُعا
۳۸۶۵۔ يُعْجَلُ
جلدی کرے

سورۃ یونس (۱۰)

- نمبر شمار عربی اردو
۳۸۶۶۔ اسْتَعْتَجَالَ جَلْدِي مَا نَلْنَا
۳۸۶۷۔ جَنَّبِيْهِ
کروٹ پر اس کی
۳۸۶۸۔ مَسْرُوْفِيْنَ
حد سے نکل جانوالے
۳۸۶۹۔ اَمَّتْ لِيْ
۳۸۷۰۔ غَيْرِ هٰذَا
سوا اس کے
۳۸۷۱۔ بَدَّلَ
بدل دے
۳۸۷۲۔ اَدْرِكُكُمْ
تمکو خیر دیتا
۳۸۷۳۔ لَبِثْتُ
رہا میں
۳۸۷۴۔ عُمُرًا
عمر کا ایک حصہ
۳۸۷۵۔ جَرَيْنَ
جاری ہوتی ہیں
۳۸۷۶۔ عَاصِفٌ
تیز آندھی
۳۸۷۷۔ يَنْبَغُونَ
بغاوت کرتے ہیں،
سرکشی کرتے ہیں۔
۳۸۷۸۔ نَبَاتٌ
رُوئیدگی
۳۸۷۹۔ مَرْحَرٌ
چمک دمک
۳۸۸۰۔ حَصِيْدًا
کٹی ہوئی
۳۸۸۱۔ لَا يَرِخُّ
نہیں جھانکی (دھوک)
۳۸۸۲۔ رَهَقَ
پھا جانا، پٹ جانا
۳۸۸۳۔ قَدَرُوْا
سیاہی
۳۸۸۴۔ عَاصِمٌ
بچانے والا

سورۃ یونس (۱۰)

- نمبر شمار عربی اردو
۳۸۸۵۔ اُعْتَبَيْتْ
اُٹھا دئے گئے،
۳۸۸۶۔ قَطَعًا
پٹ دئے گئے
۳۸۸۷۔ قَطَعًا
پرت (واحد: قَطْعَةٌ)
۳۸۸۸۔ مَطْلَمًا
اندھیری
۳۸۸۹۔ مَكَانَكُمْ
ٹھہرنا ہے تمکو
۳۸۹۰۔ رِيْلٌ
پھوٹ ڈالنا،
۳۸۹۱۔ اَيُّهَا
جدا دانا
۳۸۹۲۔ اَيُّهَا
ہم کو ہی
۳۸۹۳۔ هٰذَا
اس جگہ
۳۸۹۴۔ اَيُّهَا
آزمائے گا
۳۸۹۵۔ اَسْلَفَتْ
پہلے کر چکا
النصف
۳۸۹۶۔ اَيُّهَا
یا کون ہے
۳۸۹۷۔ حَقٌّ
حق بات ثابت ہوتی
۳۸۹۸۔ لَا يَهِيْئُ
نہیں راہ سوجھتی
۳۸۹۹۔ اَيُّهَا
اس کو۔
۳۹۰۰۔ اَيُّهَا
۳۹۰۱۔ اَيُّهَا
۳۹۰۲۔ اَيُّهَا
۳۹۰۳۔ اَيُّهَا
۳۹۰۴۔ اَيُّهَا
۳۹۰۵۔ اَيُّهَا
۳۹۰۶۔ اَيُّهَا
۳۹۰۷۔ اَيُّهَا
۳۹۰۸۔ اَيُّهَا
۳۹۰۹۔ اَيُّهَا
۳۹۱۰۔ اَيُّهَا
۳۹۱۱۔ اَيُّهَا
۳۹۱۲۔ اَيُّهَا
۳۹۱۳۔ اَيُّهَا

سورۃ یونس (۱۰)

- نمبر شمار عربی اردو
۳۸۹۸۔ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
ایک گھنٹی دن بھر کی
۳۸۹۹۔ يَتَعَارَفُونَ
پہچان لیں گے
۳۹۰۰۔ مَتَى
کب
۳۹۰۱۔ بَيَاتًا
رات کو،
راتوں رات
۳۹۰۲۔ مَا ذَا
کس چیز کی
۳۹۰۳۔ يَسْتَنْبِئُونَ
تبرو پوچھتے ہیں
۳۹۰۴۔ اَيُّهَا
پاں
۳۹۰۵۔ دَرَجٍ
قسم میں رب کی
۳۹۰۶۔ نَأْمَةٌ
ندامت
۳۹۰۷۔ اَيُّهَا
یاد رکھو، خرد آرزو جاؤ
۳۹۰۸۔ اَللّٰهُ اَذِنَ
کیا اللہ نے اجازت
دی ہے، حکم دیا ہے
۳۹۰۹۔ مَا تَكُوْنُ
نہیں ہوتا تو
۳۹۱۰۔ سَنَانٌ
حال، کام
۳۹۱۱۔ تَقِيْبُهُمْ
شروع کرتے ہو
۳۹۱۲۔ مَا يَكُوْنُ
نہیں چھپا ہوا
۳۹۱۳۔ اَصْغَرَ
زیادہ چھوٹی

پارہ نمبر (۱۱۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۹۱۳. يَخْرُصُونَ اُكْلَ كِي بَات كرتے
ہیں۔

الثَلَاثَةُ

ع

۳۹۱۵. مَقَامِي مِير اِسْمَا

۳۹۱۶. تَدْكُرُوْنَ نَصِيحَت

۳۹۱۷. رَجْعُ وَعْم

۳۹۱۸. مُنْذِرِيْنَ دُرَايَ جَانِيْوَالِے

۳۹۱۹. تَلْفِيفٌ تُؤْپھِر دے،

اَلرُّط دے

دل ف ت

۳۹۲۰. كِبْرِيَاءٌ بڑائی، سرواری

۳۹۲۱. لَعَالٌ اَلْبَتَّہ بہت چڑھ

گیا تھا دُبلند،

۳۹۲۲. تَبَوَّأَ جگہ بناؤ تم دونوں

۳۹۲۳. اَطْبَسَ مٹا دے

ر ط م س

۳۹۲۴. اُسْتَدُّ سنجھی ڈال

۳۹۲۵. اُحْبِبْتُ قبول کر لی کئی

سورۃ یونس (۱۰)

نمبر شمار عربی اُردو

۳۹۲۶. لَا تَتَّبِعِينَ مَتَّ اتِّبَاعِ كرتا
اتِّبَاعِ كرتا ہی مت

۳۹۲۷. اَذْرَكَ پالیا

۳۹۲۸. بَكَرَ جِسْم

۳۹۲۹. مَبْنُوًّا جگہ

۳۹۳۰. يَفْرَعُونَ پڑھتے ہیں

۳۹۳۱. مَا نَعْنَىٰ نہیں کام آیا

۳۹۳۲. دُرَايُوَالِے

دواحد: نَذِيْرِي

دواحد: نَذِيْرِي

۳۹۳۳. لَدُرْكِيْوَالِے

بھرنے والا

بھرنے والا

پارہ نمبر (۱۱۱)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر (۱۱۱)
سورۃ ہود

۳۹۳۴. اُحْكِمْتُ مَضْبُوْطٌ وُحْكَم

کی گئی۔

۳۹۳۵. نُفِصِلْتُ تَفْصِيْلٌ سَبِيْحَانِ

کی گئی۔

۳۹۳۶. مِّنْ لَّدُنْ نَزْدِيْكَ سَے،

پاس سے

۳۹۳۷. يُوْتُّ دے گا

۳۹۳۸. يَتَنَوَّنُ دوبرا کر لیتے

ہیں۔

۳۹۳۹. يَسْتَعْشُوْنَ پیتے ہیں

۳۹۴۰. تَبْيَابٌ کپڑے

(دواحد: تُوْبٌ)

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر (۱۱۱)
سورۃ ہود

۳۹۴۱. اُخْرُنَا ڈھیل دی ہم نے

۳۹۴۲. اَهْمَمَعْنُ دُوْدَةَ مَدَّتْ گئی ہوئی

۳۹۴۳. مَا يَحْسِبُ كَسْنِے روك لیا

۳۹۴۴. يَلْبَسُ مَضْرُوْدًا اُنہیں دُور ہو گا،

نہیں فرصت دے گا،

نہیں پھیرا جائیگا۔

۳۹۴۵. بِرُؤْسِ نَا اُمِيْد

۳۹۴۶. كَفُوْرٌ نَا شَكْرًا

۳۹۴۷. نَعْمَاءٌ نَعْمَتِيْنَ

۳۹۴۸. فَرِحَ اِتْرَانِے دالا

۳۹۴۹. فُخُوْرٌ شَيْخِي بَکھارے دالا

۳۹۵۰. تَاَسَّرَكَ جھوڑ دینے والا

۳۹۵۱. ضَالِقٌ تَنَكُّ ہو رہا ہے

۳۹۵۲. مُفْتَرِيَاتٍ بِنَانِيْ ہوتی

۳۹۵۳. تُوْبٌ ہم پورا دیں گے

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۹۵۳. لَا يُخْشَوْنَ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخانًا
 جاتیں گے۔
 (د، خ، س)
 ۳۹۵۵. صَنَعُوا بَنَاءَ آخُونَ لِيَوْمِ
 (ص، ن، ع)
 ۳۹۵۶. أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ جَنَّاتٍ
 (دو احد: جن ب)
 ۳۹۵۷. لَا تَلْعَلْ مِتَّ
 ۳۹۵۸. مَوْتِي شَكَّ
 ۳۹۵۹. يُخَوِّضُونَ فِيهِمْ
 جاتیں گے
 (د ع س ض)
 ۳۹۶۰. أَشْهَادًا
 (دو احد: شہید)
 ۳۹۶۱. لَا يَجْرَهُنَّ شَكَّ
 ۳۹۶۲. أَحْسَرُونَ بِهَيْبَتِ لِقَائِهِمْ
 اٹھانے والے
 ۳۹۶۳. أَخْبَتُوا عَاجِزِيكُمْ
 جھک گئے۔
 ۳۹۶۴. يَسْتَوِيانَ بِرَبِّهِمْ
 ۳۹۶۵. يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخانًا
 جاتیں گے۔

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۹۶۵. أَمْ أَرْثَىٰ رِذِيلًا
 ۳۹۶۶. بَادِيَ الرَّأْيِ ظَاهِرًا
 ۳۹۶۷. عَيْتِي
 ۳۹۶۸. نُلْزِمُ
 ۳۹۶۹. طَارِدًا
 ۳۹۷۰. طَرِدًا
 ۳۹۷۱. تَرَدُّدًا
 ۳۹۷۲. إِجْرَامًا
 ۳۹۷۳. إِجْرَامِي
 ۳۹۷۴. لَا تَنْتَسِعُونَ
 ۳۹۷۵. اصْنَعُوا
 ۳۹۷۶. عَيْنِنَا
 ۳۹۷۷. لَا تَخَاطَبُكُمْ
 ۳۹۷۸. يَجَلُّ
 ۳۹۷۹. فَارًا

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۹۸۰. نَانَ يَكْنِيكَ
 ۳۹۸۱. سَوَارًا
 (دو احد: سوار)
 ۳۹۸۲. مَجْرَهَا
 ۳۹۸۳. مَرْسَلَهَا
 ۳۹۸۴. مَعَزَلًا
 ۳۹۸۵. دَوِيًّا
 ۳۹۸۶. حَالًا
 ۳۹۸۷. نَكَلًا
 ۳۹۸۸. قَلْعِيًّا
 ۳۹۸۹. غَيْضًا
 ۳۹۹۰. اسْتَوَتْ
 ۳۹۹۱. جُودِيًّا
 ۳۹۹۲. لُعْدًا
 (دو احد: لعنت)

الربيع

۳۹۹۳. اعْظُمُ
 (دو احد: عظمت)
 ۳۹۹۴. اِهْبِطْ
 ۳۹۹۵. اَنْزِلْ

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۳۹۹۵. قَوْمًا عَادًا
 ۳۹۹۶. قَوْمًا عَادًا
 ۳۹۹۷. قَوْمًا عَادًا
 ۳۹۹۸. قَوْمًا عَادًا
 ۳۹۹۹. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۰. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۱. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۲. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۳. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۴. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۵. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۶. قَوْمًا عَادًا
 ۴۰۰۷. قَوْمًا عَادًا

پارہ نمبر ۱۱۲

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۰۰۸۔ صَبِحْنَا زور کی آواز
 ۲۰۰۹۔ جَنَّمِينِ اونہرے گرسے ہوتے
 ۲۰۱۰۔ لَمَّا يَنْوُوا نہیں رہے وہ
 ۲۰۱۱۔ مَا لَيْتَ نہیں دیر کی
 ۲۰۱۲۔ حَنِينٍ تلا ہوا
 ۲۰۱۳۔ لَأَنْهَلُ نہیں پہنچتا
 ۲۰۱۴۔ نَكَرَ انجان ہوا
 ۲۰۱۵۔ اَوْجَسَ چھپایا
 ۲۰۱۶۔ حَيِّفَةً ڈر، خوف
 ۲۰۱۷۔ ضَجَّكَتْ بنس پڑی
 ۲۰۱۸۔ وَرَأَى پتھے
 ۲۰۱۹۔ يُولِيَتِي ہائے افسوس
 ۲۰۲۰۔ کیا
 ۲۰۲۱۔ اَلْبُلُّ میں جنوں کی
 ۲۰۲۲۔ عَجُوزٌ بڑھیا
 ۲۰۲۳۔ بَعْلِي شوہر میرا
 ۲۰۲۴۔ شَبِيحًا بڑی عمر کا بوڑھا
 ۲۰۲۵۔ اَهْلَ الْبَيْتِ اسے گھر کے لوگو
 ۲۰۲۶۔ ذَهَبَ گیا
 ۲۰۲۷۔ اَلرُّدْعُ گھبراہٹ

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۰۲۸۔ مُنِيْبٌ رُجوع ہونے والا
 ۲۰۲۹۔ غَيْرُ مُرْدُوْدٍ نہیں رد کیا جاسکتا
 ۲۰۳۰۔ يَسْتَسِيءُ ناقوش ہوا
 ۲۰۳۱۔ ضَاقَ تنگ ہوا
 ۲۰۳۲۔ ذُرْعًا دل میں
 ۲۰۳۳۔ غَمِيْبٌ بھاری، سخت
 ۲۰۳۴۔ يُهْرَعُونَ دوڑے آتے
 ۲۰۳۵۔ صَيْقِي مہمان میرے
 ۲۰۳۶۔ رَجُلٌ كَثِيْبٌ آدمی اچھا
 ۲۰۳۷۔ نَزِيْلٌ ہم چاہتے ہیں
 ۲۰۳۸۔ رُكُنٍ شَرِيْبٍ قلعہ مضبوط،
 ۲۰۳۹۔ لَنْ يَصْبُوْنَا نہیں پہنچ سکیں گے
 ۲۰۴۰۔ قَطَعَ مِنَ اللَّيْلِ رَاتٍ كَا اِيْتِ حَصَةٍ
 ۲۰۴۱۔ لَأَكْبَلْتَنَّهُ نہ پیچھے مڑے
 ۲۰۴۲۔ عَالِيَهَا اوپر کا حصہ اس کا
 ۲۰۴۳۔ سَا قَلْبَا نیچے اس کے
 ۲۰۴۴۔ سَبَّحِيْلٍ کنکر،
 ۲۰۴۵۔ مَنْصُوْبٍ تہ بنہ
 ۲۰۴۶۔ مَسْوَمَةٍ نشان لگے ہوئے

پارہ نمبر ۱۱۳

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۰۴۷۔ بَعِيْدٌ دُور
 ۲۰۴۸۔ وَوَدُوْدٌ دوستی رکھنے والا
 (مصدر: وُدٌّ)
 ۲۰۴۹۔ مَا نَفَعْنَا چاہنے والا
 ۲۰۵۰۔ مِّنْ هَهُنَا نہیں سمجھ سکو
 خاندان تیرا۔
 ۲۰۵۱۔ مِّنْ جَهَنَّمَ پتھر سے مار ڈالتے ہم
 ۲۰۵۲۔ مِّنْ هَهُنَا برادری، خاندان
 ۲۰۵۳۔ اَعَزُّ بہت عزیز
 ۲۰۵۴۔ ظَهْرِيًّا پس پشت
 پیٹھ پیچھے
 ۲۰۵۵۔ اِنَّا نَنْتَظِرُ منتظر رہو
 ۲۰۵۶۔ مِّنْ قَبِيْبٍ انتظار کرنے والا
 ۲۰۵۷۔ اَلْاَكْطَرُ لاکھڑا کیا
 ۲۰۵۸۔ وَرَدٌ گھاٹ
 ۲۰۵۹۔ مَوْزُوْدٌ لاکھڑا کرنے کی جگہ

النصف

سورۃ ہود (۱۱)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۰۶۰۔ بَخَشْشًا انعام
 ۲۰۶۱۔ مَرْفُوْدٌ دیجانہوالی بخشش
 ۲۰۶۲۔ حَصِيْدٌ جڑ کاٹی ہوئی
 ۲۰۶۳۔ تَلِيْبٌ ہلاکت، بربادی
 ۲۰۶۴۔ يَوْمَ مَسْحُوْدٍ دن حاضری کا
 ۲۰۶۵۔ شَقِيْبٌ بد بخت
 (جمع: اَشْقِيَاءُ)
 ۲۰۶۶۔ سَجِيْدٌ نیک بخت
 (جمع: سَعْدَانٌ)
 ۲۰۶۷۔ مِّنْ فَيْرٍ حخ و بکار
 ۲۰۶۸۔ شَهِيْبٌ ڈھاڑنا
 ۲۰۶۹۔ مَا ذَا اَمْتٌ جب تک قائم رہے
 یار ہیں گے
 ۲۰۷۰۔ فَعَالٌ کرنے والا
 ۲۰۷۱۔ عَطَاءٌ بخشش، انعام
 ۲۰۷۲۔ غَيْرُ مَحْمُوْدٍ نہیں کاٹی جائیگی
 ۲۰۷۳۔ لَأَنْتَ مِتَ مت ہو جا
 ۲۰۷۴۔ مَرِيَّةٌ شک
 ۲۰۷۵۔ غَيْرُ مَنقُوْبٍ نہیں کم ہوگا
 ۲۰۷۶۔ لَأَنْتَ مِتَ مِت سرتشی کرو

سورۃ یوسف (۱۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۷۷۔ لَا تَرَوْهُوَ مَتَّجُحًا
۲۰۷۸۔ طَرَفِي دُونوں سے
۲۰۷۹۔ دُلْفَاءُ اللَّيْلِ كَجُورَاتِ كَا حَصَّة
۲۰۸۰۔ حَسَنَاتِ نِيكِيَاں
۲۰۸۱۔ سَيِّئَاتِ بُرَايَاں
۲۰۸۲۔ اُولُو الْبَقِيَّةِ سچے دار لوگ،
با اتر لوگ۔
۲۰۸۳۔ اَنْزَلْنَا دَوْلَتِ دِيے گئے
۲۰۸۴۔ نُنْتَبِتْ ہم ثابت رکھے ہیں
۲۰۸۵۔ فَاَوْادِكَ دِل تیرا

سورۃ یوسف (۱۲)

۲۰۸۶۔ اِحْدَ عَشْرِ كِيَارَه

۲۰۸۷۔ بَرِيًّا تَوَاب

۲۰۸۸۔ تَاوِيلِ الْاِحَادِيْتِ خَلَاصَه

خواب کی تعبیر یا ہم

باتوں کا خلاصہ۔

بَع

سورۃ یوسف (۱۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۰۸۹۔ عَصْبَةَ "جماعت، ٹولی
۲۰۹۰۔ اِطْرَاحُو دالو، چھوڑ دو
۲۰۹۱۔ يَحُلْ خالی ہو جائے گا
۲۰۹۲۔ غَلَبَتْ گہرائی والا
۲۰۹۳۔ بَجَّتْ کنواں
۲۰۹۴۔ يَلْتَقِطُ اٹھائے گا
۲۰۹۵۔ بَعْضُ السَّيَافَةِ كَوْنِي قَاغِدَه رَاہ گِیر
۲۰۹۶۔ غَدَاً كَل صَبْح
۲۰۹۷۔ يَزْنَعُ شَكْمِ سِرْبُو كَرَهَا تے
۲۰۹۸۔ ذِيْتٌ بھیر پیا
۲۰۹۹۔ عَشَاءً رَاتِ كُو
۲۱۰۰۔ يَبْتَكَونَ روتے ہوئے
۲۱۰۱۔ نَسْتَبِقُ ہم دوڑ رہے (تھے)

الثلثة

۲۱۰۲۔ سَوَّلَتْ بَاتِ بِنَايِ

۲۱۰۳۔ جَبِيلٌ بَهْتِ اِتْمَا

(خوبصورت)

۲۱۰۴۔ مُسْتَعَانَ مَدَدِ مَانِي كُنِي هے،

یا مدد دینے والا ہے۔

۲۱۰۵۔ تَصْفُونَ تَمْبِيَانِ كَرْتے هُو

سورۃ یوسف (۱۲)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۱۰۶۔ اَرَادَ اَگے چلنے والا،
پنہارا
۲۱۰۷۔ اَذَى لٹکایا
۲۱۰۸۔ دَلُو دُول
۲۱۰۹۔ يَلْبَسْرَايِ وَاہ، خوشخبری
بہت خوب
۲۱۱۰۔ عَلِمُ لَرَا كَا
(جمع: عَلِمَانُ)

۲۱۱۱۔ اَضَاعَتْ يُوْحَى

۲۱۱۲۔ بَخَسَ نَاقِصٌ تَقْوَرَا سَا كَم

۲۱۱۳۔ دَرَا اَهْمَ دَرَمِ كِي تَج،

(مدد اور اس وقت کا سکہ)

۲۱۱۴۔ اَهْدِيْنَا بِي رَغْبَتِ

۲۱۱۵۔ اَكْرَمِيْ اَعْرَازِ سِي رَكْه

۲۱۱۶۔ اَرَاوَدَتْ بِحَسْلَايَا

(اُس عورت نے)

۲۱۱۷۔ غَلَقَتْ بِنْدَكْرِيَا

(اُس عورت نے)

۲۱۱۸۔ اَلْوَابِ دَرَوَا زِي

۲۱۱۹۔ هَيْتَ لَكَ تَجْهِي سِي كَبْتِي بُول

سورۃ یوسف (۱۲)

نمبر شمار عربی اُردو

یا تجھ پر خدا ہوں۔
۲۱۲۰۔ مَعَاذَ اللّٰهِ اللّٰهُ كِي پِنَاہ
۲۱۲۱۔ قَدَّتْ بِحَا رِطَالَا
(اُس عورت نے)
۲۱۲۲۔ اَلْقِيَا پَايَا اُنْ دُونوں نے
۲۱۲۳۔ سَيِّدَهَا اَسْ كِي شُو بَر كُو
(داتا، سردار)
۲۱۲۴۔ لَنَا نَزْدِي ك
۲۱۲۵۔ مَا جَزَاءُ كِيَا سِرَا بِي ۹
۲۱۲۶۔ يَسْجَنُ قِيد كَر دِيَا جَانِي
(س ج ن)
۲۱۲۷۔ قَدْ بِحَا رَا كِيَا
(فعل ماضی مچھول)
۲۱۲۸۔ قُبُلِ اَگے سے
۲۱۲۹۔ دُرُ بِيچھے سے
۲۱۳۰۔ نَسْوَةٌ نَوَاتِيْن
۲۱۳۱۔ تَرَاوَدُ بھلاتی ہے،
پھسلاتی ہے
۲۱۳۲۔ قَتَى جَوَانِ،
خادم

پارہ نمبر (۱۳)

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۱۳۳۔ شَغَفٌ بِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ،
 پیوست ہو گیا ہے
 ۴۱۳۴۔ مَتَّكًا عَمِيدًا ارْمَنِينَ
 چاقو، چھری
 ۴۱۳۵۔ سَبِكَيْنَا
 بڑا جانا
 ۴۱۳۶۔ اَلْكَبْرُنَ
 (اُن عورتوں نے)
 ۴۱۳۷۔ حَاسِبٌ لِلّٰهِ يَرْزُقُ تَوْسِعًا اللّٰهُ كُوْفً
 ملامت کی تھی تم نے
 ۴۱۳۸۔ لَمُنْتَنِيْ
 مجھے
 ۴۱۳۹۔ اِسْتَعْصَمَ رَجُلٌ كَرِيْمًا
 بے داغ رہا
 ۴۱۴۰۔ سَجِنَ
 (ع ص م)
 ۴۱۴۱۔ قَتَبَيْنَ
 قید خانہ
 ۴۱۴۲۔ اِعْصَمُوْا
 دو جوان
 ۴۱۴۳۔ حَبِيْرًا
 پھوڑنا ہوں
 ۴۱۴۴۔ مُتَفَرِّقًا فَوْقَ جُدَا فُجْرًا، مُتَفَرِّقًا
 (ع ص م)
 ۴۱۴۵۔ يَصْلُبُ
 روٹیاں
 ۴۱۴۶۔ سُوْلِيْ دِيَا جَا تَعَالَى
 متفرق
 ۴۱۴۷۔ صَلِيْبٌ
 سولی دیا جائے گا
 (صَلِيْبٌ: سُولِيْ)

سُوْرَةُ يُوْسُفَ (۱۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۱۳۴۔ نَاجٍ نَجَاتٍ يٰٓاٰلِاٰهِنَا
 نجات پانے والا۔
 ۴۱۳۵۔ يٰٓاٰلِاٰهِنَا
 بچنے والا۔
 ۴۱۳۶۔ يَضَعُ سِنِيْنَ جَدْرًا
 چند سال
 ۴۱۳۷۔ بَقْرًا
 گائیں
 ۴۱۳۸۔ اَلْبَقَرَةُ
 (واحد: بَقْرَةٌ)
 ۴۱۳۹۔ سَمَانٍ
 موٹی
 ۴۱۴۰۔ سَمِيْنٌ
 (سَمِيْنٌ: موٹا)
 ۴۱۴۱۔ سَاعًا
 سات
 ۴۱۴۲۔ اَعْرَافٍ
 ڈبلی، لاغر
 ۴۱۴۳۔ اَلْبَلْبَسُ
 خشک، سوکھی
 ۴۱۴۴۔ تَعْتَرُونَ
 تم تفسیر بیان کرتے ہو،
 تعبیر بیان کرتے ہو۔
 ۴۱۴۵۔ اَضْعَافًا
 پریشان خیالات
 پرانندہ خواب
 ۴۱۴۶۔ اَدْكُرَ
 یاد کیا
 ۴۱۴۷۔ بَعْدَ اُمَّةٍ
 ایک مدت کے بعد
 ۴۱۴۸۔ تَزْرَعُونَ
 کھیتی کرو گے تم
 ۴۱۴۹۔ اَدَابًا
 مسلسل
 ۴۱۵۰۔ تَحْصِنُوْنَ
 تم حفاظت رکھو گے
 ۴۱۵۱۔ اِيْعَاقٌ
 مینہ برسایا جائے گا

پارہ نمبر (۱۳)

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۱۴۱۔ يَجْعَلُونَ شِيْرًا يُوْرِيْنَ
 شیر پانے والے،
 ہتھیار کا توب رس
 نکالیں گے۔
 ۴۱۴۲۔ مَا بَالُكُمْ
 کیا حال ہے
 ۴۱۴۳۔ حَصْحَصَ
 کھل گیا
 ۴۱۴۴۔ لَمَّا حَضَرَ
 نہیں تھیانت کی ہیں
 ۴۱۴۵۔ مَا اُرْسِيْ
 نہیں برسی کہتا ہیں
 ۴۱۴۶۔ اَمَّا رَسُوْلُهُ
 حکم دینے والا
 (۴۱۵۱)
 ۴۱۴۷۔ اِسْتَفْصِلْ
 میں خالص کرونگا
 ۴۱۴۸۔ مَلِكِيْنَ
 امین مرتبے والا،
 جس امانت دار
 ۴۱۴۹۔ اَلَّذِيْ لَمْ يَكُنْ
 جسے
 ۴۱۵۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۱۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۲۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۳۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۴۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۵۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۶۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۷۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۸۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۵۹۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۱۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۲۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۳۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۴۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۵۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۶۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۷۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۸۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۶۹۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۱۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۲۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۳۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۴۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۵۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۶۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۷۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۸۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۷۹۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۱۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۲۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۳۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۴۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۵۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۶۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۷۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۸۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۸۹۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۱۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۲۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۳۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۴۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۵۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۶۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۷۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۸۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۱۹۹۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا
 ۴۲۰۰۔ جَهَنَّمَ
 سامان تیار کیا

پارہ نمبر (۱۳)

نمبر شمار عربی اردو
 ۱۰۱۸۸-۱۰۱۸۹ مقابلی ہوتے،
 سائے منہ کر کے آئے
 ۱۰۱۸۹-۱۰۱۹۰ کیا؟
 ۱۰۱۹۰-۱۰۱۹۱ نَقْعِدُ دُنْ گم ہاتے ہو تم
 ۱۰۱۹۱-۱۰۱۹۲ نَقْعِدُ ہم گم ہاتے ہیں
 ۱۰۱۹۲-۱۰۱۹۳ صَوَاعُ گلاس پانی پیئے گا،
 شاہی پیالہ بڑا
 ۱۰۱۹۳-۱۰۱۹۴ جَنْدُ بَعِيْرٍ ایک اونٹ بھر غلہ
 ۱۰۱۹۴-۱۰۱۹۵ بِنَ عَيْمٍ ضامن
 ۱۰۱۹۵-۱۰۱۹۶ بَدَا شروع کیا
 ۱۰۱۹۶-۱۰۱۹۷ اَوْعِيَّةُ برتن، سامان،
 تْرَجِيَاں
 (دواحد: وعاة)
 ۱۰۱۹۷-۱۰۱۹۸ كِدْنَا تدبیر بتائی ہم نے
 ۱۰۱۹۸-۱۰۱۹۹ دِيْنِ الْمَلِكِ شاہی قانون
 ۱۰۱۹۹-۱۰۲۰۰ خَلَصُوا الگ بیٹھے
 ۱۰۲۰۰-۱۰۲۰۱ نَجِيًّا مصالحت، مشورہ
 ۱۰۲۰۱-۱۰۲۰۲ لَنْ اَبْرَحَ ہرگز نہیں ہٹوں گا
 ۱۰۲۰۲-۱۰۲۰۳ قَوَّطَمْتُ تم نے قصور کیا
 ۱۰۲۰۳-۱۰۲۰۴ عَيْدٌ کارواں

سورۃ یوسف (۱۲)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۲۰۴-۲۲۰۵ سَوَّلَتْ بات بنانی
 ۲۲۰۵-۲۲۰۶ تَوَلَّى منہ پھیرا اُس نے
 ۲۲۰۶-۲۲۰۷ يٰ اَسْفَى ہاتے افسوس
 ۲۲۰۷-۲۲۰۸ اِنْبَيْضَتْ سفید ہو گئی
 ۲۲۰۸-۲۲۰۹ نَفَقُوا اَنْدُكُؤْمُؤْ کر کے کرتا ہی
 رہے گا۔
 ۲۲۰۹-۲۲۱۰ حَرَصًا مضحل، بے کار
 ۲۲۱۰-۲۲۱۱ اَشْكُوْا شکایت پیش کرتا ہوں
 ۲۲۱۱-۲۲۱۲ بَتِيْ بے قراری میری
 ۲۲۱۲-۲۲۱۳ تَحَسَّسُوْا خبر کا نوٹ ڈھونڈو
 ۲۲۱۳-۲۲۱۴ رَوْحِ اللّٰهِ رحمت اللہ کی
 ۲۲۱۴-۲۲۱۵ مُرْطَبَةً تھوڑی سی
 ۲۲۱۵-۲۲۱۶ تَصَدَّقْ صدقہ کر
 ۲۲۱۶-۲۲۱۷ اَنْتَرَكْ پسند کیا تھو
 ۲۲۱۷-۲۲۱۸ لَا تَتْرَبْ کوئی ملامت نہیں
 ۲۲۱۸-۲۲۱۹ تَفَرَّدُ دُنْ بہ کا ہوا کہتے ہو مجھے
 ۲۲۱۹-۲۲۲۰ عَشِ تَحْتَ
 ۲۲۲۰-۲۲۲۱ بَدُوْ جگل، صحرا

الربع

۲۲۱۹-۲۲۲۰ عَشِ تَحْتَ
 ۲۲۲۰-۲۲۲۱ بَدُوْ جگل، صحرا

پارہ نمبر (۱۳)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۲۲۰-۲۲۲۱ اَلْحَقُّ ملاوے، شامل کرنے
 ۲۲۲۱-۲۲۲۲ لَكِنْ يَهْمُ نَزْدِيْكَ اُنْ کے
 ۲۲۲۲-۲۲۲۳ حَرَصَتْ حرص کرے تو
 ۲۲۲۳-۲۲۲۴ غَاشِيَةً ڈھانکنے والا،
 چھاجانے والا
 ۲۲۲۴-۲۲۲۵ اَدْمَى (جمع)
 ۲۲۲۵-۲۲۲۶ عَمِدٌ ستون
 ۲۲۲۶-۲۲۲۷ مَدًا (عِمَاد: جمع)
 ۲۲۲۷-۲۲۲۸ قَطْعٌ کھینچ پھایا
 ۲۲۲۸-۲۲۲۹ قَطْعٌ قطع، مراد ہے کھینتی
 کے مختلف ٹکڑے
 ۲۲۲۹-۲۲۳۰ يٰ اَخِطُ یا خطے
 ۲۲۳۰-۲۲۳۱ مُتَجَوِّرَاتٍ نَزْدِيْكَ،
 اَسْ پاس
 ۲۲۳۱-۲۲۳۲ اَلْحَقُّ حَقُّ
 ۲۲۳۲-۲۲۳۳ اَعْلَالٌ طوق
 ۲۲۳۳-۲۲۳۴ اَعْنَاقُ گردنیں
 ۲۲۳۴-۲۲۳۵ مَثَلَتْ عبرتناک سترائیں
 ۲۲۳۵-۲۲۳۶ تَغَيُّضٌ گم ہوتا ہے
 ۲۲۳۶-۲۲۳۷ مَتَّعَالٌ بلند، اعلیٰ
 ۲۲۳۷-۲۲۳۸ مُسْتَهْفٍ پھینے والا
 ۲۲۳۸-۲۲۳۹ مَسَارِبٌ چلنے والا
 (س س ب)
 ۲۲۳۹-۲۲۴۰ مَعْقِبَتٍ پہرے دار، یکے بعد
 دیکرے آنے والے
 ۲۲۴۰-۲۲۴۱ وَآلِ کارساز
 ۲۲۴۱-۲۲۴۲ اُنْشَيْتِيْ وہ اٹھاتا ہے
 ۲۲۴۲-۲۲۴۳ مَسْحَابٌ بادل
 ۲۲۴۳-۲۲۴۴ تَقَالٌ بھاری
 ۲۲۴۴-۲۲۴۵ اَلرَّعْدُ گرجنے والا
 ۲۲۴۵-۲۲۴۶ بَادِلٌ کھن گرج

سورۃ (۱۳)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

۳۲۳۲۔ شَدِيدُ الْحَالِ شَدِيدُ قُوْتِ وَالَا

سخت پکڑ والا

۳۲۳۵۔ بَاسِطٌ پھیلانے والا

دب س ط

۳۲۳۶۔ كَفَيْتِهٖ دوتھیلیاں اُسکی

۳۲۳۷۔ فَآ مِنْهُ

د فو : منہ

۳۲۳۸۔ ظِلَّلٌ سائے پر چھائیاں

۳۲۳۹۔ سَالَتْ بِرَنَكْلَةٍ

۳۲۴۰۔ اُدْوِيَّةٌ ندی نالے

۳۲۴۱۔ اِحْتَمَلُ اُٹھایا

۳۲۴۲۔ سَبِيلٌ سِیلاب، پانی، بہاؤ

۳۲۴۳۔ رَزَبًا جھاگ

۳۲۴۴۔ رَابِيَا چڑھا ہوا

۳۲۴۵۔ يُوْقِدُ دُنَّ تپاتے ہیں، گرم کرتے

ہیں، بھٹی لگاتے ہیں

۳۲۴۶۔ جَلِيَّةٌ کہنے، زیورات

۳۲۴۷۔ جُفَاءً ناکارہ

۳۲۴۸۔ يَتَكَلَّمُ رہتا ہے،

پٹھہ جاتا ہے

ع

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

النصف

۳۲۵۹۔ يَصِلُوْنَ ملاکر، جوڑ کر ملتے ہیں

۳۲۶۰۔ يَدْرُوْنَ تال دیتے ہیں

(د س ا)

۳۲۶۱۔ عُقْبَى الدَّآءِ پھلا گھر

۳۲۶۲۔ نَعَمَ بَهِت اچھا

۳۲۶۳۔ يَنْقُصُوْنَ پور دیتے ہیں

ع

۳۲۶۴۔ تَطَهَّرُ اطمینان پکڑتے ہیں

۳۲۶۵۔ طُوبَى توشحالی

۳۲۶۶۔ سُبُوتٌ جلائے جاتے ہیں

۳۲۶۷۔ قُطِعَتْ کاٹ دی جاتی

۳۲۶۸۔ كَلَمًا بات کرادی جاتی

۳۲۶۹۔ فَاَرْعَا سخت مصیبت

۳۲۷۰۔ تَحَلُّ اُترے گا

ع

۳۲۷۱۔ اَهْلَيْتُ مہلت دی میں نے

۳۲۷۲۔ سَبَّوْا نام رکھو

۳۲۷۳۔ اَسْقُ بہت شاق،

تکلیف دہ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

۳۲۷۴۔ اِنَّا بچانے والا

۳۲۷۵۔ اَكْلٌ میوہ

۳۲۷۶۔ دَاۡرُكُمْ ہمیشہ

۳۲۷۷۔ عُقْبَى انجام

۳۲۷۸۔ يَفْرُحُوْنَ خوش ہوتے ہیں

ع

۳۲۷۹۔ يَتَّخُوْا امٹا دیتا ہے،

محو کر دیتا ہے

۳۲۸۰۔ اَمْرُ الْكِتَابِ مرکزی کتاب،

اصل کتاب

۳۲۸۱۔ نَقَصَ گھٹانا،

کم کرنا

۳۲۸۲۔ اَطْرَافٌ کنارے

۳۲۸۳۔ لَا مَعْصِيَةَ لَہیں سچا کرتی والی،

نہیں ٹالنے والا

ع

۳۲۸۴۔ اَطْرَافٌ

۳۲۸۵۔ سُبُلُنَا راہیں ہماری

(سَبِيلٌ : واحد)

۳۲۸۶۔ اِذْ يَتَمَوْذَا تکلیف یا اذیت ہی

تم نے ہو۔

ع

۳۲۸۷۔ اَبْرٰهِيْمَ

۳۲۸۸۔ عَنِيْدٌ ضدی

۳۲۸۹۔ يَسْقٰى پلایا جائے گا

۳۲۹۰۔ صِدْقٌ پیسہ

۳۲۹۱۔ يَتَجَرَّعُ گھونٹ گھونٹ پیتے گا،

انگ انگ کر پیتے گا

(جُرْعَةٌ گھونٹ)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

اَبْرٰهِيْمَ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

۳۲۸۲۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۳۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۴۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۵۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۶۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۷۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۸۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۸۹۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۹۰۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۹۱۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۹۲۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

۳۲۹۳۔ اَيَّامَ اللّٰهِ معاملات اللہ کے

ع

پارہ نمبر ۱۱۳

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۲۸۲۔ لَا يَكَادُ ۱ نہیں قریب ہوگا،
 ۲۲۹۳۔ يَبْسُغُ ۱ گلے سے اترے گا
 ۲۲۹۴۔ مَاد ۱ ماد رکھ
 ۲۲۹۵۔ اسْتَدَّتْ ۱ سخت چلے زور کی
 ۲۲۹۶۔ يَوْمَ عَاصِفٍ ۱ سخت آنرھی کا دن
 ۲۲۹۷۔ يَزُودُ ۱ سامنے ہوں گے
 ۲۲۹۸۔ تَبَعًا ۱ تابع محکوم۔
 ۲۲۹۹۔ مَغْنُونٌ ۱ کفایت کرنے والے،
 کام آنے والے
 ۲۳۰۰۔ جَزَعْنَا ۱ بے عیبی بتائیں ہم
 ۲۳۰۱۔ مَحْيِيصٌ ۱ خلاصی
 ۲۳۰۲۔ مَضِيحٌ ۱ فریاد کو پہنچنے والا
 ۲۳۰۳۔ اَصْلٌ ۱ جڑ
 ۲۳۰۴۔ اَصُولٌ ۱ (جمع)
 ۲۳۰۵۔ قَائِمٌ ۱ یکا، مضبوط
 ۲۳۰۶۔ فَرَعٌ ۱ ڈالی، شاخ
 ۲۳۰۷۔ (فُرُوعٌ ۱ (جمع)
 ۲۳۰۸۔ اجْتَنَّتْ ۱ گھڑا گھڑا بقیار

سورۃ البراقیم (۱۱۲)

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۰۷۔ اَحْلَوْا ۱ اُتارا انھوں نے
 ۲۳۰۸۔ اَزَّالُوا ۱ گھر بلاکت کا
 ۲۳۰۹۔ جَلَلٌ ۱ جلال دوستی
 ۲۳۱۰۔ اَشْبِيْنُ ۱ بھرنے والے
 ۲۳۱۱۔ لَا تُحْضُوا ۱ نہیں کن سلوگے
 ۲۳۱۲۔ اجْنَبْنِي ۱ زور رکھ مجھ کو
 ۲۳۱۳۔ اسْتَكْتٌ ۱ بسایا میں نے
 ۲۳۱۴۔ وَادٍ ۱ میدان، وادی
 ۲۳۱۵۔ غَيْرِ ذِي دَرَعٍ ۱ بغیر کھیتی والی،
 ناقابل زراعت
 ۲۳۱۶۔ مَحْرَمٌ ۱ قابل احترام
 ۲۳۱۷۔ تَهَوَّنِي ۱ ٹھکنے لگیں،
 مائل ہوں
 ۲۳۱۸۔ كِبْرٌ ۱ بڑھاپا
 ۲۳۱۹۔ سَخَّصُ ۱ چڑھی رہ جائیں گی
 ۲۳۲۰۔ مُهْطِعِينَ ۱ دوڑتے ہوں گے
 ۲۳۲۱۔ مُقْتَنِي ۱ اونچا کتے ہوئے
 ۲۳۲۲۔ طَرْفٌ ۱ نگاہ، نظریں

پارہ نمبر ۱۱۴

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۲۳۔ اَفْوَادٌ ۱ دل
 (واحد: فُوَادٌ)
 ۲۳۲۴۔ هُوَا ۱ بدحواس،
 ادھر لٹکے رہتے۔
 ۲۳۲۵۔ تَبَدَّلُ ۱ بدل دیجائیں گی
 ۲۳۲۶۔ مُقَرَّنِينَ ۱ جکڑے ہوں گے
 ۲۳۲۷۔ اَصْفَادٌ ۱ زنجیریں
 ۲۳۲۸۔ سَيِّبِينَ ۱ سڑے ہوئے
 ۲۳۲۹۔ قَطْرَانٌ ۱ کندھک

پارہ نمبر ۱۱۵

الحجۃ (۱۵)

- ۲۳۳۰۔ مَرَبِيحًا ۱ بار بار
 ۲۳۳۱۔ يَلِيَهُ ۱ غافل کر دے
 (الرهاة: غافل کرنا)
 ۲۳۳۲۔ لَوْمًا ۱ کیوں نہیں

سورۃ الحجر (۱۵)

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۳۳۔ شَيْخٌ ۱ گروہ
 ۲۳۳۴۔ فَسَلَكُ ۱ ہم چلا دیتے ہیں
 (دس ل ك)
 ۲۳۳۵۔ طَلُّوا ۱ چھا جائیں، بوجائیں
 ۲۳۳۶۔ يَغْرِبُونَ ۱ چڑھتے ہوتے
 ۲۳۳۷۔ سَكِرَاتٍ ۱ چھراگتی
 ۲۳۳۸۔ مَسْحُورُونَ ۱ سحر کئے گئے
 ۲۳۳۹۔ بَرْدِجًا ۱ تاروں کے محلات
 ۲۳۴۰۔ اسْتَوَتْ ۱ چوری چھپے سُن لیا
 (دس س ر ق)
 ۲۳۴۱۔ شَهَابٌ ۱ شعلہ
 ۲۳۴۲۔ مَدْدَنَا ۱ کھینچ پھایا ہم نے
 ۲۳۴۳۔ رَوَّابِي ۱ پہاڑ
 ۲۳۴۴۔ مَوْرُونَ ۱ باوزن، بارونق
 ۲۳۴۵۔ لَوَّاحِحٌ ۱ پوچھل کر دینے والی
 ۲۳۴۶۔ صَالِحًا ۱ کھنکھاتی ہوئی مٹی
 ۲۳۴۷۔ مَسْرُونًا ۱ گالہ پڑھتی ہوئی
 ۲۳۴۸۔ سَمُومٌ ۱ گرم پیشیں
 ۲۳۴۹۔ جُرْعَةٌ ۱ حصہ جمع: اجزاء

پارہ نمبر ۱۳

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۵۰۔ اَمِنِينَ اَمِن سے
 ۲۳۵۱۔ غَلَّ غفلت
 ۲۳۵۲۔ سُرَّسُر تحت
 (واحد: سَيَّرُ)
 ۲۳۵۳۔ مُتَقَلِّبِينَ آمنے سامنے
 ۲۳۵۴۔ نَصَبٌ محنت، تھکن
 ۲۳۵۵۔ نَبِيٌّ خبر دے
 (فعل امر)
 ۲۳۵۶۔ وَجِلُونَ ڈرتے ہیں
 ۲۳۵۷۔ وَجَلٌ ڈرنا، گھبراہٹ ہونا
 ۲۳۵۸۔ فِيمَ پس کس چیز کا،
 پس کس چیز سے
 ۲۳۵۹۔ قَانِطِينَ نا اُمید لوگ
 ۲۳۶۰۔ قَنَطٌ نا اُمیدی، مایوسی
 ۲۳۶۱۔ مَأْخُطٌ کیا معاملہ ہے
 ۲۳۶۲۔ غَابِرِينَ عذاب میں رہ
 جاتا جانے والے
 ۲۳۶۳۔ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ قوم انجان
 ۲۳۶۴۔ يَتَوَدَّونَ شَكَرْتُمْ ہیں
 ۲۳۶۵۔ اَسْرٌ لِمَا (فعل امر)

سُورَةُ الْحَجِّ (۱۵)

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۶۶۔ اَمْضُوا جلی چلو
 ۲۳۶۷۔ مَقَطُوعٌ کاٹ دیا گیا
 ۲۳۶۸۔ لَا تَقْضُحُونَ مَت رَسُوْا كَرُوْا مَجْج
 ۲۳۶۹۔ لَعْمَرُوقٌ قسم تیری، ہاں کی
 ۲۳۷۰۔ مُشْرَقِينَ سَورَج لُكَلْتِ هِي
 (رُوشَنِي كَرْتِي هِي)
 ۲۳۷۱۔ مُتَوَسِّمِينَ صَاحِبِ فِرَاسْت
 ۲۳۷۲۔ مَبِيْلٌ مَقِيْمٌ اَبَادِ طَرِك
 ۲۳۷۳۔ اَصْحَابِ الْاَيْكَةِ بِنِ وَالِي
 ۲۳۷۴۔ اِهْمَارِ مَبِيْلِينَ صَافِ رَاسْتِ بُو
 سَاسْتِي كَهْلِي طَوْرِي
 ۲۳۷۵۔ يَنْجُوْنَ تَرَا شْتِي
 (ن ح ت)
 ۲۳۷۶۔ مَتَانِي دُورَانِي جَانِي وَالِي
 ۲۳۷۷۔ لَا تَمُدَّنَّ مَت لِي هِي كَر
 ۲۳۷۸۔ اِحْقِضْ بِجِهَادِ
 ۲۳۷۹۔ جَنَاحَ بَارُو
 (ج ج: اَجْنَحَةٌ)
 ۲۳۸۰۔ مَقْتَسِمِينَ بَانْتِي وَالِي

پارہ نمبر ۱۴

نمبر شمار عربی اردو

- ۲۳۸۱۔ عَضِيْنٌ ٹکڑے، اجزائے
 الربع
 ۲۳۸۲۔ اَصْدَغُ اَشْكَارَا كَرْدِي،
 كَهُولِ كَرْنَادِي
 ۲۳۸۳۔ يَقِيْنٌ يَقِيْنٌ، مَوْتِ
 مَوْتِ كِي وَاقْتِ
 جَبْ هِي هِي هِي
 يَقِيْنِ مِي تَبْدِيْلِ
 هُو جَاتِي هِي اِسْ
 لِي يِهَا مَوْتِ
 كِي مَعْنِي اِسْ يِلْفِظِ
 اِسْتِعْمَالِ هُو اِهِي۔
 ج

النحل (۱۶)

- ۲۳۸۴۔ نُطْفَةٍ شِي كِي بُونْدِ
 ۲۳۸۵۔ خَصِيْمٌ جَهْلِي كَرْنِي وَالِي
 ۲۳۸۶۔ دَفٌّ اَسْبَابِ كَرْمِي،

سُورَةُ النحل (۱۶)

نمبر شمار عربی اردو

- جاڑہ کے موسم میں
 بنائے جانے والے
 گرم کپڑے۔
 ۲۳۸۷۔ تَوَدَّونَ تَم شَامِ كُو جِرَا كَر
 وَ اِسْ لَاتِي هُو۔
 (اِمْرَا حَقٌّ: مَصْدَرٌ)
 شَامِ كُو جَانُوْرُو
 كُو جِرَا كَرُو اِسْ لَانَا
 گھوڑے
 ۲۳۸۸۔ حَنِيْلٌ
 ۲۳۸۹۔ بَعَالٌ حِجْرٌ
 (واحد: بَعْلٌ)
 گدھے
 ۲۳۹۰۔ حَمِيْدٌ
 (واحد: حَمِيْدٌ)
 ۲۳۹۱۔ قَصْدُ السَّبِيْلِ سِي دِهَارَا سَا سْتِي
 ۲۳۹۲۔ جَا كَرٌ حَقٌّ سِي بِيْرِي وَالِي،
 كَرْمٌ، طِيْرٌ هَا
 ۲۳۹۳۔ تَسْبِيْمُونَ كَرْمِ مَوْبِيْشِي جِرَاتِي هُو
 ۲۳۹۴۔ اَلْوَانٌ رَنَكٌ (جَمْعُ)
 ۲۳۹۵۔ طَرِيًّا تَارِي
 ۲۳۹۶۔ تَسْتَحْرِجُوْا لُكَلْتِي هُو

سورۃ النحل (۱۶)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۳۹۷۔ حَلِيَّةٌ گہنا، زیورات
 ۲۳۹۸۔ مَوَاجِرَ پانی کو پیرنے والی
 ۲۳۹۹۔ اَنْ كُہ
 ۲۴۰۰۔ تَمِيْدًا پل جائے،
 ڈھلک جائے
 ۲۴۰۱۔ عَلَمَاتٍ نشانیاں
 ۲۴۰۲۔ اَيَّانَ كِبِ
 ۲۴۰۳۔ مُتَكَبِّرَةٌ اُنکار، انجان ہونا
 ۲۴۰۴۔ اَلْاَجْرَمَ نہیں شک
 ۲۴۰۵۔ اَسَاطِيْرَ کہانیاں
 ۲۴۰۶۔ اَوْسُرًا بوجھ
 (واحد: وُزْرٌ)
 ۲۴۰۷۔ بُنْيَانٍ عمارت
 ۲۴۰۸۔ قَوَاعِدَ نیو، بنیاد عمارت کی
 ۲۴۰۹۔ حُرْدً گرا دیا
 ۲۴۱۰۔ سَعْفٌ چیت
 ۲۴۱۱۔ نَشَاوُونَ تم جھگڑتے تھے،
 مخالفت کرتے تھے
 ۲۴۱۲۔ ظَالِمٍ ظلم کرنے والے

سورۃ النحل (۱۶)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۴۱۳۔ طَيِّبِينَ پاکیزہ، ستھرے لوگ
 ۲۴۱۴۔ حَتَّىٰ اَنْتَ پڑا، گھیر لیا
 ۲۴۱۵۔ جَهْدَ اَيْمَانٍ سخت قسمیں
 النصف
 ۲۴۱۶۔ اَهْلَ الذِّكْرِ اہل نصیحت
 ۲۴۱۷۔ سُرُورٍ قرآن سے پہلے کی
 چھوٹی کتابیں
 ۲۴۱۸۔ يَخْسِفَ دھنسا دے گا
 ۲۴۱۹۔ تَقْلِبَ چلت پھرت
 ۲۴۲۰۔ تَخَوُّفٍ شیکے سے
 ۲۴۲۱۔ يَنْفَعِنَا جھکتے پھرتے ہیں
 ۲۴۲۲۔ اِخْرَاقًا عاجز (دفع)
 ۲۴۲۳۔ وَاَصْبَاً لازم، بیشہ کو
 ۲۴۲۴۔ تَجَدُّوْنَ تم فریاد کرتے ہو
 ۲۴۲۵۔ مُسَوِّدًا کالا، سیاہ
 ۲۴۲۶۔ كَطَيْمٍ ننگین، غصہ پی
 جانے والا

سورۃ النحل (۱۶)

نمبر شمار عربی اردو
 ۲۴۲۷۔ يَتَوَازَى چھا پھرتا ہے
 ۲۴۲۸۔ يَتَمَسَّكُ لئے رہے، تھامے
 رہے۔
 ۲۴۲۹۔ هُوْنَ ذلت
 ۲۴۳۰۔ يَلْمِزُ گار دے گا
 ۲۴۳۱۔ نُوَابٍ مٹی
 ۲۴۳۲۔ اَصْفَ بیان کرتی ہے
 ۲۴۳۳۔ اَلْسِنَةً زبانیں
 (واحد: لِسَانٌ)
 ۲۴۳۴۔ مُفْرَطُونَ بڑھا دیتے گئے،
 جلا دیسے گئے
 ۲۴۳۵۔ فَرَشَ کوبر
 ۲۴۳۶۔ لَيْتًا دودھ
 ۲۴۳۷۔ سَائِغًا حلق میں آسانی
 سے اترنے والا۔
 ۲۴۳۸۔ سَكْوً نشہ والی چیز
 ۲۴۳۹۔ نَحْلٌ شہد کی مٹھی
 ۲۴۴۰۔ ذُلًّا نرمی سے
 ۲۴۴۱۔ اَنْ ذَلَّ ناکارہ
 ۲۴۴۲۔ لَكِيْلًا تاکر نہیں
 ۲۴۴۳۔ فَضْلًا فضیلت دے
 گئے۔
 ۲۴۴۴۔ سِرَ اِدْنِي پھیر دینے والے
 ۲۴۴۵۔ بَيْنِيْنِ بیٹھے
 ۲۴۴۶۔ حَقْلًا پوتے
 (واحد: حَقِيْدٌ)
 ۲۴۴۷۔ اَلْاَضْرِيْضُ مت بیان کرو
 (ض س ب)
 ۲۴۴۸۔ عَيْنٌ اَمْتًا غلام پر لے بس کا
 ۲۴۴۹۔ اَبْصَحُّمَ کو لگا
 ۲۴۵۰۔ كَلَّ بوجھ، وبال جان
 ۲۴۵۱۔ اَيْدِيْنَا جہاں کہیں بھی
 ۲۴۵۲۔ يُوَجِّهُهُ بھیتا ہے اُس کو
 ۲۴۵۳۔ لَمَحَ الْبَصَرَ جھپکنے آنکھ کا
 ۲۴۵۴۔ جَوًّا فضا، آسمان اور
 زمین کا درمیانی حصہ
 ۲۴۵۵۔ سَكْنَا رہنے کی جگہ
 ۲۴۵۶۔ جَلُوْدٌ چڑھے (واحد: جَلْدٌ)

پارہ نمبر (۱۲)

نمبر شمار عربی اردو

۲۲۵۷۔ تَتَحَفُّونَ بَلْكَ يَاتِے ہوں

۲۲۵۸۔ طَعْنٌ كُوج کرنا

۲۲۵۹۔ اَصْوَابٌ اُون

(واحد، صُوفٌ)

۲۲۶۰۔ اَوْبَارٌ اُونٹ کے یا بھیر کے

بال (واحد وِبْرٌ)

۲۲۶۱۔ اَشْعَارٌ بال بھیر کبریوں کے

یارو تیں۔

(واحد شَعْرٌ)

۲۲۶۲۔ اُنْكَائًا ساران، اسباب

۲۲۶۳۔ اُنْكَائًا پناہ کی جگہ

۲۲۶۴۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۶۵۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۶۶۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۶۷۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۶۸۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۶۹۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۰۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۱۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۲۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۳۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۴۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۵۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۶۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۷۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

۲۲۷۸۔ اِسْتَجَابُوا اُنھوں نے

پارہ نمبر (۱۳)

نمبر شمار عربی اردو

۲۲۷۹۔ اُنْكَائًا ریزہ ریزہ،

ٹکڑے ٹکڑے

۲۲۸۰۔ اُنْكَائًا بڑھی ہوئی

۲۲۸۱۔ اُنْكَائًا ڈنگا جائے گا،

پھسل جائے گا

۲۲۸۲۔ اُنْكَائًا ختم ہو جائے گا

(ن ف د)

۲۲۸۳۔ اُنْكَائًا رہنے والا، باقی

۲۲۸۴۔ اُنْكَائًا غیر عربی

۲۲۸۵۔ اُنْكَائًا زبردستی کیا گیا

۲۲۸۶۔ اُنْكَائًا دوست رکھا

۲۲۸۷۔ اُنْكَائًا اُنھوں نے

۲۲۸۸۔ اُنْكَائًا آرائش میں ڈالے گئے

۲۲۸۹۔ اُنْكَائًا لباس

۲۲۹۰۔ اُنْكَائًا نہیں ہوا

۲۲۹۱۔ اُنْكَائًا بدلہ لو تم، ایزادو

۲۲۹۲۔ اُنْكَائًا ایزاد گئے تم

۲۲۹۳۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۴۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۵۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۶۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۷۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۸۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۲۹۹۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۳۰۰۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

۲۳۰۱۔ اُنْكَائًا کچل کر تباہ کر دینا

پارہ نمبر (۱۵)

نمبر شمار عربی اردو

۲۳۰۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۳۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۴۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۵۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۶۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۷۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۸۔ اُنْكَائًا

۲۳۰۹۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۰۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۱۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۳۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۴۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۵۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۶۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۷۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۸۔ اُنْكَائًا

۲۳۱۹۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۰۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۱۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۳۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۴۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۵۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۶۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۷۔ اُنْكَائًا

پارہ نمبر (۱۶)

نمبر شمار عربی اردو

۲۳۲۸۔ اُنْكَائًا

۲۳۲۹۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۰۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۱۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۳۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۴۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۵۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۶۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۷۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۸۔ اُنْكَائًا

۲۳۳۹۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۰۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۱۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۳۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۴۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۵۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۶۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۷۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۸۔ اُنْكَائًا

۲۳۴۹۔ اُنْكَائًا

۲۳۵۰۔ اُنْكَائًا

۲۳۵۱۔ اُنْكَائًا

۲۳۵۲۔ اُنْكَائًا

۲۳۵۳۔ اُنْكَائًا

سورۃ نوحیٰ (۱۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۰۵۔ مَدْحُوْرًا دھکے دیا ہوا،
 دھتکارا ہوا
 ۲۵۰۶۔ مَشْكُوْرًا قدر دان کی گئی
 ۲۵۰۷۔ مَحْظُوْرًا رُکے ہوئی، بند
 ۲۵۰۸۔ تَعْضِيْلًا فضیلت، بزرگی
 ۲۵۰۹۔ مَحْدُوْلًا ہلاکت میں چھوڑا ہوا
 ۲۵۱۰۔ قَضَىٰ حکم دیا، فیصلہ کیا
 ۲۵۱۱۔ اِيَّاهُ صرف اسی کو
 ۲۵۱۲۔ كَلَاهِمًا وہ دونوں
 ۲۵۱۳۔ لَا تَهْرُوْا مت بھڑک
 ۲۵۱۴۔ كَرِيْمًا باادب، عزت سے
 ۲۵۱۵۔ اِنْسَارِي انکساری
 ۲۵۱۶۔ رِيْبِيَانِي پالان دونوں نے
 چھو کو۔
 ۲۵۱۷۔ صَغِيْرًا چھوٹے پن میں
 ۲۵۱۸۔ اَوْ اِيْن رُجوع ہونے والے
 ۲۵۱۹۔ اَت دے
 ۲۵۲۰۔ لَا تَبْدِلُوْا مت فضول خرچ کر
 ۲۵۲۱۔ تَبْدِيْرًا فضول خرچ کرنا
 ۲۵۲۲۔ مُبْدِرِيْن فضول خرچ کرنا والے

سورۃ نوحیٰ (۱۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۲۳۔ تَرْجُوْا تو امید رکھتا ہے
 ۲۵۲۴۔ مَيْسُوْرًا آسان
 ۲۵۲۵۔ مَغْلُوْبًا تنگ بندھا ہوا
 ۲۵۲۶۔ مَلُوْمًا ملامت کیا ہوا
 ۲۵۲۷۔ مَحْسُوْرًا پچھتا یا ہوا، ہارا ہوا
 ۲۵۲۸۔ اِمْلَاق تنگدستی، مفلسی
 ۲۵۲۹۔ حِطًّا خطا، گناہ
 ۲۵۳۰۔ مَنصُوْرًا مردود یا جائے گا
 ۲۵۳۱۔ قِنطَاسًا ترازو
 ۲۵۳۲۔ لَا تَقْفُ مت پیچھ چل
 ۲۵۳۳۔ لَا تَمْسِسْ مت چل
 ۲۵۳۴۔ مَرَحًا اکرٹا ہوا
 ۲۵۳۵۔ طَوْلًا لمبائی
 ۲۵۳۶۔ مَكْرُوْهًا ناپسند
 ۲۵۳۷۔ اِلَهًا اٰخَرَ معبود دوسرا
 ۲۵۳۸۔ تَلْقَىٰ ڈال دیا جائے گا تو
 ۲۵۳۹۔ اَصْفَىٰ منتخب کیا،
 پسند کیا
 ۲۵۴۰۔ مَسْتُوْرًا چھپا ہوا

سورۃ نوحیٰ (۱۵)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۲۵۴۱۔ اِكْتَنَةً حجاب، پردہ
 ۲۵۴۲۔ دَقْرًا بوجھ، ڈاٹ
 الربیع
 ۲۵۴۳۔ عَظَمًا بڑیاں
 (واحد: عَظْمٌ)
 ۲۵۴۴۔ مِرْفَاْتًا گلی ہوئی، بوسیدہ
 ۲۵۴۵۔ جَلِيْدًا نیا
 ۲۵۴۶۔ يُّعْضُوْنَ سرنشکاتے ہیں
 (مصدر: اِنْعَاضٌ)
 سرنشکانا، منڈی
 ۲۵۴۷۔ يَنْزِعُ بھلکرا یا وسوسہ
 ڈالتا ہے۔
 ۲۵۴۸۔ عَمَلًا دعوئی کرتے تھے تم
 دگمان کرنا
 ۲۵۴۹۔ تَحْوِيْلًا بدل ڈالنا
 ۲۵۵۰۔ مَحْدُوْرًا ڈرنے کے لائق
 ۲۵۵۱۔ مَسْطُوْرًا لکھا ہوا
 ۲۵۵۲۔ تَحْوِيْفًا خوف دلانے کو
 ۲۵۵۳۔ كَرْمًا بڑائی دی، بزرگی
 دی ہوئے۔
 ۲۵۵۵۔ اَخْرَجَتْ ڈھیل دی ہوئے
 ۲۵۵۶۔ اُخْتِنِكُمْ قابو میں لے کر
 چٹ کر جاؤں گا۔
 (ح ن ك)
 ۲۵۵۷۔ مَوْفُوْرًا پوری، وافر
 ۲۵۵۸۔ اِسْتَقْرَرْنَ بہکا دے،
 بھکا دے
 ۲۵۵۹۔ اَجْلَبَ کھینچ بھلا
 ۲۵۶۰۔ حَنِيْلًا سوار (گھوڑا)
 ۲۵۶۱۔ سِرْجَلًا پیادے
 ۲۵۶۲۔ شَارِكًا شریک ہو جا
 ۲۵۶۳۔ عِدَّ وَعده دے
 ۲۵۶۴۔ يُّدْرِيْ جلاتا ہے،
 چلنے دیتا ہے
 ۲۵۶۵۔ تَارَةً اور بار، دوبارہ
 ۲۵۶۶۔ قَاصِفًا سخت طوفان
 ۲۵۶۷۔ تَبِيْعًا پیچھا کرنے والا

سورۃ غیبر (۱۵)

نمبر شمار عربی ۷
نمبر شمار اردو ۷

۲۵۹۸۔ کَرِیْمٌ قَرِیْبٌ تَهَاوُ
۲۵۹۹۔ تَرْدُكُنْ جُھك جاتا
۲۶۰۰۔ اَذْقُنَا چکھاتے ہم (ذوق)
۲۶۰۱۔ ضَعْفٌ دُوكُنَا
۲۶۰۲۔ دُوْلُوكِ الشَّمْسِ سُوْرَجِ كَا دُھلنا
۲۶۰۳۔ عَسَقٌ اَندھیری، تاریکی
۲۶۰۴۔ تَرْتَجِدُنْ تہترادو کر، جاگ اٹھ
۲۶۰۵۔ نَافِلَةٌ زَادَتْ نَفْلٌ
۲۶۰۶۔ مَقَامًا طَوِيْرًا مَقَامِ تَعْرِیْفِ كے قابل۔
۲۶۰۷۔ رَهَقٌ گم ہو گیا، گیا گذرا
۲۶۰۸۔ رَهْوَقًا گم ہونے والا
۲۶۰۹۔ نَا دُور کر لیا، پھیر لیا
۲۶۱۰۔ جَانِبٌ كَرُوْث
۲۶۱۱۔ شَاكِلَةٌ طَرِیْقَةٌ، شَكْلٌ
۲۶۱۲۔ طَهِيْرًا مَدُوْكَار

سورۃ جن المرتل (۱۶)

نمبر شمار عربی ۷
نمبر شمار اردو ۷

۲۵۸۳۔ يَنْبُوعًا چشمہ
۲۵۸۴۔ تَفْجِيْرًا پھاڑ کر نکالنا
۲۵۸۵۔ سَقَطٌ گرا دے تو (س ق ط)
۲۵۸۶۔ كَسَفًا ٹکڑا
۲۵۸۷۔ قَبِيْلًا مَدْرَمَقَابِلِ
۲۵۸۸۔ رُحْرَفٌ چمکدار آرائش، سونا
۲۵۸۹۔ تَرَقَّى پڑھ جائے تو
۲۵۹۰۔ رُتِيٌّ چڑھنا
۲۵۹۱۔ مُطْمَئِنِّنٌ آرام سے، بستے اطمینان سے
۲۵۹۲۔ بَشْرٌ آدمی
۲۵۹۳۔ حَبَبٌ بھجنے لگے، ڈھیمی ہونے لگے
۲۵۹۴۔ سَعِيْرًا دہکتی آگ
النصف
۲۵۹۵۔ تَدُوْمِرًا تنگ دل، کنجوس
۲۵۹۶۔ مَثْبُوْرًا ہلاک ہونے والا

سورۃ شوریٰ (۱۷)

نمبر شمار عربی ۷
نمبر شمار اردو ۷

۲۵۹۷۔ يَسْتَفْزَهُمْ جِبْنَ نَبِيْنِے دسے گا اُن کو۔
۲۵۹۸۔ نَفِيْقًا پھیٹ کر
۲۵۹۹۔ فَرَقْنَا جُودًا بَيَانِ كِيَا، ہم نے
۲۶۰۰۔ مَكْبَتٌ ٹھہر ٹھہر کر، وقفہ دے کر
۲۶۰۱۔ يَخْرُوْنَ گپڑتے ہیں
۲۶۰۲۔ سَجْدًا سجدہ کرتے ہوئے
۲۶۰۳۔ اَذْقَانٌ ٹھوڑیاں
۲۶۰۴۔ يَبْكُوْنَ روتے ہیں (ب ك ي)
۲۶۰۵۔ جِسْمٌ جس نام سے بھی
۲۶۰۶۔ لَآ تَجْهَرُ بَرْسِيْ اَوَا زِ كَرِ
۲۶۰۷۔ لَآ تُخَافُ مَتَّحِكَةً مَتَّحِكَةً سے
۲۶۰۸۔ بِيْنٌ درمیانی
۲۶۰۹۔ اَذْ لِكْ اُس کے (دو) راہ
۲۶۱۰۔ سَبِيْلًا (جمع: سَبِيْلٌ) ذلت
۲۶۱۱۔ ذُلٌ ذلت

سورۃ الکہف (۱۸)

نمبر شمار عربی ۷
نمبر شمار اردو ۷

۲۶۱۲۔ مَا كُنْتُمْ رَسَبْنَا
۲۶۱۳۔ بَاخِعٌ ہلاک کرنے والا
۲۶۱۴۔ اَنْتَاسٌ پیچھے
۲۶۱۵۔ صَعِيْدًا جُرْزَانِیْنِ بَخْرِ
۲۶۱۶۔ اَلْكَهْفِ غَارِ
۲۶۱۷۔ رَ قَدِيْمٌ کھودی ہوئی، کھوہ
۲۶۱۸۔ قَدِيْمَةٌ نوجوانوں کی ٹولی
۲۶۱۹۔ هَبِيْبٌ تیار کر دے
۲۶۲۰۔ جَزِيْبِيْنِ دو گروہ (تثنیہ)
۲۶۲۱۔ اَخْطَى خوب گننے والا
۲۶۲۲۔ لَبَنُوْرًا رے وہ
۲۶۲۳۔ اَمَلًا بدلت
۲۶۲۴۔ رَاطِنَا باندھ دیا ہم نے
۲۶۲۵۔ سَطَطًا بات بے جا، شرارت آمیز
۲۶۲۶۔ اَعْتَرَكُمْ كِيَسُوْهُوْتُمْ تَمَّ، اَلْكُ هُوْتُمْ تَمَّ

سُورَةُ الْكَهْفِ (۱۸)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۴۶۲۶- اَعْتَمَدَانٌ	یکسو پونا، الگ ہونا
۴۶۲۷- فَاذُّ	پناہ لو، جگہ پکڑو
۴۶۲۸- يَهْتَبِي	درست کر دے گا
۴۶۲۹- مَرْتَقًا	آرام کا سبب
۴۶۳۰- طَلَعَتْ	طلوع ہوتا ہے
۴۶۳۱- تَرَاوُسٌ	جھک جاتا ہے
۴۶۳۲- ذَاتِ الْيَمِينِ	دائیں طرف
۴۶۳۳- غَرَبَتْ	غروب ہوتا ہے
۴۶۳۴- تَقْرِيضٌ	کرتا جاتا ہے
۴۶۳۵- ذَاتِ الشِّمَالِ	بائیں طرف
۴۶۳۶- فِجْوَةٌ	میدان، کشادہ جگہ
۴۶۳۷- مَرْتَدًا	راہ ہٹانے والا
۴۶۳۸- اِيْقَاطًا	جاگتے ہوئے
۴۶۳۹- مَرْقُودًا	سوتے ہوئے
۴۶۴۰- نَقْلًا	کروٹ بدلا دی
۴۶۴۱- بَاسِطًا	ہم نے۔
۴۶۴۲- مَرَّ اَعْيُنِهِ	پسارا ہوا،
۴۶۴۳- وَصِيدًا	پھیلانے والا
۴۶۴۴- اَعْيُنِهِ	دونوں ہاتھ اسکے
۴۶۴۵- وَصِيدًا	دلیز، چوکھٹ

سُورَةُ الْكَهْفِ (۱۸)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۴۶۴۶- اِطْلَعَتْ	جھانکے تو
۴۶۴۷- وَكَيْتٌ	پلٹ جائے تو
۴۶۴۸- فَرَاوِسًا	بھاگ کر
۴۶۴۹- مُلْتَمِتٌ	بھردیا جائے تو
۴۶۵۰- وَرَقٌ	سکہ
۴۶۵۱- يَتَلَطَّفُ	باریک تدبیر کرتا ہوا
۴۶۵۲- يُسْتَعْرَضُ	بتا دے کوئی
۴۶۵۳- اِطْلَاعِ	اطلاع دی ہم نے
۴۶۵۴- مَرَاةً	بجھٹ کرنا
۴۶۵۵- مُلْتَمِتًا	جگہ پناہ کی
۴۶۵۶- اَعْلَنًا	ہم نے غافل پایا
۴۶۵۷- فَرَطًا	حد سے گذرا ہوا

الثلثة

۴۶۵۸- سَوَادِقُ	تنائیں، پیرت
۴۶۵۹- يَسْتَعْيَبُونَ	فریاد کریں وہ
۴۶۶۰- يُعَاوِزُوا	فریاد ہی کیجائیں
۴۶۶۱- اُنْكَرُ	ان کی
۴۶۶۲- مُهْمَلٌ	پگھلا ہوا تانا
۴۶۶۳- يَسْبُؤِي	جھون ڈالے گا

سُورَةُ الْكَهْفِ (۱۸)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۴۶۶۴- مَرْتَقًا	فائدہ اٹھائیں جگہ
۴۶۶۵- يُحَدِّثُونَ	پہنائے جائیں گے
۴۶۶۶- اَسَاوِرٌ	کنگن
۴۶۶۷- ثِيَابًا	پکڑے
۴۶۶۸- سُنْدُسٌ	(واحد: ثَوْبٌ)
۴۶۶۹- اِسْتَبْرَقٌ	باریک لیشیم
۴۶۷۰- اَرَائِكٌ	مسہریاں، تخت
۴۶۷۱- اَرَائِكَةٌ	(واحد: اَرَائِكَةٌ)
۴۶۷۲- حَفَقْنَا	گھیر دیا ہم نے
۴۶۷۳- كَلْنَا	پورا دیا دونوں نے
۴۶۷۴- خَلَلَهُمَا	ان دونوں کے بیچ میں
۴۶۷۵- يُحَادِرُ	سوال جواب کرتا تھا
۴۶۷۶- اَعْرُ	بہت غالب
۴۶۷۷- نَفْرًا	مجموع، لوگ، تعداد
۴۶۷۸- اَنْ تَبِيْنَ	کہ ہلاک ہو جائیگا
۴۶۷۹- اَقْلٌ	کمتر، تھوڑا
۴۶۸۰- حُسْبَانًا	چکر، پھرنے والا،
۴۶۸۱- صَعِيدًا	گردش
۴۶۸۲- رَلَقًا	چھیل میدان میں پھلتی

سُورَةُ الْكَهْفِ (۱۸)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار اردو
۴۶۸۳- غَوْرًا	خشک
۴۶۸۴- وَّلَايَةٌ	اختیار، حکم چلانا
۴۶۸۵- هَشِيمًا	چورہ چورہ
۴۶۸۶- اَمَلًا	آرزو
۴۶۸۷- بَابِرًا	صاف نکلی ہوئی،
۴۶۸۸- لَنْ نَعَادِسَ	ظاہر۔
۴۶۸۹- غُرُوضًا	نہیں چھوڑینگے ہم
۴۶۹۰- وُضِعَ	پیش کئے جائیں گے
۴۶۹۱- مُشْفِقِينَ	لکھ دیا جائے گا
۴۶۹۲- لَا يُعَادِسُ	پھٹے پڑتے ہونگے
۴۶۹۳- عَضَدًا	نہیں چھوڑا
۴۶۹۴- مَرْتَقًا	دست بازو
۴۶۹۵- مَوَاقِعًا	ہلاکت
۴۶۹۶- جَدَلًا	جھگڑنے والا
۴۶۹۷- يَنْحَضِرُونَ	بچلا دیوں
۴۶۹۸- مَوْرَدًا	(د ح ض) جاتے پناہ

پارہ نمبر (۱۵)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۶۹۳۔ لَا أَبْرَحُ نَبِيں رکنے کا میں
۲۶۹۵۔ مَجْمَعُ الْكُرْبَانِ دو مسندوں کے
ملنے کی جگہ۔

۲۶۹۶۔ اَمْضَى چلتے رہوں گا

۲۶۹۷۔ حَقْبًا لمبی مدت تک

۲۶۹۸۔ حَوْثٌ مچھلی
(جمع: حَيْثَانٌ)

۲۶۹۹۔ سَوْبًا چلنا

۲۷۰۰۔ اَوْثِنًا جگہ لی ہم نے

۲۷۰۱۔ صَحْرَةً پتھر

۲۷۰۲۔ قَصَصًا نشان دیکھتے ہوتے

۲۷۰۳۔ اِمْرًا بھاری

۲۷۰۴۔ لَا تُرْهِقْ مت ڈال

۲۷۰۵۔ اِنْطَلَقًا چلے دونوں

۲۷۰۶۔ شَيْئًا اِمْرًا عجیب بات



سورۃ الکہف (۱۸)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر (۱۶)

۲۷۰۶۔ لَنْ نَسْتَطِيعَ نہیں کر سکے گا تو
۲۷۰۷۔ اِسْتَطَعْنَا کھانا طلب کیا اُن
دونوں نے۔

۲۷۰۸۔ اِنْكَارَ کیا انھوں نے

۲۷۰۹۔ يُضَيِّقُوا ضیافت کریں،

مہمانی کریں

۲۷۱۰۔ جِدَّ اس دیوار

۲۷۱۱۔ غَضَبًا چھین لینا،

غضب کرنا

۲۷۱۲۔ سِرْ هَقٌّ پیٹ دینا،

اِنْرَادَانَا

۲۷۱۳۔ سَبِيًّا راہ

۲۷۱۴۔ حَبِيئَةً کچھ

۲۷۱۵۔ نَسْرًا انجان، ایسا کہ

کبھی نہ دیکھا۔

پارہ نمبر (۱۶)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۷۱۶۔ يَسْتَرًا پردہ، آڑ
۲۷۱۷۔ لَيْدِيَهٗ پاس اس کے
۲۷۱۸۔ سَدَّيْنِ دو دیواریں اونچی،

یاد دہاڑیاں

۲۷۱۹۔ يَمْجُوجُ وَمَجْجُوجُ دو قوموں کے نام،

وحشی اور غارت
گروگ۔

۲۷۲۰۔ خَرَجًا محصول، مال

خراج، خرچی،

بانچھ، چندہ

۲۷۲۱۔ سَدًّا آڑ

۲۷۲۲۔ اَعْيُنُهُمَا ساتھ دو

(مصدر: اَعْيُنَةٌ)

۲۷۲۳۔ مِمَّا اُھنی دیوار

۲۷۲۴۔ ذِكْرًا لِّمَنْ يَدُّ نختے لوہے کے

۲۷۲۵۔ سَاوِيًّا برابر کر دیا

۲۷۲۶۔ صَدَّقَيْنِ دونوں برسے،

دو

۲۷۲۷۔ اَلْفُحُوًّا دھونکو،

پھونکو

(ن ف خ)

سورۃ الکہف (۱۸)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۷۲۸۔ قَطْرًا تانبا گلا یا ہوا
۲۷۲۹۔ مَا اِسْتَطَاعُوا نہیں سکے
۲۷۳۰۔ مَا اِسْتَطَاعُوا نہیں کر سکے

۲۷۳۱۔ نَقْبًا سوراخ

۲۷۳۲۔ يَمْجُوجُ موج مارے گا

(کثرت کی وجہ سے)

۲۷۳۳۔ عَرَضًا پیش کرنا

۲۷۳۴۔ غَطَاءً پردہ

۲۷۳۵۔ نَزْلًا مہمانی

۲۷۳۶۔ اٰخْسِرِيْنَ بہت خسارہ میں

رہنے والے

۲۷۳۷۔ صُنْعًا کام

۲۷۳۸۔ فِرْعٰوْنِ جنت کا اعلیٰ

مقام۔

۲۷۳۹۔ جَوْلًا جگہ بدلنا

۲۷۴۰۔ وَاِذَا رَوَّشْتَانِي رُوشنائی

۲۷۴۱۔ نَقْدًا ختم ہونا



پارہ نمبر ۱۹

نمبر شمار عربی اردو

مریم
سورۃ

۴۴۴۲	خَفِيًّا	آہستہ
۴۴۴۳	وَهْنٌ	سست ہونا،
		کمزور ہونا
۴۴۴۴	اِسْتَعْلَىٰ	شعلہ مارا،
		(نہایت چمکدار
		سفید بال ہونے
		پر شعلہ کی طرح معلوم
		ہوتے ہیں)
۴۴۴۵	سُرُّسٌ	سر
		(جمع: سُرُّسٌ)
۴۴۴۶	شَيْبًا	بڑھا یا
۴۴۴۷	شَقِيًّا	محروم، بے نصیب
۴۴۴۸	مَوَالِي	وارث
۴۴۴۹	عَاقِرًا	بانجھ
۴۴۵۰	سَدِيًّا	ہم نام
۴۴۵۱	عَتِيًّا	بے حد بے انتہا
۴۴۵۲	هَيِّنٌ	آسان

سورۃ مريم (۱۹)

نمبر شمار عربی اردو

۴۴۵۳	لَمْ تَكُ	نہیں تھا تو
۴۴۵۴	صَبِيًّا	بچپن
۴۴۵۵	اِنْتَدِنَتْ	علیحدہ چلی گئی
۴۴۵۶	تَمْشَلُ	صورت پکڑی

الرَّبِيعِ

۴۴۵۷	قَصِيًّا	دورا لگ ہٹ کر
۴۴۵۸	مَخَاضٍ	درد زہ
۴۴۵۹	جَذَعِ	الغُلِّ كَجَوْرِ كَتَتِ
۴۴۶۰	نَسِيًّا	بھولی بسری
		بھولی بھلائی
۴۴۶۱	سَرِيًّا	نہر، چشمہ،
		جاری پانی
۴۴۶۲	هَزِيًّا	بلا
۴۴۶۳	رَطْبًا	کھجور تازی
۴۴۶۴	قَرِيًّا	ٹھنڈی رکھ
۴۴۶۵	نَسِيًّا	آدمی
۴۴۶۶	فَرِيًّا	عجیب
۴۴۶۷	مَهْدًا	گود، پالنا،
		جھولا۔

پارہ نمبر ۱۹

نمبر شمار عربی اردو

۴۴۶۸	مَادُمْتُ	جب تک رہوں میں
۴۴۶۹	بِرًّا	نیک سلوک
۴۴۷۰	مَشْهُدًا	خاضری کا موقع،
		عدالت کی گواہی کی
		جگہ۔
۴۴۷۱	اَسْمِعُ	کیا ہی سننے والا
۴۴۷۲	اَبْصُرُ	کیا ہی دیکھنے والا
		مذت تک
۴۴۷۳	مَلِيًّا	مہربان
۴۴۷۴	عَتِيًّا	چھوڑتا ہوں
		ضائع کر دیا انھوں نے
۴۴۷۵	غَنِيًّا	بڑی خرابی
۴۴۷۶	مَاتِيًّا	آنے والا
		(ا ت ی)
۴۴۷۷	نَسِيًّا	بھولنے والا
۴۴۷۸	اِصْطَبِدُ	صبر سے جم جا
		(ص ب س)
۴۴۷۹	جَنِيًّا	اوندھے کرے ہوتے

سورۃ مريم (۱۹)

نمبر شمار عربی اردو

۴۴۸۲	اُولٰٓئِ	زیادہ لائق
۴۴۸۳	صَلِيًّا	داخل ہونا
۴۴۸۴	حَتْمًا	لازمی
۴۴۸۵	نَدِيًّا	مجلس، محفل
۴۴۸۶	سَرِيًّا	دکھاوا، نمود
۴۴۸۷	مَوَدًّا	پھرانے میں
۴۴۸۸	فَرَدًّا	ایکلا
۴۴۸۹	ضِدًّا	مخالف
		بچ
۴۴۹۰	اٰمِرًا	بدکانا
۴۴۹۱	وَقَدًّا	مہمان
۴۴۹۲	وَرَدًّا	پراسے (ا ترنا)
۴۴۹۳	اِدًّا	بھاری
۴۴۹۴	هَدًّا	کانپ کر
۴۴۹۵	وَدًّا	محبت
۴۴۹۶	لُدًّا	جھکوا لو
۴۴۹۷	سِرْكًا	کھٹکا،
		آہٹ
		النصف
		بچ

سورۃ ط (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

ط (۲۰) سورۃ

۴۷۹۸۔	تَشَقَّى	رج اٹھاتے تو
۴۷۹۹۔	عَلَى	بلند
۴۸۰۰۔	قَرَامَى	گیلی مٹی
۴۸۰۱۔	أَمْكَنُوا	ٹھہرو
۴۸۰۲۔	أَنْسَتْ	دیکھا میں نے
۴۸۰۳۔	قَبَسُ	انگارا، شعلہ
۴۸۰۴۔	أَخْلَعُ	اُتار ڈال
۴۸۰۵۔	نَخْلَى	جو تیریاں (تستنیہ)
۴۸۰۶۔	طَوْسَى	ایک مقدس وادی
		کانام جہاں حضرت
		موسىؑ پر وحی کی گئی۔
۴۸۰۷۔	أَخْتَلَوْتُ	پسند کیا میں نے
		(مصدر: اِخْتَبَارًا)
۴۸۰۸۔	أَكَادُ	قریب ہوں میں
۴۸۰۹۔	أُخْفِي	پوشیدہ رکھوں گا
۴۸۱۰۔	تَرْدَى	ہلاک ہو جائے تو
۴۸۱۱۔	أَوَّلُ كُوَّةٍ	سہارا لیتا ہوں

سورۃ ط (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۴۸۱۲۔	أَهْسُ	پتے جھاڑتا ہوں
۴۸۱۳۔	عَنَمِي	بکریاں میری
۴۸۱۴۔	مَا بَرَبِّ	کام
۴۸۱۵۔	حَيَّةٍ	سانپ
۴۸۱۶۔	سَيِّرَةٌ	حالت
۴۸۱۷۔	أَضْمَمُ	ملائے
۴۸۱۸۔	بَيْضَاءَ	سفید
۴۸۱۹۔	أَشْوَحُ	گشادہ کر دے
۴۸۲۰۔	أُحْلِلُ	کھول دے
۴۸۲۱۔	عُقَدَةً	گانٹھ، گرہ
۴۸۲۲۔	أَشْدُدُ	مضبوط کر
۴۸۲۳۔	أَنْزِرْنِي	قوت میری
۴۸۲۴۔	أَشْرُوكَ	ساتھ کر دے
۴۸۲۵۔	كِيٍّ	تاکہ
		(حرفِ ناصب)
۴۸۲۶۔	أَقْدِنِي	ڈال دے
		(ق ذ ف)
۴۸۲۷۔	تُصْنَعُ	پرورش پاتے تو
۴۸۲۸۔	عَيْدِي	میری نگرانی
		(میری آنکھ)

سورۃ ط (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

۴۸۲۹۔	أَدْنُ	خبروں میں
۴۸۳۰۔	تَقَرَّ	ٹھنڈی ہوئی
۴۸۳۱۔	فَتَوَكَّنَا	آزمانا
۴۸۳۲۔	أَصْطَفَعْتُ	منتخب کیا میں نے
۴۸۳۳۔	لِنَفْسِي	میں کرتے
۴۸۳۴۔	لَا تَبَيَّنَا	مت غفلت کرو
۴۸۳۵۔	يَقْرُطُ	(تم دونوں)
		زیادتی کرے گا،
		ہاتھ ڈالے گا۔
۴۸۳۶۔	أَعْطَى	دیا
۴۸۳۷۔	مَا بَالُ	کیا حال
۴۸۳۸۔	شَيْئِي	مختلف،
		الگ الگ
۴۸۳۹۔	أَنْزِعُوا	پھاڑو،
		چمکاؤ جانوروں کو
۴۸۴۰۔	أُولَى النَّهْيِ	اہل عقل،
		صاحبِ فہم
۴۸۴۱۔	تَارَةً أُخْرَى	دوبارہ، دوسری بار
۴۸۴۲۔	مَكَانًا سَوِيًّا	مقام بہوار
۴۸۴۳۔	يَوْمَ الزَّيْتَةِ	زیت کا دن،

سورۃ ط (۲۰)

نمبر شمار عربی اردو

خاص تہوار کا دن		
۴۸۴۴۔	صُحْبِي	دن چڑھے
۴۸۴۵۔	يُنَجِّتُ	فنا کر دے گا
۴۸۴۶۔	خَابَ	نامراد ہوا
۴۸۴۷۔	مُثَلِّ	مثالی راہ
۴۸۴۸۔	أَسْتَقْبَلِي	غالب رہا
۴۸۴۹۔	حَبَابُ	رسیاں
		(واحد: حَبْلٌ)
۴۸۵۰۔	عَصَبِي	لاٹھیاں
		(واحد: عَصَا)
۴۸۵۱۔	يُخَيِّلُ	خیال بندھایا گیا
۴۸۵۲۔	أَوْجَسَ	چھپایا
		المثلثہ
		۳
۴۸۵۳۔	يَسَّ	خشک راہ
۴۸۵۴۔	دَسَّ	تعاقب کرنا، پانا
۴۸۵۵۔	هَوَى	گر پڑا
۴۸۵۶۔	أَشْرَمِي	میں سے پیچھے
۴۸۵۷۔	سَامِرِي	زمانہ موسیٰ میں ایک
		آدمی کا نام جو بڑا

بَارَةُ مِيسِرٍ (۱۶)

نمبر شمار عربی اُردو

شعبہ باز تھا۔
 ۲۸۵۸۔ طَانٌ زیادہ ہوا، طویل ہوا
 ۲۸۵۹۔ بِحَسْنِ الْجَسْمِ جسم
 ۲۸۶۰۔ خَوَاسٌ آواز
 ۲۸۶۱۔ يَا بَنُو مَرْءٍ اے بیٹے میری ماں کے، یعنی میکہ بھائی
 ۲۸۶۲۔ رِحِيَّةٌ ڈاڑھی
 ۲۸۶۳۔ لَمْ تَرَوْا قَبَّ نَبِيٍّ انتظار کیا تو نے نہیں بھریا میں نے
 ۲۸۶۴۔ قَبِضْتُ بھریا میں نے
 ۲۸۶۵۔ قَبِضَةُ مٹھی بھرنا
 ۲۸۶۶۔ لَا وَسْأَسُ مَتَّ هَاتِلًا وَ مَتَّ مَتَّ مَتَّ مَتَّ
 ۲۸۶۷۔ ظَلَّتْ چھا گیا، بیٹھ گیا تو
 ۲۸۶۸۔ عَاكِفًا بیٹھا ہوا
 ۲۸۶۹۔ نَحْرُ قَيْنٍ ہم جلا ڈالیں گے
 (ح س ق)
 ۲۸۷۰۔ نَسَقًا اُردو دنیا
 ۲۸۷۱۔ مَرْزُقًا کیری آنکھیں، نیلی آنکھیں، شدت درد کی وجہ سے

بَارَةُ ظَلَمٍ (۲۰)

نمبر شمار عربی اُردو

چکرا کر آنکھوں کا نیلی پر جانا ایسے موقع پر کہا جاتا ہے
 ۲۸۷۲۔ يَتَخَفَتُونَ اہستہ آہستہ کہتے ہوں گے۔
 ۲۸۷۳۔ اَمْتَلُ زیادہ اچھا
 ۲۸۷۴۔ قَاعًا میدان
 ۲۸۷۵۔ صَفْصَفًا صاف، چٹیل
 ۲۸۷۶۔ اَمْتًا اُونچان
 ۲۸۷۷۔ هَمْسًا باؤں کی آہٹ
 ۲۸۷۸۔ عَدَّتْ ٹھکے ہوئے ذیل ہونے
 ۲۸۷۹۔ هَضْمًا توڑنا، حق مارنا
 ۲۸۸۰۔ يُخَدِّثُ نیا کر دیوے وہ
 ۲۸۸۱۔ عَزَمًا پختگی
 ۲۸۸۲۔ لَا تُجْرِعُ نَہ جھوکا رہے گا تو
 (ج د ع)
 ۲۸۸۳۔ لَا تَعْرَى نہیں بے لباس رہے گا تو
 (ع س ی)
 ۲۸۸۴۔ لَا تَطْمُو نہیں پیسا رہے گا تو
 (ظ م ع)

بَارَةُ نَيْبٍ (۷)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۸۸۵۔ لَا تَضْحَى نہیں دھوپ لگے گی تجھے۔
 ۲۸۸۶۔ ضَنُكًا تنگی، بد حالی
 ۲۸۸۷۔ لَمَّا جھٹنے والا
 ۲۸۸۸۔ مَرَّ هَوَّةً آرائش، رونق
 ۲۸۸۹۔ نَفْتِنٌ ہم آزمائیں

بَارَةُ نَبَاٍ (۱۰)

الانبياء (۲۱)

۲۸۹۰۔ مُحَدِّثٌ نیا جدید
 ۲۸۹۱۔ لَاهِيَةً غفلت، بے دھیان
 ۲۸۹۲۔ قَضَمْنَا ہلاک کیا ہم نے، غارت کر دیا
 ۲۸۹۳۔ اِحْسُو اِحساس کیا آنکھوں نے

بَارَةُ الانبياء (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۲۸۹۴۔ يَرْكُضُونَ بھاگنے لگے بدحواس ہو کر
 (د س ح ع)
 ۲۸۹۵۔ رَكُضٌ ایڑ لگا کر بھاگنا، بدحواس ہو کر
 ۲۸۹۶۔ مَا تَرَا لَيْتَ ہمیشہ رہا، نہیں ختم ہوا
 ۲۸۹۷۔ حَصِيدًا جڑ سے کٹی ہوئی
 ۲۸۹۸۔ حَامِدِينَ بخجھے ہوئے
 ۲۸۹۹۔ لَا يَسْتَحْسِرُونَ نہیں تھکتے
 (ح س ی)
 ۲۹۰۰۔ لَا يُعْتَرُونَ نہیں اُگتاتے
 ۲۹۰۱۔ فَسَدًا بگڑ جاتے، لڑ پڑتے
 ۲۹۰۲۔ هَاتُوا اے آؤ
 ۲۹۰۳۔ مَرَّ نَقًا بندے ہوئے
 ۲۹۰۴۔ فَتَقْنَا کھول دیا ہم نے
 ۲۹۰۵۔ فَجَاجًا گشادہ
 ۲۹۰۶۔ سَفْعًا چھت
 ۲۹۰۷۔ يَسْتَحْمُونَ تیر رہے ہیں
 ۲۹۰۸۔ خُلِدَ ہمیشہ رہنا

سُورَةُ نَبَا (۱۰۶)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۰۹. اِنْ مِتَّ اَكْرَمُ جَاءَتْهُ تُو

(م و ت)

۲۹۱۰. لَا يَكْفُرُونَ هَيْبًا وَلَا كِبَارًا

۲۹۱۱. تَبَهَّتْ بِرُؤْسِهِ اَكْرَمُ

۲۹۱۲. تَبَهَّتْ بِرُؤْسِهِ اَكْرَمُ

(ب و ت)

۲

۲۹۱۳. مَنْ كَفَرَ

۲۹۱۴. يَكْفُرُونَ

۲۹۱۵. يُصْحَبُونَ

۲۹۱۶. نَفْحَةً

۲۹۱۷. حَرْدُونَ

۲۹۱۸. ضِيَاءً

۳

الرَّبِيعِ

۲۹۱۹. تَمَّائِيلٌ

(م و ت)

۲۹۲۰. جُنْدًا

۲۹۲۱. فِتًى

۲۹۲۲. يَنْظُرُونَ

سُورَةُ الْاِنْبِيَاءِ (۲۱)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۲۳. اُلْطَفُ كَفَى

۲۹۲۴. حَقُّوا

۲۹۲۵. كُوفِيَ

۲۹۲۶. بَرِّدًا

۲۹۲۷. كَرَّبَ

۲۹۲۸. نَفَسَتْ

۲۹۲۹. غَنَمَ

۲۹۳۰. فَهَمَّنَا

۲۹۳۱. صَنَعَةَ

۲۹۳۲. لَبُوسٍ

۲۹۳۳. تَحْصِينَ

۲۹۳۴. عَاصِفَةً

۲۹۳۵. يَعْزُفُونَ

۲۹۳۶. ذُالْتُونِ

(یوس علیہ السلام)

سُورَةُ الْاِنْبِيَاءِ (۲۱)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۳۷. اَصْلَحْنَا

۲۹۳۸. اَحْصَيْنَا

۲۹۳۹. فَرَجَ

۲۹۴۰. كُفْرَانَ

۲۹۴۱. حَدَابٍ

۲۹۴۲. يَسْلُونَ

۲۹۴۳. سَخِصَةً

۲۹۴۴. حَصْبِ

۲۹۴۵. اِرْدُونَ

۲۹۴۶. رَفِيدًا

۲۹۴۷. مَبْعُدُونَ

۲۹۴۸. حَسِينِ

۲۹۴۹. فَرَاغَ

۲۹۵۰. نَطْوَى

۲۹۵۱. طَبَى

۲۹۵۲. سَجَلًا

۲۹۵۳. اَدْنَتْ

سُورَةُ الْاِنْبِيَاءِ (۲۱)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۵۴. اِنْ اَذْبُرْنَا

النصف

الْحَجَّ (۲۲) سُورَةُ

۲۹۵۵. تَنَاهَى

(ذ و ل)

۲۹۵۶. مُرْضِعَةً

۲۹۵۷. نَضَعُ

۲۹۵۸. ذَاتِ

۲۹۵۹. سُكَايَ

۲۹۶۰. مَوْبِدٍ

۲۹۶۱. تَوَلَّى

۲۹۶۲. عُلُقَةَ

۲۹۶۳. مُضْغَةً

۲۹۶۴. مُخَلَّقَةً

۲۹۶۵. نُفُوًا

سورۃ الحج (۲۶)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۶۶۔ طفلاً بچہ
۲۹۶۷۔ اُرْدُذِلْ الْعُبْرَانَا كَارِي عَمْر
۲۹۶۸۔ هَامِدًا فَتَشْكُ، سَوَكِي
۲۹۶۹۔ اَهْتَرَتْ اُبْهَرْتِي هِي
(ہلنا)

۲۹۷۰۔ مَرَبَّتْ پھولتی ہے،

تازی ہوتی ہے

۲۹۷۱۔ رَوَّيْنِي بِرَبِيحٍ فَوْشٍ مَنظَرِ قَسَمٍ،

جوڑے بارونق،

جوڑے خوشنما

۲۹۷۲۔ ثَانِيًّی مَوْتِنِي وَالَا

۲۹۷۳۔ عَطْفٌ شَانِ

۲۹۷۴۔ حَرْفٌ كِنَارِے

۲۹۷۵۔ سَبْدٌ رَسِي

۲۹۷۶۔ دَوَابٌ جَانِدَارِ

۲۹۷۷۔ حَصْمِنٌ جَهْلَانِے وَالے

دو فریق

۲۹۷۸۔ اِحْتَصَمُوْا جَهْلًا كَمَا اَنْخَلُوْا

۲۹۷۹۔ قَطَعْتُ كَاثِرٌ رَكْعَةٍ كَثِيْرَةٍ

۲۹۸۰۔ تِيَابٌ كِطْرِيے

سورۃ الحج (۲۶)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۸۱۔ يَصُبُّ ذَالَا جَائِيْ كَا

۲۹۸۲۔ يَضْرِبُوْهُ كَلَّ جَائِيْ كَا

۲۹۸۳۔ مَقَامِعٌ كُهْنٌ، بَهْمُوْطِيے

۲۹۸۴۔ حَدِيْدٌ لَوْهَا

۲۹۸۵۔ لُوْلُوْءٌ مَوْتِي

۲۹۸۶۔ حَرِيْرٌ رَشِيْمٌ

۲۹۸۷۔ مَكَائِفٌ رَسِيْنَةٌ وَالَا، مَقَانِي

۲۹۸۸۔ يَادٌ بَاہِرِے اَنْبِيْوَالَا

۲۹۸۹۔ اَلْحَادُ بِيْ دِيْنِي، شَرِكٌ،

اَلْحَادِ۔

۲۹۹۰۔ صَاوِرٌ دُوْبِيْے اُوْنَطِ

۲۹۹۱۔ فَيْجٌ عَيْبِيْتِي لَاسْتِي دُوْرِدَا زَاكِي

۲۹۹۲۔ كَيْمِيْتِي اَلْاَنْغَاوِيْرِيْوَالِي جَانُوْرِي

۲۹۹۳۔ كَلُوْا كَهَادِ

۲۹۹۴۔ اَطْعَمُوْا كَهَلَاوِ

۲۹۹۵۔ اَلْاِنْبَاسُ كُجُوْكَا

۲۹۹۶۔ يَفْضُوْا طُھِيْكِي كَرِيں

(کرنما)

۲۹۹۷۔ تَفَشُّ مِيْلِي كِيْمِي

سورۃ الحج (۲۶)

نمبر شمار عربی اردو

۲۹۹۸۔ بِيْتِ الْعَيْتِي كَهَرِ قَدِيْمِي

۲۹۹۹۔ تَخْطُفُ اُجْلِيے جَائِيْ هِي

۵۰۰۰۔ تَهْوِيْ كِرَادِيْتِي هِي

۵۰۰۱۔ سَحِيْبِيْنٌ مَبِيْتٌ دُوْرِي

۵۰۰۲۔ مَحَبِّيْتِيْنٌ كِرَدُوْنٌ مَبْهَكَا دِيْنِي

وَالے۔

۵۰۰۳۔ بُدُنٌ اُوْنَطِ

۵۰۰۴۔ صَوَاتٌ قَطَارِے لَكِي مَوْتِي

۵۰۰۵۔ وَجَبْتُ كِرْطِيں

۵۰۰۶۔ قَانِعٌ بِيْ سَوَالِ

۵۰۰۷۔ مُعْتَرٌ بِيْ قَرَارِ سَاكِلِ

۵۰۰۸۔ لُحُوْمٌ كُوْشَتِ

(وَاَعَدَ، لُحُوْمٌ)

۵۰۰۹۔ حَوَانٌ خِيَانَتِ كَرِيْمُوَالَا

۵۰۱۰۔ اِذْنٌ اِجَازَتِ دِي كَرِيْمِي

۵۰۱۱۔ يَفْتَلُوْنُ رِطَانِي كَتِي جَائِيْ هِي

مَارِے جَائِيْ هِي

۵۰۱۲۔ هُدِيْمَتٌ دُھَادِے جَائِيْ هِي

مَنْهَدِمٌ كِرْدِيے جَائِيْ هِي۔

۵۰۱۳۔ صَوَاْمِعٌ خَلُوْتِ خَانِے،

خَانِقَا بِيں، مَرَسِي

۵۰۱۴۔ نِصَارِي كِي عِبَادَتِ

خَانِے، كِرْجِي

۵۰۱۵۔ صَلُوَاتٌ يِيھُوْدِ كِي عِبَادَتِ خَانِے

كَلِيْسَا

۵۰۱۶۔ اَمْلِيْتٌ دُھِيْلِ دِي بِيں نِي

۵۰۱۷۔ نَكِيْرٌ عَذَابِ

۵۰۱۸۔ بِنْدٌ كِنُوَالِ

۵۰۱۹۔ مَعْطَلَةٌ نَاكَارِہ، خَالِي، بِيكَا رِ

۵۰۲۰۔ قَصِي مَحَلِ

(جَمْعُ : قَصُوْرٌ)

۵۰۲۱۔ مَشِيْدٌ اُوْنَجِي، مَضْبُوْبٌ، مَرْزِي

مُنْقَشٌ، بِلَنْدِ

۵۰۲۲۔ تَعْبِي اِنْدِھِي ہُوْنِي

۵۰۲۳۔ تَمَنِي تَمَنِي

۵۰۲۴۔ تَخِيْبَتِ عَاجِزِي كَرِيں

بَارَةُ مَبْرُورٍ (۱۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۲۵. عَقِيدَةُ يَا نَجْمُ، بے برکت

۵۰۲۶. مُحَضَّرَةٌ سَبْرٌ

۵۰۲۷. اَنْ تَقَعُ كَمَّ كَرِيْمِيْنَ

۵۰۲۸. يَسْطُوْنَ جَمَلَكُ رَدِيْنَ كَيْ

۵۰۲۹. ذُيَا بَابَا مَكِّي

۵۰۳۰. يَسْلُبُ چھین ليوے

۵۰۳۱. لَا يَسْتَقْدُ وَلَا نَهْطُ سَكِيْنَ

۵۰۳۲. اِسْتَقَادُ جِيْطُ اِلَيْتَا

بَارَةُ مَبْرُورٍ

مَنْوَن (۲۳) سُوْرَةُ الْمُوْنِ

۵۰۳۳. فُرُوْجٌ شَرْمُ كَابِيْنَ

(فراج: واحد)

۵۰۳۴. عَيْدُ مَلُوْمِيْنَ نَيْسِ سَلَامَتِ كَيْ كَيْ

سُوْرَةُ الْمُوْنِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۳۵. عَلُوْنٌ حَدَسَ نَكْلُ جَابِيُوْا

۵۰۳۶. رَا عُوْنٌ رِعَايَتِ كَرِيْمُوْا،

خیال رکھنے والے

۵۰۳۷. سُلَّةٌ خَلَاصَه

۵۰۳۸. كَسُوْنَا پینا دیا ہم نے

۵۰۳۹. طَرِيقُ رَابِيْنَ

(واحد: طَرِيْقَتَا)

۵۰۴۰. ذَهَابٌ بِيْجَانِيْكُو

۵۰۴۱. ذُهْنٌ چکنائی

۵۰۴۲. صَبِيْعٌ سَابِنٌ

۵۰۴۳. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوَ جَائِي تُو

(برابر ہونا)

۵۰۴۴. مَبْتَلِيْنَ اَزْمَانِشِ كَرِيْمُوْا

۵۰۴۵. اَنْزَمْنَا دَوْلَتِ دِيْ هَمِ نِي

۵۰۴۶. اِنزَامُ دَوْلَتِ دِيْنَا،

عیس دینا

۵۰۴۷. هَيِّفَاتٌ نَامِكُنْ، ہونہیں سکتا

۵۰۴۸. عَنَاءٌ خَسْ وَخَاشَاكُ،

ریزہ ریزہ

بَارَةُ مَبْرُورٍ (۱۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۴۹. تَتَرَا يَكِيْ بَعْدُ دِيْ كَرِيْمِيْ،

مَسَل

۵۰۵۰. رَا بُوْةٌ يَبْلَدُ جَلَدٌ

۵۰۵۱. زَبْرًا نَكْرَطِيْ

۵۰۵۲. غَمْرَةٌ غَفْلَتِ، چکر

۵۰۵۳. جَعْدٌ فَرِيَادُ كَرِيْمَا

۵۰۵۴. تَنْكِيْضُوْنَ اَنْتِيْ بَحَا كَيْ تَمِ

(نك ص)

۵۰۵۵. سَمِيْرَا اِفْسَانُ كُوْنِيْ كَرِيْمَا

۵۰۵۶. تَهْجُرُوْنَ يَهُودِيْهٖ بِيْ كُوْا سِ كَيْ تَمِ

۵۰۵۷. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوَ جَائِي تُو

(برابر ہونا)

۵۰۵۸. مَبْتَلِيْنَ اَزْمَانِشِ كَرِيْمُوْا

۵۰۵۹. اَنْزَمْنَا دَوْلَتِ دِيْ هَمِ نِي

۵۰۶۰. اِنزَامُ دَوْلَتِ دِيْنَا،

عیس دینا

۵۰۶۱. هَيِّفَاتٌ نَامِكُنْ، ہونہیں سکتا

۵۰۶۲. عَنَاءٌ خَسْ وَخَاشَاكُ،

ریزہ ریزہ

سُوْرَةُ التَّوْرِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۰۶۳. قَائِلٌ كَبْنِيْ وَالَا

۵۰۶۴. اَنْسَابُ رَشِيْتِيْ، نَلَطُ

۵۰۶۵. تَلْفَحُ جُهْلَسُ دِيْ كِي

۵۰۶۶. كَالْحُوْنِ بِرَشِكْلِ

۵۰۶۷. عَادِيْنَ كَنْتِيْ كَرِيْمُوْا

۵۰۶۸. عَبْنَا بِيْ فَا تَدِيْ

۵۰۶۹. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوَ جَائِي تُو

(نك ص)

۵۰۷۰. سَمِيْرَا اِفْسَانُ كُوْنِيْ كَرِيْمَا

۵۰۷۱. تَهْجُرُوْنَ يَهُودِيْهٖ بِيْ كُوْا سِ كَيْ تَمِ

۵۰۷۲. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوَ جَائِي تُو

(برابر ہونا)

۵۰۷۳. مَبْتَلِيْنَ اَزْمَانِشِ كَرِيْمُوْا

۵۰۷۴. اَنْزَمْنَا دَوْلَتِ دِيْ هَمِ نِي

۵۰۷۵. اِنزَامُ دَوْلَتِ دِيْنَا،

عیس دینا

۵۰۷۶. هَيِّفَاتٌ نَامِكُنْ، ہونہیں سکتا

۵۰۷۷. عَنَاءٌ خَسْ وَخَاشَاكُ،

ریزہ ریزہ

۵۰۷۸. اِسْتَوِيْتِ سَوَارِ هُوَ جَائِي تُو

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۰۷۶. تَلْقَوْنَ لِيْتُمْ رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكُمْ
 ۵۰۷۷. هَيَّا آسَانَ
 ۵۰۷۸. تَشِيْعٌ يَّحْمِلُ جَائِزَةً

النصف

۵۰۷۹. لَا يَأْتِي فِيهَا مَن يَخْتَصِمُ
 ۵۰۸۰. قَسْمًا مِّمَّا
 ۵۰۸۱. مَبْرُؤُونَ بِرَبِّهِمْ

۵۰۸۲. تَسْتَأْذِنُوا أَجَازَةً
 ۵۰۸۳. مَبْرُؤُونَ بِرَبِّهِمْ سَكُنْتَ وَالسَّكُنُوتِ
 جہاں کوئی رہتا رہتا

۵۰۸۴. عَصُفٌ يَّجِي رُكْحًا
 ۵۰۸۵. لَا يَبْدِي بَيْنَ نَهْطِهِمْ
 ۵۰۸۶. بَعُوْدَةً شَوْهَرًا

۵۰۸۷. مَبْرُؤُونَ بِرَبِّهِمْ سَكُنْتَ وَالسَّكُنُوتِ
 کی حاجت نہ رکھتے
 ہوں۔
 ۵۰۸۸. طِفْلٌ يَّجِي

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۰۸۹. عَمْرٍَاتٍ يَّحْمِلُ
 ۵۰۹۰. أَيَّامِي يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ
 ۵۰۹۱. أَمَاءٌ لَّوْنِيَّاتٍ
 (واحد: أَمَةٌ)

۵۰۹۲. قَلِيْبَاتٍ بَاتِيَّاتٍ
 ۵۰۹۳. نَعَاءٌ بَدَايِي
 ۵۰۹۴. تَحَصَّنَا يَأْكُلُ دَامِنًا مَّحْفُوظًا
 ۵۰۹۵. عَرَضٌ أَسْبَابُ

۵۰۹۶. مَشْكُوَةٌ طَائِقٌ
 ۵۰۹۷. مَصْبَاحٌ فَنَافِيسٌ
 ۵۰۹۸. مَرَجًا جَدَّةً شَيْشَةً

۵۰۹۹. كَوْكَبٌ تَارَهُ
 ۵۱۰۰. دُرِّيٌّ يَجْمَلُ
 ۵۱۰۱. يَوْمَئِذٍ رُشْنٌ يَّجِي

۵۱۰۲. مَرِيْتٌ تَيْلٌ
 ۵۱۰۳. يَضِيْبِيٌّ فَوْجٌ رُشْنٌ يَّجِي
 ۵۱۰۴. تَرْفَعٌ بَلَدٌ كَعْبِيَّاتٍ
 ۵۱۰۵. تَتَقَلَّبُ أَلْطُفَاتٍ كَعْبِيَّاتٍ

۵۱۰۶. مَرِيْتٌ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ
 چمکتی ریت جو دور
 سے پانی کی طرح پگھلے

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 اور اُس پانی کا
 دھوکا ہو۔
 ۵۱۰۷. قِيْعَةٌ مِيْدَانٌ
 ۵۱۰۸. ظَنَانٌ يَّيَاسٌ
 ۵۱۰۹. لُجِّيٌّ كَهْرًا عَيْقٌ
 ۵۱۱۰. لَمَّا يَكْدُ نَهْنِهٌ قَرِيْبٌ يَوْمًا

۵۱۱۱. مَرَكَا مَاتِيَّةٌ يَوْمًا
 ۵۱۱۲. وَدَقٌّ بَارَشٌ
 ۵۱۱۳. خَلَلٌ يَجِي
 ۵۱۱۴. بَرْدٌ قَهْدًا

۵۱۱۵. سَنًا يَجِي
 ۵۱۱۶. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۱۷. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۱۸. يَحِيْفٌ نَانًا نَهْنِهٌ كَرِيْمًا

۵۱۱۹. سَنًا يَجِي
 ۵۱۲۰. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۱. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۲. يَحِيْفٌ نَانًا نَهْنِهٌ كَرِيْمًا

۵۱۲۳. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۴. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۵. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۶. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

۵۱۲۷. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۸. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۲۹. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۳۰. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

الثلثة

۵۱۳۱. يَسْتَحْلِفُونَ خِلَافَتِ دَعَا
 ۵۱۳۲. مَعْجَزِينَ عَاجِزِينَ كَرِيْمًا

سُورَةُ التَّوْرَةِ (۲۳)

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۱۳۳. يَسْتَأْذِنُ أَجَازَةً
 ۵۱۳۴. يَسْتَأْذِنُ أَجَازَةً
 ۵۱۳۵. حُلْمٌ عَدْلُوعٌ
 ۵۱۳۶. تَضَعُونَ أُمَّارًا كَهْفًا
 ۵۱۳۷. نَهْنِهٌ دَوْبَهُرٌ
 ۵۱۳۸. أَطْفَالٌ رَطْبَةٌ
 ۵۱۳۹. قَوَاعِدٌ يَجِي
 ۵۱۴۰. عَمْرٍَاتٍ يَوْمَئِذٍ
 ۵۱۴۱. نَكَاحٌ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۲. نَهْنِهٌ كَرِيْمًا

۵۱۴۳. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۴. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۵. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۶. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

۵۱۴۷. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۸. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۴۹. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۰. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

۵۱۵۱. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۲. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۳. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۴. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

۵۱۵۵. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۶. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۷. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۵۸. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

۵۱۵۹. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۶۰. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۶۱. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا
 ۵۱۶۲. مَدَنِيْنَ كَرِيْمًا

پارہ نمبر (۱۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۳۳۔ شَانُ كَامٍ
۵۱۳۴۔ يَسْتَلْزُونَ كَهْسَكَ جَاتے ہیں
۵۱۳۵۔ تَسَلَّلْنَ كَهْسَكَ جانا
۵۱۳۶۔ لَوَاذِا نَظَرَ بَچا کر

الفرقان (۲۵) سورۃ

۵۱۳۷۔ نَسْتُوْرًا جی اٹھنا
۵۱۳۸۔ اَعَانَ اِعانت کی
۵۱۳۹۔ تَمَلَّى اِملا کروائی جاتی ہیں
۵۱۴۰۔ يَغْتَسِي جلتا ہے
۵۱۴۱۔ اَسْوَأَ بازار
(واحد: سَوِيٌّ)
۵۱۴۲۔ تَصُوْرًا محل
۵۱۴۳۔ تَغِيْظًا جوش، غصہ
۵۱۴۴۔ ضِيْقًا تنگ

سورۃ الفرقان (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۳۵۔ مَقْرَبِينَ جکڑے ہوتے،
ایک ساتھ کئی
بندھے ہوتے۔
۵۱۳۶۔ تَبُوْرًا ہلاکت، ناس،
بربادی، کھینچی۔
۵۱۳۷۔ اَصْلَلْتُمْ گمراہ کیا تم نے
۵۱۳۸۔ بُوْرًا برباد، غارت پونولے

پارہ نمبر (۱۹)

۵۱۳۹۔ حَجْرًا آڑ، پناہ گاہ، بند
۵۱۴۰۔ هَبَاءً ریت
۵۱۴۱۔ مَنَّوْرًا پراگندہ
۵۱۴۲۔ مَقْبِلًا دو پہر کے وقت
آرام کرنا۔
۵۱۴۳۔ قِيلُوْدًا قیلوہ کرنا
۵۱۴۴۔ غَمَامًا بدلی

پارہ نمبر (۱۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۴۳۔ يَعْصُ كَاٹ کھاتے گا
۵۱۴۴۔ مَهْجُوْرًا چھوڑا ہوا
۵۱۴۵۔ تَرْتِيْلًا تھم تھم کر
۵۱۴۶۔ تَفْسِيْرًا تفسیر، کھول کر
دھناحت
۵۱۴۷۔ دَمْرًا ہلاک کرنا
۵۱۴۸۔ اَصْحَابِ الرَّبِّ كُنُوْسٍ وائے
۵۱۴۹۔ تَبْيِيْرًا توڑ پھوڑ کر دینا
۵۱۵۰۔ ظِلٌّ سایہ
۵۱۵۱۔ دَلِيْلًا علامت
۵۱۵۲۔ سُبَاتًا آرام کا سبب
۵۱۵۳۔ مَرَجٌ ملا دیا
۵۱۵۴۔ عَدَبٌ میٹھا
۵۱۵۵۔ فِرَاتٌ پیاس بچھانے والا
۵۱۵۶۔ مَلْحٌ کڑوا (نمکین)
تیز،
چھانی جلا دینے والا
۵۱۵۷۔ بَرَزَخٌ آڑ
۵۱۵۸۔ نَسِيْبًا ناطے، خاندان

سورۃ الفرقان (۲۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۱۴۱۔ صِهْرًا سسرال
۵۱۴۲۔ بِرَاجٍ چراغ
۵۱۴۳۔ خِلْفَةً آگے پیچھے آئیوں
۵۱۴۴۔ يَمْشُونَ چلتے ہیں
۵۱۴۵۔ هُوْنَا آہستگی،
پُرُوْدًا قار طریقیے پر
۵۱۴۶۔ بَيِّنُوْنَ رات بسر کرتے ہیں
۵۱۴۷۔ غَرَامًا پوری تباہی
۵۱۴۸۔ يَفْتَرُوْنَ تنگی کی
۵۱۴۹۔ قَوَامًا معتدل، درمیانی
۵۱۵۰۔ مَهَانًا رُسوا،
ذلیل
۵۱۵۱۔ غُرْفَةً بالا خانے
۵۱۵۲۔ مَا يَعْجُوْ نہیں پرواہ کرنا
۵۱۵۳۔ لَزَامًا لازم ہونے والا،
چپکنے والا۔

الربح

نمبر شمار عربی آردو

سورة الشعراء (۲۶)

۵۱۸۳. خَضَعِينَ نَبِيَّ كَرُونَ دَانِي
وَالِي.

۵۱۸۴. وَلِيْنَا اِبْرٰهِيْمَ وَآلِيْمَ
۵۱۸۵. مَسْجُوْنِيْنَ قَيْدِيْ لُوْكَ
۵۱۸۶. نَعْبَانَ اَرْدَبَا

۵۱۸۷. اَرْجَبَهٗ طَهِيْلَ دَوَسِ
۵۱۸۸. لَا ضَيْدُ كُوْنِيْ حَرَجَ نَهِيْنَ
۵۱۸۹. شَوْذَمَةَ جَمَاعَتِ كُرُوْسَ
وَالِي.

۵۱۹۰. غَاثِطُوْنَ غَضَبِيْنَ لَا نِيْوَالِي
۵۱۹۱. حٰنُوتُوْنَ بِيْضِ كُرُوْسِ
۵۱۹۲. مَسْرِيْنِ صَبْحِ كَعْبِ مَوْجِ
پُو پھلتے ہی

سورة الشعراء (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۱۹۳. مَدْرُوْنَ يَكْرَعِيْ جَانِيْوَالِي
۵۱۹۴. كَلَّا هِرْكَزِيْنَ
۵۱۹۵. اَنْطٰقِيْ بَهْثَ كِيَا
۵۱۹۶. طُوْدَ بِيْهٰطِ
۵۱۹۷. اَرْلَفْنَا نَزْدِيْكَ كَرِيَا
مہ نے ملا دیا

۵۱۹۸. اَقْلَ مَوْنِ قَدِيْمِ بِيْهَلِ لُوْكَ
۵۱۹۹. يَسْتَفِيْنِ پَانِي پِلَاتَا بِيْ مَجْهِي
۵۲۰۰. اَلْحَقُّ مَلَادَسِ
۵۲۰۱. اَرْلَفْتُ نَزْدِيْكَ كَرِيَا
جائے گی

۵۲۰۲. بَرِيْرَتِ ظَاہِرِ كَرِيَا
۵۲۰۳. كَيْكِيُوَا اَوْنَدَهْ دَالِي كَتِي
۵۲۰۴. صَدِيْقِ دَوَسْتِ
۵۲۰۵. حَبِيْمِ دَسُوْرِي كَرِيْوَالَا

۵۲۰۶. اَرْدَلُوْنَ كَمِ دَرَجِي كِي
لوگ، ذلیل آدمی
۵۲۰۷. طَارِدُ بَانَكْنِي وَالَا
دور رکھنے والا

سورة الشعراء (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۲۰۸. مَرْجُوْمِيْنَ سَنَسَارَكِي كَتِي
النصف

۵۲۰۹. مَشْحُوْنَ بِيْهَرِي بُوْنِي
۵۲۱۰. تَبْتُوْنَ بِنَاتِي بُوْتَمِ
۵۲۱۱. بَرِيْعِ اَوْنِي مَقَامِ
۵۲۱۲. مَصَانِعِ كَارِيْمِي

(کارخانے)
۵۲۱۳. بَطْسَمُ بِيْطَامِ نِي
۵۲۱۴. اَمَلُ اَمَلَا دِي

۵۲۱۵. هُمْنَا يِهَابِ
۵۲۱۶. هَضِيْمُ بُوْجْهِي كِي مَارِي
ٹوٹے پڑتا ہے
۵۲۱۷. فَرِهِيْنَ اَتْرَانِي دَالِي

۵۲۱۸. دُكْرَانِ مَرُو (رجع)
۵۲۱۹. قَالِيْنَ سَخْتِ نَفْرَتِ
کرنے والے
۵۲۲۰. عَجُوْرُ بُوْطَهِيَا

سورة الشعراء (۲۶)

نمبر شمار عربی آردو

۵۲۲۱. اَيْكِيْتِي بِنِ دَالِي
بنو اسی،
اصحاب الایکہ،
ایک قوم کا نام،
جو گھنے جنگلات
میں بستی تھی۔

۵۲۲۲. حَبَلِيَّةُ مَخْلُوْقَاتِ
۵۲۲۳. اَسْقَطُ كَرَادَسِ

۵۲۲۴. اَعْتَجِيْبِيْنَ غِيْرِ عَرَبِي
۵۲۲۵. سَلَكْنَا جِلَادِيَا بِيْمَانِي
۵۲۲۶. مَعْرُوْتُوْنَ رُوْكَ دِي سِي
گئے۔

۵۲۲۷. اِنْنَصْرُوَا بَدَلِيَا
۵۲۲۸. مُنْقَلَبِ جَلِي بِيْرَانِي كِي

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

النمل
سورۃ

۵۲۲۹. ثَلَاثِيٌّ سَكَّاهَا يَأْتِهَا فِي
ذُالْحِجَّةِ

البشلة

۵۲۳۰. شَهَابٌ شَعْلَةٌ
۵۲۳۱. نَسِيسٌ انْكَارُهُ
۵۲۳۲. تَصْطَلُونَ سِينَكُوْتُمْ
۵۲۳۳. بُورِكٌ بَرَكَةٌ دِيْكُمْ -
۵۲۳۴. تَهْتَكُ بِلْتَا هُوَا
۵۲۳۵. جَانٌ سَانٍ
۵۲۳۶. لَمْ يُعْقَبْ نَهِيْسٌ يِجْعَمُ
۵۲۳۷. حَيْبٌ كَرِيْبَانٍ
۵۲۳۸. مَنطِقٌ بُولِيٌّ
۵۲۳۹. يُوْزَعُونَ جَمْعٌ كَرِيْبَانٍ
۵۲۴۰. وَادِيْمَلٌ مِيْدَانٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْ
۵۲۴۱. نَهْلَةٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۲۲۲. لَا يَحْطَبْنَ نَهْ كَيْلٌ دَالِيٌّ
۵۲۲۳. تَبَسَّمٌ مَسْكُرًا دِيَا
(مصدر: تَبَسَّمَ)
۵۲۲۴. ضَا جَا كَا هِنَسْتَا هُوَا
۵۲۲۵. اَوْزَعٌ تَوْفِيْقٌ دَسْ
۵۲۲۶. تَفَقَّدٌ حَا ضَرِيْلِيٌّ جَبْرِيْلِيٌّ
۵۲۲۷. هُدُّ هُدٌّ اِيْكٌ پَرْنَدٌ
۵۲۲۸. سَبَاٌ مَلِكٌ سَبَا اِيْكٌ
مَلِكٌ كَا نَامٌ -
۵۲۲۹. حَبَبٌ جِيُوْنِيْمُوْلُوْ
۵۲۳۰. اَلْقَصْرُ ذَا اَلرَّسِ
۵۲۳۱. قَاطِعَةٌ قَطْعِيٌّ فَيَصِلُهُ
۵۲۳۲. هَدِيَّةٌ تَحْفَةٌ
۵۲۳۳. عَفْرِيْمٌ قَوْمِيٌّ سِيْكَلٌ
۵۲۳۴. يَزْتَكُّ پَهْرًا وَاوَسٌ
لُوْثٌ اَوَسٌ
۵۲۳۵. طَرَفٌ نَهَاةٌ پَلِكٌ
۵۲۳۶. نَكْرُوْدٌ اِنْجَانٌ كَرُوْدٌ
بَدَلٌ دُو
۵۲۳۷. اَلْهَكَدَا اِسْمٌ طَرَحٌ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

۵۲۵۸. نُجَّةٌ كِهْرًا پَانِيٌّ
۵۲۵۹. كَسَفَتْ كِهْلُوْلٌ دِيَا
۵۲۶۰. سَا قِيٌّ پِنْدِيَا دَمْتِيَّةٌ
(واحد: سَا قِيٌّ)
۵۲۶۱. مَهْرَدٌ مَنْدَهَا هُوَا جَبْرًا هُوَا
۵۲۶۲. قَوَارِيْرٌ شِيْشَةٌ
۵۲۶۳. رَهْطٌ جِيَعْمَةٌ دَارٌ
۵۲۶۴. تَفَا سَمُوْدٌ قَسْمٌ كِهَا قُوْ
۵۲۶۵. نَبِيْدَتَنْ هَم رَا تٌ كُوْمَارٌ
ذَالِيْسٌ كَسِيٌّ
۵۲۶۶. مَهْلِكٌ مِلَا كَتٌ كَا وَقْتٌ
۵۲۶۷. اِصْطَفَى مَنطُوْبٌ كِيَا
۵۲۶۸. اَللَّهُ كِيَا اَللَّهُ

سورۃ النمل (۲۹)

نمبر شمار عربی اردو

النمل
سورۃ

۵۲۶۹. حَدَّ اَلْبِقْعُ بَا غَا تٌ
(واحد: حَدَّ اَلْبِقْعَةِ)
۵۲۷۰. ذَا كَتٌ بَهْجَةٌ بَارُوْفِقٌ
۵۲۷۱. دَوَابِيٌّ پِهَارٌ
۵۲۷۲. حَا جَرًا اَرٌ حَرَا فَاصِلٌ
۵۲۷۳. اِدْرَاكٌ بَارْمَانٌ كِيَا
تَهْكٌ كَرْمُخْتَلَفٌ هُوَا كِيَا
۵۲۷۴. رِدْفٌ لَكَا يِجْعَمُ
۵۲۷۵. تَكْسِيٌّ پُوْشِيْدَه سَبِيٌّ
۵۲۷۶. نَقْصٌ پِيَانٌ كَرْتَا هِيٌّ
۵۲۷۷. اَمَّا ذَا اِيَا كِيَا
۵۲۷۸. فَرِيْعٌ بِيْ هُوْشٌ
۵۲۷۹. اِدَا خِرِيْنٌ ذَلِيْلٌ
۵۲۸۰. جَا مِدَةٌ جَعِيٌّ هُوْتِيٌّ
۵۲۸۱. كُبْتٌ اَوْنَدَهٌ دَالِيٌّ كَسِيٌّ

پارہ نمبر (۲۸)

نمبر شمار عربی اردو

القاصص سورۃ

۵۲۸۲-ہامان فرعون کے وزیر

کا نام

۵۲۸۳-أرضعی دودھ پلا

۵۲۸۴-ألقط اٹھالیا

۵۲۸۵-فراغاً خالی صبر سے

۵۲۸۵-فصی خبر نکال

۵۲۸۶-جئب دُور سے،

کروٹ سے

۵۲۸۷-أذل خبر دوں

۵۲۸۸-استغاثۃ فریاد کرنا

۵۲۸۹-استغاثۃ فریاد کی

۵۲۹۰-وکنر گھونسا مارا

۵۲۹۱-یترقب بھید لیتا ہوا،

خطرہ بھانپتا ہوا

الربح

سورۃ القاصص (۲۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۲۹۲-أمس کل رگزشتہ

۵۲۹۳-یستصرخ پکارتا ہے

چیتا ہے

۵۲۹۴-یبطش ہاتھ بڑھایا

(پکڑنا)

۵۲۹۵-أقصی دُور، کنارے

۵۲۹۶-یسعی دوڑتے ہوئے

۵۲۹۷-یاأمرؤن مشورہ کرتے

ہیں، حکم جاری

کرنے والے ہیں۔

۵۲۹۸-أوجیہ رُخ کیا، ہو گیا

۵۲۹۹-تلقاء طرف

۵۳۰۰-تذذذ ذذ وہ دو عورتیں

الگ رُک کھڑی ہیں

۵۳۰۱-یصدن پھیرتے جاتے

۵۳۰۲-رعاء چرواہے

(جمع ذاعی کی)

۵۳۰۳-استیحیاء شرماتے ہوئے

۵۳۰۴-استأجر مزدور رکھے،

نوکر رکھے

پارہ نمبر (۲۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۳۰۵-إجدی کوئی ایک

۵۳۰۶-هاتین یدوونوں

۵۳۰۷-حجج برس

(واحد: حجۃ)

۵۳۰۸-أینما چونس بھی، کوئی بھی

چ

۵۳۰۹-سار لے چلا

۵۳۱۰-جد ذہ چنگاری

۵۳۱۱-شاطیء کنارے

۵۳۱۲-بقعۃ مقام

۵۳۱۳-ذینک یدو

۵۳۱۴-أفصح زیادہ فصیح، رواں

۵۳۱۵-ردأ ساقی،

تائید کرنے والا

۵۳۱۶-نشأ ہم مضبوط کر دینگے

۵۳۱۷-عضدۃ بازو، قوت

۵۳۱۸-لا یصلون نہ پہنچ سکیں گے

۵۳۱۹-أوقیل آگ تیار کر،

بھٹی لگا

۵۳۲۰-مقبوحین برائی کئے گئے،

قیاحت سے دیکھے گئے

سورۃ القاصص (۲۸)

نمبر شمار عربی اردو

۵۳۲۱-طاول دراز ہونی،

طویل ہونی

۵۳۲۲-ثاویا رہنے والا

۵۳۲۳-وصلنا پے در پے کیا ہم نے

لگاتار بھیجا ہم نے

النصف

۵۳۲۴-لا یبتغی ہم نہیں چاہتے

۵۳۲۵-تتحطف ایک لیے جائیں ہم

۵۳۲۶-بطرت اتر گئی،

اترنے لگی۔

۵۳۲۷-یختار پسند کرتا ہے

۵۳۲۸-یحیرۃ اختیار

۵۳۲۹-سوی مدۃ ہمیشہ

۵۳۳۰-ضیاء روشنی

۵۳۳۱-تذوع تمکادی

۵۳۳۲-حسقنا دھنسا دیا ہم نے

پارہ نمبر (۲۹)

نمبر شمار عربی آردو
 ۵۳۳۳. دُفِکَانَ تَجِيبَ هِيَ كَمْ،
 بات یوں ہے کہ
 ۵۳۳۲. فَرَضَ فَرَضًا لَمْ يَكُنْ
 فرض کیا، حکم کیا
 ۵۳۳۵. رَأَى لَوْ طَانَةَ وَاللَّهِ
 لو طانے والا
 ۵۳۳۴. مَعَادٍ وَايَسَ جَانِي كَيْ جَلَدٍ
 مقام عظمت
 ۵۳۳۴. تَوَجَّهُوا أُمِيدًا كَرْتَا هِيَ لَوْ
 امید کرتا ہے لَوْ

الثلة

العنكبوت (۲۹)

۵۳۳۸. كَلَامٍ ضَرُورًا تَلَا
 ضرور آنے والا
 ۵۳۳۹. أُوذِيَ سَتَا يَأْتَا تَابَا
 ستا یا جاتا ہے
 ۵۳۳۰. يَنْبَغِي يَنْبَغِي
 پیدا کرتا ہے
 (مصدر: انشاء)

سورة العنكبوت (۲۹)

نمبر شمار عربی آردو
 ۵۳۳۱. تَقْلِبُونَ لَوْ طَانَ تَرَجَاوَكَمْ
 ۵۳۳۲. حَرَّ قَوْلًا جَلَا دَاوَلُو
 ۵۳۳۳. نَادَى مَجْلِسًا
 ۵۳۳۴. سَبَّحَ نَاوُشَ هُوَا
 ۵۳۳۵. ذَرَعًا دَلَّيْ
 ۵۳۳۶. رَجَعَةً زَلْزَلَةً بَجُو نَجَالٍ
 ۵۳۳۷. مُسْتَبْصِرِينَ بَصَارَتِ رَكْحَلَيْ
 ہوشیار
 ۵۳۳۸. صَبِيحَةً دَهَاكِرَ بُولُنَاكِ دَاوَا
 ۵۳۳۹. عَنكَبُوتٍ كَمْوِي
 ۵۳۴۰. أُوْهِنَ بِهَيْتِ كَمْوَرٍ
 یہاں تک لٹرنے آپ کو اپنی کتاب کے الفاظ
 یاد کر دیتے یہ اس کا فضل ہے اب تک
 رکوع کے نمبر دیتے جاتے تھے لیکن اب
 چونکہ آگے الفاظ کم ہوتے جاتے اس لئے
 رکوع کے نمبر دینا ممکن نہیں اب پاؤ آدھے
 پون کے نشانات حسب سابق دئے جائینگے جو صرف
 پائے کے نشانات ہوں گے۔ (مؤلف)

پارہ نمبر (۳۰)

نمبر شمار عربی آردو

پارہ نمبر (۳۰)

۵۳۴۱. تَنْهَى رَوَاكِرَ رَكْحَلَيْ هِيَ
 منع کرتی ہے
 ۵۳۴۲. لَا تَحْطُ نَهَيْسَ لَكَمْ تَاوَا
 (مصدر: حط)

الروم (۳۰)

۵۳۴۳. غُلِبَتْ مَغْلُوبًا كَرَدَيْ
 گئے، ادب گئے
 ۵۳۴۴. أَدْنَى الْأَرْضِ قَرِيبِي مَوْقِعَ عِلَاقَةِ
 یا ٹلک، سرحد کے
 قریب لگتی زمین۔
 ۵۳۴۵. سَبَّحْتَ لَوْ طَانَ ابْ غَالِبًا هَيْتَكَمْ،
 عقرب غائب ہو گئے،
 ہوں گے۔

سورة الروم (۳۰)

نمبر شمار عربی آردو

۵۳۴۱. أُنْزِلُوا بُوِيَا، جُوَا
 ۵۳۴۲. عَبَدُوا آبَادِكَمَا، بَارُوَقِي
 بنایا۔
 ۵۳۴۳. رَوَّضَةَ بَارِغٍ
 ۵۳۴۴. يُخْبِرُونَ بِنَاوَا كَرْتَا هَيْتَكَمْ
 آؤ بھگت کی جائیگی
 استقبال کیا جائیگا
 ۵۳۴۵. تَمَسُّونَ شَامًا كَرْتَا هُوَا
 (مساءً: شام)
 ۵۳۴۶. تُظْهِرُونَ دُوْبَهْرًا كَرْتَا هُوَا
 (ظہر): دوپہر
 ۵۳۴۷. تَنْتَشِرُونَ جَلَتَا پَهْرَتَا هُوَا
 پھیلے ہوتے ہو
 ۵۳۴۸. أُهْوَنَ بِهَيْتِ آسَانٍ

الربع

۵۳۴۹. مُنْبَغِي رُجُوعًا هُوَا تَوَالِي
 ۵۳۵۰. وَجْهَ اللَّهِ الشَّرِي رِضَا
 ۵۳۵۱. رِيَا سُوْدًا، بِيَا جِ
 ۵۳۵۲. يَزْبُو بَرُطًا جَاتَا
 ۵۳۵۳. لَا يَزْبُو لَا يَبِي بَرُطًا كَاتَا

پارہ نمبر (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۴۹. یُكْفِدُ عُوْنٌ جِدًا جِدًّا هُوْنَ كَے
۵۳۵۰. يَهْمِدُونَ أَرَاْسَهُ كَرِهَے ہيں
سنوارتے ہيں

۵۳۵۱. تُثْبِتُ اُٹھاتی ہے

۵۳۵۲. وَذُنُّ بارسش

۵۳۵۳. مُمْضِعًا زرد

۵۳۵۴. مَضَعًا ناٹوانی،

کمزوری

۵۳۵۵. شَيْبَةً بڑھاپا

۵۳۵۶. يَسْتَعْبِدُونَ عذر قبول کتے

جائیں

(ع ت ب)

۵۳۵۷. لَا يَسْتَجِيفَنَّ زَبْرَدًا شَرِيًّا

کرنے پائیں

اُچھال نہ دیں

سُورَةُ لُقْمَانَ (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

سُورَةُ لُقْمَانَ (۳۱)

۵۳۷۸. لَقَدْ جَاءُوكَ بِالْحَقِّ لَعْنَةُ الْكٰفِرِيْنَ كَرْنِے والی

بات۔

۵۳۷۹. عَمِدٌ سَئِدٌ

النصف

۵۳۸۰. خَرَجَ ذَلَّ رَانِي

۵۳۸۱. صَخْرَةً پتھر

۵۳۸۲. عَرَبًا الْأُمُورِ بِمَمْتِ كَے كام

۵۳۸۳. لَا تَصْعَقْ مَت موڑ،

گال نہ پھللا

۵۳۸۴. نَحْدًا گال

۵۳۸۵. مُخْتَالًا شیعنی گھارنیوالا

۵۳۸۶. اِقْصِدْ درمیانی چال کر

۵۳۸۷. اَنْكُرُ بہت ناپسند

۵۳۸۸. صَوْتٌ آواز

(جمع: اَصْوَاتٌ)

۵۳۸۸. اَسْبَغَ پورا کیا

پارہ نمبر (۳۱)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۳۸۹. مُقْتَصِدٌ اعتدال پر،

درمیانی راہ پر

۵۳۹۰. نَحَّاسٌ عہد کو توڑنے والا

۵۳۹۱. بَجَائِنٌ کفایت کرنے والا

کام آنے والا

۵۳۹۲. غَيْثٌ بارش، مینہ

۵۳۹۳. غَدَاً آنے والا کُل

۵۳۹۴. مَا تَنْزِيحِيْ نہیں جانتا

السُّجْدَةُ (۳۲)

۵۳۹۵. تَبَجَّافِيْ عَلِيْحِدْرَ ہوتی ہیں

۵۳۹۶. نَسُوْقُ ہم پہنچاتے ہیں

ہم ہانک دیتے

ہیں۔

الثلاثة

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

السُّورَةُ الْاٰحْزَابِ (۳۳)

۵۳۹۷. جَوْفٌ پہلو، سینہ

۵۳۹۸. اَوْذَىٰ بہت تعلق کا حقدار

۵۳۹۹. مَسْطُوْرًا لکھا ہوا

(س ط ر)

۵۴۰۰. حَنَاجِرٌ نرے، گلے

۵۴۰۱. اُبْشِيْرٌ آزما یا گیا

۵۴۰۲. يَتْرِبُ مدینہ طیبہ کا

پُرانا نام

۵۴۰۳. اِقْطَارٌ اطراف

(واحد: قَطْرٌ)

۵۴۰۴. مَا تَلْبَسُوْنَ ہمیں ٹھہریں

۵۴۰۵. مَعْوِفِيْنَ روکنے والے،

رُکاوٹ ڈالنے والے

۵۴۰۶. هَلْمٌ چلے آؤ

۵۴۰۷. اَشْحَاةٌ بخیلی، کنجوسی

۵۴۰۸. تَدْوِيْرٌ گھومتی ہے چکراتی ہیں

پارہ نمبر (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۰۹۔ جَلَّادٌ تیز تیز
۵۴۱۰۔ يَادُؤُنْ باہر ہنسنے والے،
باویہ نشین،
جنگل میں رہنے والے
۵۴۱۱۔ اَعْدَابٌ دیہاتی، کنوار
۵۴۱۲۔ نَحْبٌ نذر، منت،
ارمان۔
۵۴۱۳۔ صِيَاصِي قلعے، گڑھیں
۵۴۱۴۔ قَدَافٌ ڈال دیا
۵۴۱۵۔ نَطَوُّ قدام رکھا تم نے
۵۴۱۶۔ سَوَاحَا رخصت کرنا

پارہ نمبر (۲۳)

۵۴۱۷۔ تَبْرُجٌ بناؤ سنگھار
۵۴۱۸۔ وَطْرًا حاجت
۵۴۱۹۔ رَوَّجْنَا بیاہ کر دیا ہم نے
۵۴۲۰۔ اَذْعِيَاءٌ مند بولے،
لے پالک

سورۃ الاحزاب (۳۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۲۱۔ اَيُّهَا باپ
۵۴۲۲۔ يٰصَبْرٌ رحمت بھیجتا ہے
۵۴۲۳۔ دَعٌ نظر انداز کر دے
۵۴۲۴۔ اِنْفَاءٌ پھیر دیا،
مال غنیمت دیا
۵۴۲۵۔ تَرْجِيٌ ڈھیل دیوے تو
۵۴۲۶۔ تَوَسُّيٌ توجھ دیتا ہے،
واپس طلب کر لیتا
ہے۔
۵۴۲۷۔ عَزَلْتِ ایک طرف کر دیا
تو نے، کنارے
کر دیا۔
۵۴۲۸۔ رَوِّيْبًا نگہبان
۵۴۲۹۔ اِنَّا کینا
دکھانے کا پلٹنا)
۵۴۳۰۔ مُسْتَبْسِئِينَ جی لگا کر بیٹھنے
والے۔
۵۴۳۱۔ يٰصَبْرُونَ رحمت بھیجتے ہیں
۵۴۳۲۔ صَلُّوْا درود بھیجو،
رحمت بھیجو
۵۴۳۳۔ سَلِّمُوْا سلام بھیجو

پارہ نمبر (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۳۴۔ تَسْلِيْمًا فرمانبرداری بن کر
۵۴۳۵۔ يٰدِيْنِيْنَ نزدیک کریں،
لٹکالیں،
گھونگھٹ نکالیں
۵۴۳۶۔ جَلَّابِيْبٌ چادریں
۵۴۳۷۔ مُرْجِفُوْنَ افواہ پھیلانے والے
۵۴۳۸۔ نَغْرِيْنَ ہم مسلط کر دیں گے
۵۴۳۹۔ لَايَجَاوِزُوْنَ نہیں پڑوس میں
رہ سکیں گے۔
۵۴۴۰۔ مَلْعُوْنِيْنَ لعنت کئے ہوئے،
پھٹکارے ہوئے
۵۴۴۱۔ تَفْقُوْا پاتے جاتیں
۵۴۴۲۔ تَعْتِيْلًا کچل کر مار دے گئے

الرَّبِيع

۵۴۴۳۔ مَايِدْرِيْكَ تھے کیا معلوم
۵۴۴۴۔ سَادَتْنَا ہمارے سردار
۵۴۴۵۔ كِبْرِيَآءُنَا ہمارے بڑے
۵۴۴۶۔ سَدِيْدٌ سیدھی،
ٹھیک

سورہ سبأ (۳۴)

نمبر شمار عربی اردو

سَبَا

۵۴۴۷۔ لَايَعْرُبُ نہیں پوشیدہ
۵۴۴۸۔ مُمَرِّقٌ ریزہ ریزہ
۵۴۴۹۔ اَوْتِي رجون ہو جاؤ
۵۴۵۰۔ اَلْتَا نرم کر دیا ہم نے
۵۴۵۱۔ سَبِغَتْ زریں، کوچ
۵۴۵۲۔ قَدِرٌ پکا کرو، مضبوط
صحیح اندازہ رکھو
۵۴۵۳۔ سَوْدٌ جوڑنا
۵۴۵۴۔ غَدْرُهَا صبح کی سیراس کی
۵۴۵۵۔ رَوَّحُهَا شام کی سیراس کی
۵۴۵۶۔ اَسْلَنَّا بہا دیا ہم نے
۵۴۵۷۔ عَيْنِ الْقَطْرِ پھلے ہوئے تانبے کا
چشمہ
۵۴۵۸۔ مَحَارِبٌ بڑے بڑے قلعے
ادنیٰ محراب والی
عمارتیں۔
۵۴۵۹۔ تَمَاتِيْلٌ تصویریں،

سورۃ سبأ (۳۴)

نمبر شمار عربی اُردو

ڈزائن، نقشے
(واحد: تیشال)
۵۴۶۰۔ جَفَان لگن، تھال،
بڑے پیالے
۵۴۶۱۔ جَوَاب تالاب، حوض
۵۴۶۲۔ قُلُور دگیں
(قُلُور: واحد)
۵۴۶۳۔ مَرَسِلَت ایک جگہ گڑھی ہوئی،
رکھی ہوئی
۵۴۶۴۔ مَسْأَلَت عَصَا اَس کا
۵۴۶۵۔ سَبِيلُ الْعَرَم بہاؤ، زور کا
سیلاب
۵۴۶۶۔ ذَوَائِیْ والے (دووں باغ)
۵۴۶۷۔ اُكُل میوہ
(دو باغ میوہ دار)
۵۴۶۸۔ حَمِطٌ بد مزہ، کڑوے
۵۴۶۹۔ اَتْلُ جھاڑ، جھاک
۵۴۷۰۔ سِدْرٌ شیری
۵۴۷۱۔ قُرْعٌ گھراہٹ ڈور کی
گتی
۵۴۷۲۔ الْحَقَمَةُ ملایا تم نے

سورۃ سبأ (۳۴)

نمبر شمار عربی اُردو

النصف

۵۴۷۳۔ مَوْتُوْنُ مَوْتُوْنُ کھڑے کئے جائیں گے
۵۴۷۴۔ عُرْفَات بِالافانے
۵۴۷۵۔ يُخْلِِفُ عوض دیتا ہے،
بدلہ دیتا ہے
۵۴۷۶۔ مِعْشَار دسواں حصہ
عشر۔
۵۴۷۷۔ يَقْنَنُ ڈال دیتا ہے،
چوٹ لگاتا ہے
پھینک دیتا ہے
۵۴۷۸۔ فِرْعَوُا گھبرائے
۵۴۷۹۔ لَأَنْوَتَ نہیں پہنچنے کا موقعہ
(نہیں چھوٹے ہے)
۵۴۸۰۔ تَنَّاوَشَ پہنچ، ہاتھ آنا،
حصول۔
۵۴۸۱۔ اَسْيَاع ہم خیال گروہ،
پیشوا،
پیش رو

سورۃ الفاطر (۳۵)

نمبر شمار عربی اُردو

الفاطر سورۃ

۵۴۸۲۔ اُوْنِیْ اَجْبَحْتَهُ زیا دہ پر، پنکھ دالے
(واحد: جَنَاحُ)
۵۴۸۳۔ يَصْعَدُ پہنچتا ہے
۵۴۸۴۔ يَبُورُ ہلاک ہو جائے گا
۵۴۸۵۔ عَنَبٌ میٹھا، ہلکا اور
خوشگوار پانی،
خوشگوار، لذیذ
زودہ، مضمک کھانا۔
۵۴۸۶۔ قُرَاتٌ نفیس و شیریں
میٹھا پانی۔
۵۴۸۷۔ طَوِيًّا تازہ
۵۴۸۸۔ قَطْمِيرٌ کھجور کی گھلی کا چھلکا

الثلثه

۵۴۸۹۔ مُثَقَلَةٌ بوجھ والی
۵۴۹۰۔ حَرُورٌ دھوپ
۵۴۹۱۔ خَلَا ہو گزرا

سورۃ الفاطر (۳۵)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۴۹۲۔ جَدُّ نکلے، حصے
۵۴۹۳۔ بَيْضٌ سفید
۵۴۹۴۔ حَمْرٌ سرخ
۵۴۹۵۔ عَرَابِيْبٌ بھونگ
گہکے سیاہ
۵۴۹۶۔ سُودُ کالے
۵۴۹۷۔ لَنْ تَبُوْرَ ہرگز برباد نہ ہوگی
۵۴۹۸۔ نُعُوْبٌ تھکان
۵۴۹۹۔ يَصْطَرُخُوْنَ چیخ ماریں گے
(ص: سرخ)
۵۵۰۰۔ مَقْنَا ناراضی
۵۵۰۱۔ اَنْ تَرُوْا کہ ڈھلک نہ
جائیں
۵۵۰۲۔ زَالَتَا ڈھلک گئے
دونوں

پارہ نمبر (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ یاسین (۳۶)

۵۵۰۳. مُفْجِرُونَ جگر پی ہوئی گردن

والے۔

۵۵۰۴. اَنْتَارُ نشانیاں

۵۵۰۵. اُخْصِيْنَا شِمَارُ کر رکھا ہم نے

۵۵۰۶. اَمَّا مِثْقَالُ سَائِنِ واضع

۵۵۰۷. عَزْرًا نَا قُوَّتِ دمی ہم نے

پارہ نمبر (۳۳)

۵۵۰۸. لَا يَنْفَعُ وَّنَ نَهِيں چھڑا سکیں

گے مجھ۔

۵۵۰۹. لَكَا بِنَا ہمارے نزدیک

۵۵۱۰. نَسْتَحُ اتار لیتے ہیں

۵۵۱۱. مُطْلَمُونَ اندھیرے میں رہ

گئے وہ۔

سورۃ یس (۳۴)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۵۱۱. تَقْلِيْدُو اندازہ

۵۵۱۲. عَادَ ہو گیا (لوٹنا)

۵۵۱۳. عُرْجُوْنَ شاخ، ٹہنی

۵۵۱۴. قَدِيْمَه قديم، پرانی

۵۵۱۵. يَسْبُحُوْنَ تیرتے ہیں

۵۵۱۶. صَيْبِيْحَ فرياد رس

۵۵۱۷. يَخْضِبُوْنَ لوطے جھگڑتے

ہوں گے وہ۔

۵۵۱۸. تَوْصِيَّهٖ وصيت کرنا

۵۵۱۹. اَجْدَاثِ قبریں

۵۵۲۰. يَنْسِلُوْنَ دوڑتے ہوں گے

۵۵۲۱. مَرَقَدَا سونے کی جگہ،

خواب گاہ، قبر

۵۵۲۲. فِي شُغْلٍ مشغولوں میں

۵۵۲۳. لَهْفُوْنَ لذت حاصل

کرنے والے

۵۵۲۴. فَالْكِهْفَةِ "ميوہ

۵۵۲۵. اِمْتَا زُوْا جلا ہو جاؤ

۵۵۲۶. حَبِيْلًا مخلوقات،

بھاری گروہ

۵۵۲۷. اَصْلُوْا داخل ہو جاؤ

پارہ نمبر (۳۳)

نمبر شمار عربی اُردو

۵۵۲۸. طَمَسْنَ مٹا دینا، مٹا بیٹھ

کردینا۔

۵۵۲۹. مَسْحَ صورت بدل

دینا۔

۵۵۳۰. نُنْكَسْنَ ہم کڑا بنا دیتے

ہیں۔

۵۵۳۱. مَا يَنْكِبُنِيْ نہیں مناسب،

نہیں لائق

۵۵۳۲. ذَلَّلْنَا تاج کر دیا ہم نے،

قابو میں دیا ہم نے

۵۵۳۳. رُكُوْبِ سواری

۵۵۳۴. رَمِيْمٍ بوسیدہ،

گلی ہوئی

۵۵۳۵. اُخْطَرُوْا گہری سبزر

۵۵۳۶. تُوْقِدُوْنَ تم روشن کرتے ہو،

جلا تے ہو۔



سورۃ الصفت (۳۷)

نمبر شمار عربی اُردو

الصفت سورۃ

۵۵۳۷. نَجْرَاتِ روکنے، منج کرنے،

دفع کرنے، ڈانٹنے

والی۔

۵۵۳۸. زَجْرًا ڈانٹنا، روکنا،

منج کرنا، دفع کرنا

۵۵۳۹. تَلْوِيْتِ تلاوت کرنیوالے

۵۵۴۰. دُخُوْرًا دھکے دیئے جانا

۵۵۴۱. وَاَصْبِ دانی

۵۵۴۲. ثَقَابٍ چمکتا ہوا

۵۵۴۳. لَأَزْبِ چمکتی

۵۵۴۴. اِخْرُوْنَ ذَبِيْلٍ ہوئیوالے

الربع

۵۵۴۵. سُورًا تخت

(سُورًا: واحد)

۵۵۴۶. مَتَقَابِلِيْنَ آٹنے سانے

۵۵۴۷. كَأْسٍ پیالہ، جام

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۳۸۔ غَوْلٌ سرچکرا نا، دروسر
 ۵۵۳۹۔ يَنْزِلُ فَوْقَ مَدْيُنٍ مَدْيُونٍ بدست
 ۵۵۴۰۔ فَصَلَتْ نَبِيًّا رَكْعَةً وَالْيَا لِيَا لِيَا
 ۵۵۴۱۔ طَرَفٌ نَظَاهٌ
 ۵۵۴۲۔ بَيْضٌ سَفِيدَانِطْرَعِ
 ۵۵۴۳۔ مَكْنُونٌ حِفَاظَتِ مِيں رَكْعَةً
 ہوتے۔
 ۵۵۴۴۔ مَدْيُنُونَ جَزَائِدِے جَائِدِے
 ۵۵۴۵۔ تَزْدَرِيْنَ ہَلَاکِ کیا تھا تو نے
 مجھے۔
 ۵۵۴۶۔ مُخَضَّبِيْنَ كَرَفَاتِ رَشْدِے لوگ
 ۵۵۴۷۔ زَقُوْمٌ سِيْنْدُھِ كَادِرِخْتِ
 ۵۵۴۸۔ مَا يَنْوِيْنَ بھرنے والے
 ۵۵۴۹۔ شَوِيًّا مَلَوِيًّا مَلَاكِرِ
 ۵۵۵۰۔ حَمِيْمٌ كَهْوَتَا ہُوَ پَانِي
 ۵۵۵۱۔ يَهْرَعُونَ دَوْرُنِے لُكْ
 ۵۵۵۲۔ مَنذَرِيْنَ دَرَانِے والے
 ۵۵۵۳۔ مَنذَرِيْنَ جَن كُوْرَا يَا كِيَا
 ۵۵۵۴۔ مُجِيْبُونَ قَبُوْلِ كَرِيْمِے
 ۵۵۵۵۔ كَرِيْبٌ سَمِيْتِي
 ۵۵۵۶۔ سَقِيْمٌ بِيْمَارِ

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۴۷۔ فَرَاغٌ پَس لُوْطِ پَرَا
 ۵۵۴۸۔ يَزْفُوْنَ دَوْرُے ہوتے
 ۵۵۴۹۔ تَخْتُوْنَ تَمْرَاتِے ہوتے
 ۵۵۵۰۔ اَسْمَا دَوْنُوں فَرَا نَبْرُوْدَا
 ہوتے۔
 ۵۵۵۱۔ نَلٌّ پَچھا اُڈِيَا
 ۵۵۵۲۔ بَجِيْدِيْنَ مَاتَقِے كِے نَبَلِ
 ۵۵۵۳۔ مُسْتَبِيْنَ مَفْصَلِ بِيَانِ كَرْنِے
 والی۔
 ۵۵۵۴۔ بَعْلًا سَامِي قَوْمِ كِے اِيكِ
 بُتِ كَا نَامِ۔
 ۵۵۵۵۔ اَبْنٌ بھَاگِ كِيَا
 ۵۵۵۶۔ سَاهِمٌ قَرَعِ مِيں شَرِيكِ ہُوَا
 ۵۵۵۷۔ مَدْحَمِيْنَ دَهِيْلِيے كِے
 ۵۵۵۸۔ اِنْقَمَ لَقْمِ كَرِيَا، نَكْلِ يَا
 ۵۵۵۹۔ حُوْتٌ مَچھلِي
 (جَمْعُ: حَيْثَانٌ)
 ۵۵۶۰۔ عَرَاءٌ بَغِيْرِ گھَا سِ والِي
 بِيَا بَا نِ جَلْدِ

النصف

سورۃ الصفت (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۵۸۱۔ يَقْطِيْنَ بِيْلِ دَا رِدْرِخْتِ
 ۵۵۸۲۔ فَبَيِّنِ بَھَكَنِے مِيں كَا مِيَابِ
 ۵۵۸۳۔ صَالٌ جَانِے والَا،
 دَاخِلِ ہونِے والَا
 ۵۵۸۴۔ صَاوُونَ صَفِ بَا نَدھِے وَلِے
 ۵۵۸۵۔ سَاخَتْ اَنْكَنُ، عِلَاقَہ،
 مِيْدَانِ
 ۵۵۸۶۔ لَاتٌ نَہِيں تھَا
 ۵۵۸۷۔ حِيْنَ وَقْتِ
 ۵۵۸۸۔ مَنَاصٌ خِلَاصِ كَا
 ۵۵۸۹۔ اِخْتِلَاقٌ گھڑِي ہونِي بَاتِ
 ۵۵۹۰۔ يَزْكُوْا وَہِ چڑھ جَائِيں گِے
 ۵۵۹۱۔ مَهْرُومٌ شَكْسْتِ كھَا تِے ہوتِے
 ۵۵۹۲۔ اَوْتَادٌ مِيخِيں، كھوٹِيَاں
 ۵۵۹۳۔ عَقَابٌ عَزَابِ، پَكْرُ
 ۵۵۹۴۔ فَيَضَلُّ اَلْفَاظِ بَا تھِے والَا،
 طَاقْتِ دَرِ۔
 ۵۵۹۵۔ فَضْلُ اَلْفَاظِ فَيَضَلُّ كُنْ تَقْرِيْرِ
 ۵۵۹۶۔ تَسْوَرُؤَا دِيُوَارِ چڑھ آتِے
 ۵۵۹۷۔ مَحْرَابٌ حَضْرَتِ دَاؤْدِ عَلِيْہِ
 اَلسَّلَامِ كِي قِيَامِ گَاہِ
 كِے لِيے يہ لَقَطَا اسْتَعْمَالِ
 كِيَا كِيَا ہِے۔
 ۵۵۹۸۔ فَرَعٌ ڈَر كِيَا
 ۵۵۹۹۔ لَا تَشْطَطُ نَا اِنصَانِي مَتِ كَرِ
 ۵۶۰۰۔ تَسْعُ وَتَسْعُونَ تُوَا اور تُوَاے ۹۰
 ۵۶۰۱۔ تَسْعُ وَتَسْعُونَ دُئِي، بِيھِرِطِ
 ۵۶۰۲۔ اَلْقَلْبِي سَوِيْبِ دِے مَچھِے
 ۵۶۰۳۔ عَزْرٌ دَبَاؤْ دَا لَا
 ۵۶۰۴۔ خُلَاطَاءُ سَا تھِي
 ۵۶۰۵۔ فُجَّارٌ بَد كَارِ

سورۃ الصفت (۳۸)

پارہ نمبر (۲۳۷)


نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۰۷. عَرْضُ پیش کئے گئے
 ۵۹۰۸. طُفِئَتْ الْجَمَادِ اعلیٰ نسل کے ابلق گھوڑے،
 ایک پاؤں پر
 کھڑے ہونے والے
 ۵۹۰۹. تَوَارَتْ چھپ گیا (سورج)
 ۵۹۱۰. مَسْحًا ہاتھ پھیرا
 ۵۹۱۱. سُمُوقٌ پنڈلیاں
 ۵۹۱۲. اَعْنَاقٌ گردنیں
 ۵۹۱۳. جَسَدًا جسم، دھڑ
 ۵۹۱۴. مِرْحَاءٌ ملائم، نرم
 ۵۹۱۵. حَيْثُ اَصَابَ جہاں پہنچنا چاہا
 ۵۹۱۶. بِنَاءٌ عمارت بنانے والا
 ۵۹۱۷. غَوَاصٌ غوطہ خور
 ۵۹۱۸. تَرْتَفِي تَقَرَّبٌ، نزدیکی
 ۵۹۱۹. حُسْنٌ قَابٌ اچھا ٹھکانہ
 ۵۹۲۰. نُصَبٌ تکلیف، ایذا
 ۵۹۲۱. اَمْرٌ كَصٌّ پیر مار
 ۵۹۲۲. مَسْئَلٌ نہانے کا پانی
 ۵۹۲۳. ضِعْفًا جھاڑو،
 سینکوں کا مٹھا

سورہ ص (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۲۴. لَا تَحْنُتْ قسم نہ توڑ
 ۵۹۲۵. اُخْتِيَارٌ بہتر لوگ،
 نیک لوگ
 ۵۹۲۶. اُتْرَابٌ ہم عمر

الثلثة

۵۹۲۷. نَفَادٌ ختم
 ۵۹۲۸. غَشَاقٌ پیپ زخموں کا
 دھوؤں۔
 ۵۹۲۹. مَقْنَعٌ داخل ہونے والی
 ۵۹۳۰. اَلْمَرْحَبَا خوش نہ ہو،
 ناس ہو
 ۵۹۳۱. صَالُوًا داخل ہوتے
 ۵۹۳۲. اَشْوَارٌ شریہ (رجع)
 ۵۹۳۳. سَبْحَرِيًّا ہنسی میں اڑایا
 ۵۹۳۴. مَلَاءِ اَلْاَعْلَىٰ سردار، اعلیٰ افسر
 بلند مرتبہ والے
 ۵۹۳۵. مُتَكَلِّفِيْنَ بناوٹ کرنے والے



پارہ نمبر (۳۸)

نمبر شمار عربی اردو

الزمر (۳۹)

۵۹۳۶. يُكْرَهُ پیتتا ہے
 ۵۹۳۷. سَاوَانٌ سامان دیا
 ۵۹۳۸. مَبْنِيَّةٌ بنے بنائے
 ۵۹۳۹. سَلَكٌ چلایا، جاری کیا
 ۵۹۴۰. يَبِئَاتُ بِعِجْ حشمے
 ۵۹۴۱. يَفْوِجُ خشک ہوتا ہے،
 زور پر آتا ہے
 ۵۹۴۲. حُطَامًا ریزہ ریزہ
 ۵۹۴۳. مُتَشَاوِهًا ملتے جلتے، یکساں
 ۵۹۴۴. مَثَانِيٌّ بار بار دہرائی
 جانے کے قابل
 ۵۹۴۵. تَفْشَعْرٌ رونگٹے کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔
 ۵۹۴۶. تَلْدِيْنٌ نرم ہو جاتے ہیں
 ۵۹۴۷. غَيْرُ ذِي عِوَجٍ بن ٹیڑھ والا،
 سیدھا، کوئی کمی نہیں

سورۃ الزمر (۳۹)

نمبر شمار عربی اردو
 ۵۹۴۸. مُتَشَاكِسُوْنَ ہا ہم جھگڑنے والے
 ضد اضدیٰ کرنے والے
 ۵۹۴۹. سَلَمًا پورا، مسلم، ایک کا
 ۵۹۵۰. مَيِّتٌ میت، مرے والا
 ۵۹۵۱. مَيِّتُوْنَ مرنے والے

پارہ نمبر (۳۹)

۵۹۵۲. اِنَّهُمْ كَانَتْ نَفَرْتٌ کرتے ہیں
 ۵۹۵۳. يُحْصِيْنَ قِيَّ ہاتے افسوس
 ۵۹۵۴. قَرِطٌ تقصیر کرنا
 ۵۹۵۵. جَنْبِ اللّٰهِ خدا کے بارے
 میں۔
 ۵۹۵۶. مَعَالِيْدٌ کنجیاں
 ۵۹۵۷. مَطْوِيَّتٌ پلٹے ہوئے
 ۵۹۵۸. صَعِقٌ بے ہوش ہونا
 ۵۹۵۹. اِنَّهُ قَتُّوا چمک
 اٹھے گی۔

پارہ نمبر (۲۳۹)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۶۰. وُضِعَ رُكْحًا يَأْتِي السَّاعَةَ
(فعل مجہول)
۵۴۶۱. جَاءَ يَأْتِي لَأَيَّامٍ مَّوَدَّعَاتٍ
حاضر کیا جائے گا
۵۴۶۲. سَبَّحَ بِحَمْدِكَ رَبَّنَا
ہائیک دیا جائے گا
۵۴۶۳. سَبَّحَ بِحَمْدِكَ رَبَّنَا
گروہ، ٹولی
۵۴۶۴. سَبَّحَ بِحَمْدِكَ رَبَّنَا
چوکیدار، داروغہ
۵۴۶۵. سَبَّحَ بِحَمْدِكَ رَبَّنَا
خوشحال رہے تم
۵۴۶۶. سَبَّحَ بِحَمْدِكَ رَبَّنَا
حلقہ باندھے
ہوں گے۔

الربع

سورة المؤمن (۲۴۰)

۵۴۶۷. ذِي الطُّوْلِ انعام دینے والا
۵۴۶۸. تَلَّاقَ ملاقات
۵۴۶۹. بَرَزْنَا مِنْكُمْ
موجود ہوں گے
۵۴۷۰. يَطَّاعُوا كَمَا نَأْتِي السَّاعَةَ

سورة المؤمن (۲۴۰)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۷۱. اٰزِفًا قَرِيْبًا اِيْوَالِي
۵۴۷۲. اٰزِفًا قَرِيْبًا اِيْوَالِي
۵۴۷۳. اٰزِفًا قَرِيْبًا اِيْوَالِي
۵۴۷۴. اٰزِفًا قَرِيْبًا اِيْوَالِي
اس دن کثرت سے آوازیں ہونگی
۵۴۷۵. تَبَابَ هَلَاكٍ
ہلاکت
النصف
۵۴۷۶. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۷۷. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
والا۔
۵۴۷۸. سَلْسِلٌ زٰجِرِيْنَ
۵۴۷۹. يَسْحَبُوْنَ كَسِيْفًا
۵۴۸۰. يَسْحَبُوْنَ كَسِيْفًا
جائیں گے۔

پارہ نمبر (۲۴۰)

نمبر شمار عربی اردو

السجدة (۲۴۱)
سورة خمسة

الثلثة

۵۴۸۱. غَيْرُ مَهْمُوْمِيْنَ
نہیں موقوف ہونے والا
۵۴۸۲. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۳. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۴. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۵. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۶. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۷. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۸. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۹. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۹۰. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ

۵۴۸۱. غَيْرُ مَهْمُوْمِيْنَ
نہیں موقوف ہونے والا
۵۴۸۲. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۳. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۴. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۵. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۶. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۷. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۸. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۸۹. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ
۵۴۹۰. اِقْوَامٌ سِوَاكُمْ

سورة السجدة (۲۴۱)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۹۰. قِيَضْنَا
مقرر کر دیا ہم نے
۵۴۹۱. قِيَضْنَا
ہم نشین
۵۴۹۲. اَلْعَوَا
شور مچاؤ
۵۴۹۳. اَسْوَأُ
بدتر
۵۴۹۴. اَسْفَلِيْنَ
نیچے، گرے ہوئے
خوب ذلیل ہونے والے۔
۵۴۹۵. مَا سَتَّهَمْتَنِيْ
جو خواہش ہو
۵۴۹۶. نَزَعٌ
وسوسہ
۵۴۹۷. اَلَا يَسْتَهْمُوْنَ
نہیں اکتاتے، نہیں بھکتے
۵۴۹۸. خَاشِعَةً
دبی ہوئی
۵۴۹۹. دُوْعًا
دینے والا

نمبر شمار عربی اردو

پارہ نمبر (۲۵)

۵۴۰۰۔ اَلْكِتَابُ غلاف، نول
۵۴۰۱۔ اذْنَا بتا دیا ہم نے
۵۴۰۲۔ عَرَضَ لِمَن، چوڑی
۵۴۰۳۔ اَفْئَاتُ گرد و نواح،
آس پاس

الشوریٰ (۲۵)

۵۴۰۴۔ يَنْفَعُونَ پھٹ پڑیں گے
۵۴۰۵۔ يَدْرَسُوْهُ پھیلاتا ہے
۵۴۰۶۔ شَيْءٌ مَّقْرِيْنًا مقرر کیا
۵۴۰۷۔ كَبُرُ بھاری ہو
۵۴۰۸۔ اِحْصٰهُ باطل، پچلی ہوتی
۵۴۰۹۔ يُبَارِزُوْنَ تھکاتے ہیں
۵۴۱۰۔ مَوَدَّةٌ دوستی، چاہت

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۱۱۔ يَتَّبِعْ متا دیتا ہے
۵۴۱۲۔ غَيْثٌ بارش، مینہ

الرابع

۵۴۱۳۔ جَوَاسُ چلنے والے جہاز
۵۴۱۴۔ اَعْلَامٌ اونچے پہاڑ
۵۴۱۵۔ يَطْلُبْنَ ہو جائیں
۵۴۱۶۔ سِرٌّ وَاكْرَهٌ تھے ہوتے
۵۴۱۷۔ يُوْبِقُ ہلاک کر دے گا
۵۴۱۸۔ شُوْرٰى مشورہ
۵۴۱۹۔ نَكِيْرٌ انکار
۵۴۲۰۔ يَزُوْجٌ ملا کر دیتا،
جمع کر دیتا،
جوڑا دیتا ہے
۵۴۲۱۔ عَقِيْبًا بانجھ
۵۴۲۲۔ تَصِيْرٌ پھر سے جاتیں گے

نمبر شمار عربی اردو

الخرف (۲۳)

نمبر شمار عربی اردو
۵۴۳۸۔ مُسْقَفًا چھت
۵۴۳۹۔ رِضَّةٌ چاندی
۵۴۴۰۔ مَعَارِجٌ بیڑھیاں
۵۴۴۱۔ يَطْهَرُوْنَ چڑھتے اترتے
۵۴۴۲۔ رُحْرَفًا چمک دمک ہونے کی
۵۴۴۳۔ يَعْشُ اُتھا بٹتا ہے،
آنکھ پڑتا ہے۔
۵۴۴۴۔ بَعْدُ دُورِ
۵۴۴۵۔ مُشْتَرِكُوْنَ آپس میں ساتھی
شُرکت کرنے والے
۵۴۴۶۔ مُقْتَرِنِيْنَ پُرا باندھ کر،
آردلی بن کر
۵۴۴۷۔ اسْتَحْفَفَ سبک کر دیا،
گھبرادیا
۵۴۴۸۔ اسْفُوْا غصہ دلایا انھوں نے
۵۴۴۹۔ يَصِدُّوْنَ تالیاں بجاتے ہیں،
غل مجاتے ہیں
۵۴۵۰۔ يَخْلُقُوْنَ جانشین رہتے
۵۴۵۱۔ لاَ تَمْتَرُوْنَ مت شک کرو
۵۴۵۲۔ اَجْلَاءُ دوست
(واحد: خَلِيْلٌ)

۵۴۳۳۔ اَفْءَالُ الْكِبَابِ مرکزی کتاب
۵۴۳۴۔ صَفْحًا پٹا لینا
۵۴۳۵۔ بَطْشًا سخت پکڑ
۵۴۳۶۔ مَضَى ہو گذری
۵۴۳۷۔ تَشْتَوُوْنَ سوار ہو جاؤ تم
۵۴۳۸۔ مُقَرَّبِيْنَ قابو میں لینے والے
۵۴۳۹۔ جُرْعَةٌ حصّہ، پارہ
۵۴۴۰۔ يُلْتَشَوُا آرائش کی جاتی ہے
۵۴۴۱۔ حَلِيَّةٌ زیورات، گینے
۵۴۴۲۔ مُسْتَمْسِكُوْنَ مضبوطی سے پکڑنے
والے۔

۵۴۳۳۔ مُقْتَلُوْنَ پیروی کرنے والے
۵۴۳۴۔ بَرَآءٌ بیزار، الگ
۵۴۳۵۔ قَطْرٌ پیدا کیا
۵۴۳۶۔ قَرْنِيَّتَيْنِ دو بستیاں
۵۴۳۷۔ سُحْرِيًّا کام میں لانا،
مستور کرنا

پارہ نمبر (۳۵)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۵۳۔ صحاف بڑی رکابیا، تھال
۵۴۵۴۔ اَلْاَوَابُ اب خورے
۵۴۵۵۔ تَلَدًا لذت چاہیں
۵۴۵۶۔ لَا يُفَعَّرُوْا نہیں ہکا کیا جائیگا
نہیں سُست ہوگا
۵۴۵۷۔ اَبْرُمُوْا انھوں نے مقرر کیا
۵۴۵۸۔ مُبْرَمُوْنَ مقرر کرنے والے

الدخان (۳۴)

۵۴۵۹۔ يُفَرِّقُ جُدا کیا جاتا ہے
۵۴۶۰۔ اِنْرَاقِبْ منتظر رہ
۵۴۶۱۔ دُخَانَ دھواں
۵۴۶۲۔ مُعَلَّمٌ سکھایا ہوا
۵۴۶۳۔ عَائِدُوْنَ پھر کرئیوالے
۵۴۶۴۔ اَدْوًا ساتھ بھیج دو

الثلثة

۵۴۶۵۔ اَسْوً لے چل

سُوْرَةُ الْاِرْحَامِ (۳۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۴۶۶۔ هُوَا نَشْكُ ،
۵۴۶۷۔ فُلْهَيْبِيْنَ خوشحال ،
مزہ کرنے والے
۵۴۶۸۔ مَا بَلَكَتْ نہیں رونا آیا
۵۴۶۹۔ مُنْشَرِيْنَ جلاتے جانیوالے
زندہ کئے جانیوالے
۵۴۷۰۔ مَوِيٌّ دوست
۵۴۷۱۔ مُهْلٌ پھلایا ہوا تانا ،
تیل کی پلھٹ
۵۴۷۲۔ يَغْلِيْ جوش مارتا ہے
۵۴۷۳۔ عَلِيٌّ جوش مارنا
۵۴۷۴۔ اَعْتَلُوْا گھسیٹو
۵۴۷۵۔ سَوَاوَا الْجِرْمِ بچوں بیچ جہنم
کے
۵۴۷۶۔ صُبُوْا ڈالو ،
اُتْلُوْا اُتلیو۔
۵۴۷۷۔ ذُقْ چکھ

پارہ نمبر (۳۵)

نمبر شمار عربی اردو

الجاثية (۳۵)

۵۴۷۸۔ يُصَوِّرُ اصرار کرتا ہے ،
ضد کرتا ہے
۵۴۷۹۔ اِحْتَرُكُوْا کرتے ہیں
۵۴۷۸۔ ذَهْرٌ گردش ،
زمانہ
۵۴۸۱۔ جَاثِيَةٌ زانفوں کے بل
گرمی ہونی
۵۴۸۲۔ نَسْتَسِيْخُ ہم لکھواتے ہیں ،
(مصدر: اِسْتَسَاخ)۵۴۸۳۔ مَا نَدْرِيْ ہم نہیں جانتے
۵۴۸۴۔ مُسْتَقْبِرِيْنَ یقین کرئیوالے
۵۴۸۵۔ اِسْتَيْقَانٌ مصدر
(یقین)

سُوْرَةُ الْحَاقَاتِ (۳۶)

نمبر شمار عربی اردو

الحقافات (۳۶)

۵۴۸۶۔ اَنْزَلْنَا دلیل ، نشان
۵۴۸۷۔ بَدَّلْنَا نیا ، اٹوٹھا
۵۴۸۸۔ كَرِهْنَا تکلیف
۵۴۸۹۔ تَلْثَوْنَ تیس
۵۴۹۰۔ نَلْجَاوْزُ ہم درگزر کریں گے
۵۴۹۱۔ اَذْهَبْتُمْ لے چکے تم
۵۴۹۲۔ اَحْقَافٌ ریگستان
۵۴۹۳۔ عَارِضًا بادل ، گھٹا
۵۴۹۴۔ مُسْتَقْبِلٌ سامنے آئیوالا
۵۴۹۵۔ اَوْدِيَّةٌ وادیاں ، میدان
ندی نالے
۵۴۹۶۔ قُرْبَانًا تقرب کا ذریعہ
پہنچ
۵۴۹۷۔ نَقَرْنَا جماعت ٹولی ،
گروہ

پارہ نمبر (۲۶)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۷۹۸۔ یَجْرِي كُفً پناہ دے گا تم کو
۵۷۹۹۔ لَمْ يَجْعَلْ وہ نہیں تھکا

الربيع

سورة محمد (۲۷)

۵۸۰۰۔ اُضَلَّ بے راہ کر دیا
۵۸۰۱۔ كُفِّرَ دُور کر دیا
۵۸۰۲۔ اُصْلَحَ درست کر دیا
۵۸۰۳۔ بَالَ حال، کیفیت
۵۸۰۴۔ ضَرَبَ بِالرِّجَالِ گردنیں مارنا
۵۸۰۵۔ اَتَّخَذْتُمْ خوب کچل ڈالا ہو
تم نے۔
۵۸۰۶۔ تَخَنَّنَ خوریزی کرنا،
کچل ڈالنا
۵۸۰۷۔ وَثَّقَ قید کرنا، باندھنا
۵۸۰۸۔ فِدَاءٌ فدیے کے چھوڑ دینا
۵۸۰۹۔ عَرَفَ پہچان کرادی

سورة محمد (۲۷)

نمبر شمار عربی اُردو
۵۸۱۰۔ تَعَسَا گر کر ہلاک ہونا
۵۸۱۱۔ غَيْرِ اَسْنِ بن بگڑا ہوا،
کبھی نہ بگڑے ہوا
۵۸۱۲۔ خَمَّرَ (دانگوری) شرب
۵۸۱۳۔ عَسَلَ شہد
۵۸۱۴۔ اَمْعَاءُ انتڑیاں
۵۸۱۵۔ اِنْفَا اِجھن اِجھن
۵۸۱۶۔ اَشْرَاطُ علامتیں
۵۸۱۷۔ مَعْشَى بے ہوشی چھا گئی ہو
۵۸۱۸۔ اُوْدَى خرابی
۵۸۱۹۔ اَقْفَالٌ تالے
(قَفْلٌ) دکی جمع
۵۸۲۰۔ سَوَّلَ بات بنانی، پکڑ دیا
۵۸۲۱۔ اَمَلَى دُور کی بھائی
۵۸۲۲۔ اَسْوَأَ آہستہ، پوشیدہ
مشورہ، خفیہ،
چھپا بھید
۵۸۲۳۔ اَضْعَانَ بدلتی ڈھب
۵۸۲۴۔ لَحْنُ الْقَوْلِ طرز کلام، بات کا
۵۸۲۵۔ لَنْ يَأْتِيَ نہیں کمی کرے گا
۵۸۲۶۔ يُحْفَفُ تنگ کرے

پارہ نمبر (۲۷)

نمبر شمار عربی اُردو

سورة الفتح

۵۸۲۷۔ تَقَلَّامٌ پہلے ہو چکا
۵۸۲۸۔ تَأَخَّرُ پیچھے ہوا
۵۸۲۹۔ ظَائِنِينَ گمان کرنے والے،
انگل کرنے والے
۵۸۳۰۔ تَعَزَّزُوا تم ساتھ دو،
تم قوت دو
۵۸۳۱۔ نُؤَيِّدُوكُمَا تم ادب کرو
۵۸۳۲۔ مَعَانِدَ مالِ غنیمت

النصف

۵۸۳۳۔ اَطْفَرَ قابو دیا
۵۸۳۴۔ اَلْهَدَىٰ قربانی کے جانور
۵۸۳۵۔ مَعَكُوفًا رُکھا ہوا
۵۸۳۶۔ لَطْمًا کچل ڈالنے کے
۵۸۳۷۔ مَعْرَةً تکلیف، خرابی
۵۸۳۸۔ تَزَيَّلُوا جُدا ہو جاتے
۵۸۳۹۔ حَبِيَّةٌ غلط خیالات، عار

سورة الفتح (۲۸)

نمبر شمار عربی اُردو
نادانی کی ضد
۵۸۴۰۔ اَلْزَمَ لازم کر دیا،
لگائے رکھا
۵۸۴۱۔ مُخَلِّعِينَ مندوا دینا ہوا
(حل ق)
۵۸۴۲۔ مُقَصِّرِينَ کتروانے والے
(ق ص س)
۵۸۴۳۔ سِيمًا نشانی، بانا
۵۸۴۴۔ شَطْرًا پٹھا،
سوئی
کونپل
۵۸۴۵۔ اَمْرًا قوت پکڑی،
کمر مضبوط ہوئی
۵۸۴۶۔ اِسْتَقَاطَ موٹا ہوا
۵۸۴۷۔ سَوَّقَ کھینچی کی جڑیں،
نال، ڈٹھل

پارہ نمبر (۲۳۷)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الحجرات (۲۴)

۵۸۳۸۔ اِمْتَحَنَ خاص کر لیا
 جارح لیا
 ۵۸۳۹۔ نَفَعٌ پھر آئیں،
 رجوع ہو جائیں

المثلثة

۵۸۵۰۔ لَا تَلْمِزُوا مت عیب لگاؤ
 ۵۸۵۱۔ لَا تَنَابَرُوا مت برے نام
 دھرو۔
 ۵۸۵۲۔ لَا تَجَسَّسُوا جاسوسی نہ کرو
 ۵۸۵۳۔ لَا يَغْتَابَ زغیبت کریں
 ۵۸۵۴۔ لَا يَلْمِزُ نہیں کم کرے گا



سورۃ ق (۵۰)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ ق (۵۰)

۵۸۵۵۔ مَرِيحٌ اُلجھن میں ڈالنے
 والا۔
 ۵۸۵۶۔ فُرُوجٌ شکاف
 ۵۸۵۷۔ لِبْقَاتٍ لبی لبی، اونچی
 تہ بہ تہ، گوندھے ہوئے
 ۵۸۵۸۔ اَصْفَادٌ ہم تھک گئے
 ۵۸۵۹۔ عَيْنَيْنَا
 ۵۸۶۰۔ حَبْلِ الْوَرِيدِ رگ گردن
 ۵۸۶۱۔ عَتِيدٌ تیار
 ۵۸۶۲۔ سَكْرَةٌ بے ہوشی، جان کنی
 سکرات
 ۵۸۶۳۔ تَجِينُ تونکارہ کرنا ہے،
 بھاگتا ہے
 ۵۸۶۴۔ غَطَاءٌ پردہ
 ۵۸۶۵۔ هَلَا مَسَلَاتٌ کیا بھر گئی تو
 ۵۸۶۶۔ نَقَبُوا چھان ڈالا

پارہ نمبر (۲۳۸)

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الذریت (۵۱)

۵۸۶۷۔ ذَرِيَةٌ بھرنے والیاں
 ۵۸۶۸۔ ذُرْوًا بھیرنا
 ۵۸۶۹۔ وَقْرًا بوجھل
 ۵۸۷۰۔ جُرِيَّتٍ جلنے والیاں
 ۵۸۷۱۔ مَقْسِمَاتٍ تقسیم کرنے والیاں
 ۵۸۷۲۔ حَبْلِكَ راہیں،
 جالی دار
 ۵۸۷۳۔ حَرَاطُونَ اٹکل مارنے والے
 ۵۸۷۴۔ يُفْتَنُونَ گرفتار کئے
 جائیں گے۔
 ۵۸۷۵۔ يَهْجَعُونَ سوتے تھے
 ۵۸۷۶۔ صَوْتًا حیرت
 ۵۸۷۷۔ صَكَّتْ با تھ مارا



سورۃ الزمات (۵۱)

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر (۲۳۹)

۵۸۷۸۔ رُكْنٌ رکن سلطنت،
 طاقت
 ۵۸۷۹۔ ذُنُوبًا دُبر سے دن کی،
 باری دپائی بھڑول
 یا پاپ کا گھڑا بھر گیا
 انجام، نتیجہ،
 بُرے دن

سورۃ الزمات (۵۱)

۵۸۸۰۔ رَرَقٌ ملائم کاغذ
 ۵۸۸۱۔ مَسْتَوِدٌ کھلا ہوا
 ۵۸۸۲۔ بَيْتٌ الْمُعْوَرُ آباد گھر
 ۵۸۸۳۔ مَسْجُورٌ جھونکا ہوا
 اُبتلا ہوا،

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

سُجَّجَ جَانِے والا
موجزن۔
۵۸۸۳۔ ذَا فِجْ ہٹانے والا
۵۸۸۵۔ مَوْرَا تھر تھرا نا
۵۸۸۶۔ دَعَا دھکے دینا
۵۸۸۷۔ مَا اَلْتَنَّا نہیں کم کیا ہم نے
۵۸۸۸۔ مَرَّهَيْنَا گرفتار
۵۸۸۹۔ رَبِيبُ السُّوْنِ حادثہ موت
۵۸۹۰۔ اَحْلَاْمٌ عقلیں
۵۸۹۱۔ طَاغُوْنَ سرکش
۵۸۹۲۔ نَقَّوْنَ بات بنایا ہوتا وہ
۵۸۹۳۔ مُصَيِّطُوْنَ ذمے دار،
داروغہ جمع
۵۸۹۴۔ مُتَقَلَّبُوْنَ بوجھ سے دبے
ہوتے۔
۵۸۹۵۔ اَعْيُنُنَا ہماری نگہوں میں
۵۸۹۶۔ اِذْ بَارَ پیچھے جانا،
پیٹھ دینا۔

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

النجم (۵۳)

۵۸۹۷۔ هُوَى گرا
۵۸۹۸۔ ذُو مِرَّةٍ طاقت ور
۵۸۹۹۔ ذَا نَا نزدیک ہوا
۵۹۰۰۔ تَنَكَّرُ اُتر آیا
۵۹۰۱۔ قَابِ قَوْسَيْنِ دو کمانیں
۵۹۰۲۔ سِدْرُ الرَّحْمٰنِ پیری کا درخت
جو آخری حد پر
عالم مادی اور عالم
آخرت کے درمیان
حد فاصل ہے۔
۵۹۰۳۔ ضَبَابٌ بے دھنگی
۵۹۰۴۔ تَسْبِيْةٌ نام رکھنا
۵۹۰۵۔ مَبْلَغٌ رسائی، لیاقت،
پہنچ۔
الربح
۵۹۰۶۔ لِكُمَّ چھوٹے گناہ

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

۵۹۰۷۔ اٰجِنَّةٌ بچے
۵۹۰۸۔ جَبِيْنٌ وہ بچے جو ماں کے
پیرٹ میں ہو۔
۵۹۰۹۔ اٰكْدَى بلند کر دیا
۵۹۱۰۔ اٰذْنِي پوری پوری
۵۹۱۱۔ اٰصْحٰكٌ ہنسایا
۵۹۱۲۔ اٰكْبٰی زلایا
۵۹۱۳۔ اٰكْمَاتٌ مارا
۵۹۱۴۔ اٰخِيْیَی جھلایا
۵۹۱۵۔ تَهْنٰی مٹی ڈالی جاتی ہے
۵۹۱۶۔ تَشَاةٌ پیدائش
۵۹۱۷۔ اٰعْنٰی غنی کر دیا، محتاجی
دور کی، مالدار کر دیا
۵۹۱۸۔ اٰقْنٰی خزانہ والا کر دیا
۵۹۱۹۔ شَعْرٰی ایک ستارہ کا نام جو
سورج سے کسی گناہ پر
۵۹۲۰۔ اٰطْفٰی بہت زیادہ سرکش
۵۹۲۱۔ مَوْ تَفْكَةٌ اُٹائی ہوئی بستیاں
۵۹۲۲۔ اٰهْوٰی پھینک مارا
۵۹۲۳۔ سَمِدُوْنَ غفلت کرنے والے

سورۃ النجم (۵۳)

نمبر شمار عربی اردو

النجم (۵۳)

۵۹۲۴۔ مُسْتَمِرًّا پہلے سے چلا آئی والا
۵۹۲۵۔ مُرْدَجْرًا کافی ڈانٹ
۵۹۲۶۔ تَوَلَّى منہ پھیرے
۵۹۲۷۔ اَنْ دَخِيْ، اِنْجَانِ ناپہچان۔
۵۹۲۸۔ اِرْدَجْرًا ڈانٹا گیا
۵۹۲۹۔ مُنْهَمِرًّا بکثرت برسیا ہوا
۵۹۳۰۔ ذُو سُوْیَ میخیں
۵۹۳۱۔ كُفْرًا ناقدری کی گئی
۵۹۳۲۔ مُنْكَرًا نصیحت حاصل
کرنے والا۔
۵۹۳۳۔ تَنْزِعًا اُگھاڑ پھینکا
۵۹۳۴۔ اَعْتَجٰزًا ڈالیاں
۵۹۳۵۔ مُنْفَعِرًا کٹی ہوئی
۵۹۳۶۔ سَعْرٌ جنون،
بے عقلی
۵۹۳۷۔ اَنْشَرًا بہت شرمندہ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۹۳۸. مُحْتَضَرٌ باری باری سے
 حاضری
 ۵۹۳۹. تَعَاظِي پکڑا
 ۵۹۴۰. عَقْرٌ کاٹ ڈالا
 ۵۹۴۱. هَشِيمٌ روند اہوا، چورہ،
 پامال۔
 ۵۹۴۲. مُحْتَضِرٌ کاتوں کی سوکھی
 پڑانی باڑ۔
 ۵۹۴۳. حَاصِبًا پتھروں کی بارش
 ۵۹۴۴. سَحْرٌ افریشب،
 رات کا پچھلا حصہ
 ۵۹۴۵. اَدْهِي بہت سخت
 ۵۹۴۶. اَمْرٌ بہت کڑوی
 ۵۹۴۷. سَقْرٌ آگ، تیز جلن
 ۵۹۴۸. لَمَحٌ بِالْبَصْرِ چمکنا آنکھ کا
 ۵۹۴۹. اَشْيَاعٌ جماعتیں، گروہ
 ۵۹۵۰. مُسْتَنْطَرٌ لکھا ہوا
 ۵۹۵۱. مَقْعَدٌ صِدْقِي مقام عمدہ
 ۵۹۵۲. مَلِيكٌ بادشاہ
 ۵۹۵۳. مُعْتَدِرٌ قدرت والا

نمبر شمار عربی اُردو

الرَّحْمٰنُ
 (۵۵)
 السُّورَةُ

۵۹۵۴. حُسْبَانٌ گردش کرنیوالے
 حساب سے
 ۵۹۵۵. اِنَامٌ خلقت
 ۵۹۵۶. ذُو الْعَصْفِ بھوسے والا (عقلمند)
 ۵۹۵۷. رِيْحَانٌ غذا نوشبودار
 ۵۹۵۸. الْاَدْوَاءُ نعمتیں
 ۵۹۵۹. فَخَّارٌ ٹھیکڑا
 ۵۹۶۰. يَلْتَقِيْنَ لگے ہوتے مل کر
 پھٹ کر چلنے والے
 ۵۹۶۱. بَزْزَخٌ آڑ
 ۵۹۶۲. لَا يَتَّبِعِيْنَ نہیں بڑھ سکتے،
 پار نہیں کر سکتے
 ۵۹۶۳. لَوْ لَوْ موتی
 ۵۹۶۴. مَرَجَانٌ موتے
 ۵۹۶۵. مُسْتَنْتَبٌ اونچی کشتیاں

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

۵۹۶۶. ذُو الْجَلَالِ عظمت والا
 ۵۹۶۷. شَانٌ کام
 ۵۹۶۸. تَقْلِيْنٌ دو خلقتیں بھاری
 بھرم (جن وانس)
 ۵۹۶۹. تَنَقُّلٌ ذَا نحل بھاگ سکو
 ۵۹۷۰. اَنْطَارٌ حرود، کنارے
 ۵۹۷۱. سُلْطٰنٌ زور، اقتدار
 ۵۹۷۲. شَوَاطِظٌ شعلے، بے دھوئیں
 کی آگ، بھیانک
 گرم آگ۔
 ۵۹۷۳. نَحَاسٌ تانبا گلا ہوا گرم
 ۵۹۷۴. وَرْدَةٌ سرخ چمڑا
 ۵۹۷۵. دِهَانٌ تیل کی تلچھٹ
 ۵۹۷۶. نَوَاصِيْءٌ پیشانی
 (واحد: نَاصِيَةٌ)
 ۵۹۷۷. اَقْدَامٌ قدم (جمع)
 ۵۹۷۸. حَمِيْمٌ گرم پانی
 ۵۹۷۹. اَنْجٌ شدید حرارت،
 کھولتا لاوا
 ۵۹۸۰. ذَوَاتَا اَفْئَانٍ کثیر شانوں والے
 دو باغ

نمبر شمار عربی اُردو
 ۵۹۸۱. بَطَارِيْقٌ استر، اندر کا حصہ
 ۵۹۸۲. اِسْتَبْرَقٌ دبیر ریشمی پٹری چمکدار
 ۵۹۸۳. بَجْنَا منتخب شدہ میوہ
 ۵۹۸۴. اِنِّ نَزْدِيْكَ،
 ہاتھ کے قریب
 ۵۹۸۵. طَهْمَتْ چھوٹا، نزدیک ہونا
 ۵۹۸۶. يَأْقُوْتُ جواہر قیمتی پتھر
 ۵۹۸۷. مَدُّ هَامَتَيْنِ گہرے گہرے بھرے
 دو باغ
 ۵۹۸۸. نَضَاحَتَيْنِ جوش بازیوالے
 دو چشمے
 ۵۹۸۹. رُمَانٌ انار
 ۵۹۹۰. حَيْرٌ اِحْسَانٌ خوب صورت
 اور خوب سیرت
 ۵۹۹۱. رَفْرَفٌ فرش کے استعمال
 کا باریک کپڑا
 باریک ریشمی کپڑا
 ۵۹۹۲. حَضِيٌّ سبز
 ۵۹۹۳. عَبْقَرِيٌّ قالین

نمبر شمار عربی اُردو

الواقعة (۵۶) سورة

۵۹۹۴. واقِع ہونیوالی
 ۵۹۹۵. خافِضَةٌ نِجَا کر دینے والی
 ۵۹۹۶. سَرَّافِعَةٌ بلنڈ کر دینے والی
 ۵۹۹۷. سُرَّجَتْ ہلانی جالتے گی
 ۵۹۹۸. سَرَّجًا جھٹکا دینا، ہلا دینا
 ۵۹۹۹. بَسًا ریزہ ریزہ کر کے
 اُڑا دینا
 ۶۰۰۰. هَبَاءٌ غبار کا ریزہ
 ۶۰۰۱. مُنْبَأً پر لگندہ
 ۶۰۰۲. اصْحَابُ الْمِيْمَةِ داہنی طرف والے
 اچھے لوگ۔
 ۶۰۰۳. اصْحَابُ الشِّمْلِیِّ بائیں طرف والے
 بُرے لوگ،
 قراب لوگ
 ۶۰۰۴. ثَلَاثَةٌ بڑی تعداد
 ۶۰۰۵. مَوْضُونَہ سونے کے تاروں
 سے بنے ہوئے تخت

نمبر شمار عربی اُردو

۶۰۰۶. مُخَلَّلُونَ ہمیشہ رہنے والے
 ۶۰۰۷. اِبَارِیْقٌ آفتابے، لوٹے
 ۶۰۰۸. لَا یُصَلُّونَ نہیں سر دکھاتے
 جاتیں گے۔
 ۶۰۰۹. تَأْتِيْمًا گناہ کی بات
 ۶۰۱۰. مَحْضُوْدٌ بے کانتے کی
 کیلے
 ۶۰۱۱. طَلْحٌ تیرتہ
 ۶۰۱۲. مَنضُوْدٌ تیرتہ
 ۶۰۱۳. مَهْدٌ وُد لمبھاسایہ
 ۶۰۱۴. مَسْكُوْبٌ بھرنوں کا بہتا پانی
 ۶۰۱۵. اَبْكَارًا کنواریاں
 ۶۰۱۶. عُوْبًا پارسا عورتیں،
 جو خداوند پر عاشق
 ہوں۔
 ۶۰۱۷. اَنْتَرَابًا ہم عمر، نوجوان عورتیں
 ۶۰۱۸. یَحْمُوْمٌ بھیانک سیاہ
 دھواں
 ۶۰۱۹. یُصْرَوْنَ اصرار کرتے ہیں
 ۶۰۲۰. جَنَّتْ گناہ
 ۶۰۲۱. شُرُوْبٌ اَلْهَمِیْمِ پینا پیا سے اونٹوں
 کی طرح

نمبر شمار عربی اُردو

۶۰۲۲. حُطَّامًا ریزہ ریزہ
 ۶۰۲۳. تَفْلَهُوْنَ بائیں بناتے رہ
 جاؤ گے تم
 ۶۰۲۴. مُعْرَمُونَ قرض دار ہو گئے
 ۶۰۲۵. مُزْنٌ بدل
 ۶۰۲۶. تُوْرُوْنَ تم روشن کرتے ہو
 ۶۰۲۷. مُقْوَبِیْنِ مسافر جنگل و صحرا

الثلاثة

۶۰۲۸. مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ ستاروں کا چھیننا
 ۶۰۲۹. مُطْفَرُوْنَ ستھرے لوگ
 ۶۰۳۰. مُلٌّ هُنُوْنٌ بات کو سرسری اور
 معمولی سمجھنے والے
 خاص اہمیت نہ
 دینے والے
 ۶۰۳۱. غَيْرُ مَدَّیْنِیْنِ حساب نہیں دینے
 جانے والے
 ۶۰۳۲. رَوْحٌ راحت
 ۶۰۳۳. رَیْحَانٌ خوشبودار رزق
 داخل ہونا
 ۶۰۳۴. تَهْلِیْبَةٌ دوزخ، آگ کا گڑھا
 ۶۰۳۵. مُسْتَحْلِفِیْنِ قائم مقام، خلیفہ
 ۶۰۳۷. لَقَّتِیْسٌ ہم روشنی حاصل
 کریں۔
 ۶۰۳۸. اَلنَّیْسُوْرٌ ڈھونڈ لاؤ
 ۶۰۳۹. سُورٌ دیوار، اوٹ
 ۶۰۴۰. قَبَلٌ طرف
 ۶۰۴۱. اَلْکَمِیَّانِ کیا وقت نہیں آیا
 ۶۰۴۲. طَالٌ دراز ہوئی
 ۶۰۴۳. اَمَدٌ مدت
 ۶۰۴۴. کَفَّاحٌ فخر، بڑائی
 ۶۰۴۵. کَثْرٌ کثرت
 ۶۰۴۶. عَرْضٌ چوڑان، وسعت
 ۶۰۴۷. نَبْرٌ ہم پیدا کرتے ہیں
 ۶۰۴۸. لَا تَأْسُوْا مت غم کرو
 ۶۰۴۹. قَاتٌ جاتی رہی
 ۶۰۵۰. قَفِیْنًا بچھے لاتے ہم
 ۶۰۵۱. رَهْبَانِیَّةٌ ترکِ دنیا، گوشہ گیری

نمبر شمار عربی اُردو

الحديد (۵۷) سورة

۶۰۵۲. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۳. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۴. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۵. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۶. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۷. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۸. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۵۹. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۰. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۱. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۲. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۳. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۴. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۵. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۶. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۷. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۸. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۶۹. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۰. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۱. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۲. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۳. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۴. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۵. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۶. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۷. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۸. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۷۹. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۰. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۱. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۲. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۳. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۴. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۵. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۶. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۷. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۸. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۸۹. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۰. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۱. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۲. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۳. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۴. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۵. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۶. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۷. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۸. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۰۹۹. اِنشَاءً بے ساختہ
 ۶۱۰۰. اِنشَاءً بے ساختہ

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۵۲۔ عَایَةِ نِگاہ رکھنا

۴۰۵۳۔ کَفَلِیْنَ دُوحَتے



بَارَةُ نَمْبَر (۵۸) لِجَادِلَةِ سُورَةِ

۴۰۵۴۔ تَشْتَكِي شَكَایَت كرتی ہے

۴۰۵۵۔ تَحَاوُر سَوَال وِجَوَاب، گفتگو،

۴۰۵۶۔ يَطَاهِرُونَ ظَهَار كرتے ہیں

(اپنی بیوی کو زانیہ

جاہلیت میں جو شخص

یکہتا تھا کہ تو مجھ پر

میری ماں کی بیٹھکی

طرح ہے تو وہ عورت

مستقل طور پر اس

مرد سے علیحدہ سمجھی

جاتی اسی کو ظہار

نمبر شمار عربی اُردو

کہا گیا ہے،

۴۰۵۷۔ اَلنَّجِي دے عورتیں جو

(اسم موصولہ)

۴۰۵۸۔ يَتِمَّاسَا ہاتھ لگائیں ایک

دوسرے کو وہ

۴۰۵۹۔ شَهْرَيْنِ دُومہینے

۴۰۶۰۔ مُتَنَابِعِينَ لگاتار، مسلسل

۴۰۶۱۔ سَيِّدِينَ سَاطِھ

۴۰۶۲۔ يُّحَادِّثُونَ مخالفت کرتے ہیں

۴۰۶۳۔ كَبْتُوا ہلاک كئے گئے

۴۰۶۴۔ كَبَّتْ ہلاک کیا گیا

۴۰۶۵۔ اَخَصَى گن رکھا ہے

۴۰۶۶۔ مَعْصِيَتٌ نافرمانی

۴۰۶۷۔ حَيِّدُوا دعا سلام كرتے ہیں

۴۰۶۸۔ تَفَسَّحُوا جگہ کھول دو،

کُشَادِي سے بیٹھو

۴۰۶۹۔ فَسَّحَ كُشَادِي

۴۰۷۰۔ اُنشُرُوا اُٹھ کھڑے ہو جاؤ

۴۰۷۱۔ جُنَّةٌ ڈھال

۴۰۷۲۔ اَشْحَوذُ مسلط ہو گیا،

غالب آیا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۷۳۔ جَزْبٌ گروہ، جماعت

۴۰۷۴۔ اَذَلَّيْنِ بہت ذلیل

۴۰۷۵۔ يُوَادُّونَ دوستی كرتے ہیں

الْحَشْرِ سُورَةِ (۵۹)

۴۰۷۶۔ مَارِعَةٌ بچانے والی

۴۰۷۷۔ حُصُونٌ قلعے

(واحد: حِصْنٌ)

۴۰۷۸۔ قَنَافٌ ڈالریا

۴۰۷۹۔ يُخْرِجُونَ خراب كرتے ہیں

۴۰۸۰۔ اَعْتَدُوا عبرت حاصل کرو

۴۰۸۱۔ جَلَاءٌ جلا وطن کرنا

۴۰۸۲۔ لَيْبَةٌ تہہ دار درخت

۴۰۸۳۔ اَوْجَعْتُمْ دُورائے تم نے

۴۰۸۴۔ اِدْوَالَةٌ ہاتھوں ہاتھ لینا

۴۰۸۵۔ اَعْنِيَاءٌ غنی، مالدار

۴۰۸۶۔ حَاجَةٌ غلش، رشک

حاجت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۰۸۷۔ يُوَثِّرُونَ ایشار كرتے ہیں،

مقدم رکھتے ہیں

۴۰۸۸۔ خِصَاصَةٌ تنگدستی، محتاجی

۴۰۸۹۔ يُوَقِّعُ بچا یا گیا

۴۰۹۰۔ شَجٌّ بچلی، کبوسی،

حرص، کھٹک

الزَّبْحِ

۴۰۹۱۔ نَافِقُونَ منافق ہو گئے

۴۰۹۲۔ رَهْبَةٌ ڈر

۴۰۹۳۔ قُرْمِي حُصْنَةٌ بستیاں محفوظ

۴۰۹۴۔ شَتَّى مختلف، متفرق

پھٹے ہوئے

۴۰۹۵۔ وَبَالٌ سزا، وبال

۴۰۹۶۔ خَانِشَعًا دب جانے والا

۴۰۹۷۔ مُمْتَصِدًا پھٹ جانے والا

۴۰۹۸۔ مَهْمِيْمٌ نگہبانی كرنے والا

۴۰۹۹۔ مُتَكَبِّرٌ بڑانے والا



نمبر شمار عربی اُردو

الممتحنة (۴۰) سورة

- ۴۱۰۰۔ تَلَقُّونَ ملاقات کرتے ہو تم
۴۱۰۱۔ يُرِيدُوا بے زاریں
۴۱۰۲۔ عَادَ يُنْمِرُ عداوت رکھتے ہو تم
۴۱۰۳۔ نَظَاهِرًا مددگاری کی
۴۱۰۴۔ اِمْتَحِنُوا امتحان کر لو، پرکھ لو
جاں کر لو۔
۴۱۰۵۔ لَا تُهْسِبُوا امت قائم رکھو
نہ تھامے رہو
۴۱۰۶۔ عَصُوا الْكُوفِرَ کافر عورتوں سے
تعلقات ناموس
رشتہ نکاح
۴۱۰۷۔ فَاتٍ ہاتھ سے نکل گئی

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

الصف (۴۱) سورة

- ۴۱۰۸۔ مَقَاتًا ناراضی
۴۱۰۹۔ بُنْيَانٍ عمارت
۴۱۱۰۔ مَرُوضًا سبسہ پلانی ہوئی

الجمعة (۴۲) سورة

- ۴۱۱۱۔ اَسْفَارٍ کتابیں بہت
ساری۔
۴۱۱۲۔ اِنْفِضُوا دوڑے جاتے ہیں

نمبر شمار عربی اُردو

المنافقون (۴۳) سورة

- ۴۱۱۳۔ اَجْسَامٍ جسم، بدن (جمع)
۴۱۱۴۔ خَشَبٍ لکڑیاں
۴۱۱۵۔ مُسْنَدًا سہارے سے لگی
ہوئی۔

- ۴۱۱۶۔ صَيْحَةٍ آواز
۴۱۱۷۔ لَوَاذِمًا موڑتے ہیں
۴۱۱۸۔ يَنْفِضُوا بھاگ جائیں،
منتشر ہو جائیں

التغابن (۴۴) سورة

۴۱۱۹۔ تَغَابُنٍ بارجیت

نمبر شمار عربی اُردو

الطلاق (۴۵) سورة

- ۴۱۲۰۔ يُحَدِّثُ نئی بات
۴۱۲۱۔ فَارِقُوا جدا کر دو
۴۱۲۲۔ ذَوَى عَدْلٍ دو انصاف پسند
آدمی

- ۴۱۲۳۔ بَالِغٍ پہنچکا، کر کے رہیگا
۴۱۲۴۔ اُولَادٍ حَمِلٍ حمل والیاں
۴۱۲۵۔ رُجْدٍ مقدور، حیثیت
۴۱۲۶۔ يَضَعْنَ حمل رکھدیں،
(الف)

- ۴۱۲۷۔ يَبْنِي بِنْتًا یعنی بچہ جن لیں
۴۱۲۸۔ تَعَاوَنَ تہمتی کرو تم
۴۱۲۹۔ تَرَضُّعٌ دودھ پلائے گی
۴۱۳۰۔ اُخْرَى دوسری
۴۱۳۱۔ ذُو سَعَةٍ صاحب وسعت
۴۱۳۲۔ عَدَّتْ سرکش کی

نمبر شمار عربی اُردو

التحریم سورة (۶۶)

۶۱۳۱- تَبَّتْ عَیْنُی ٓ تُوْجَاهِیْ سَاہِیْ
۶۱۳۲- تَجَلَّیْتُ كَهْلًا، حَلَالًا كَرْنًا
۶۱۳۳- اَسْمٰی ٓ چھٹا کر کہا
۶۱۳۴- اَطَّهَّرَ ٓ ظَاہِرًا کَر دیا
۶۱۳۵- عَرَفَ ٓ بِلَادِیَا
۶۱۳۶- اَعْرَضَ ٓ مَالًا دیا
۶۱۳۷- صَدَعَتْ ٓ مَاتِلًا ہوسے
۶۱۳۸- تَطَهَّرَ ٓ کَارِرًا وائی کروگی
تَمْرٍ وُفُوْا
۶۱۳۹- تَبَّتْ عَیْنُی ٓ تُوْجَاهِیْ سَاہِیْ
۶۱۴۰- سَجَّحَتْ ٓ رُوْزَہ ر کھنے والیاں
۶۱۴۱- تَبَّتْ عَیْنُی ٓ بَیْوٰہ شُوہر دیکھی ہوئی
۶۱۴۲- اَبْکَاہُ ٓ اَکُوْرِیَاہِیْ
۶۱۴۳- غَلَاظٌ ٓ سَخْتٌ دَلٌ
۶۱۴۴- نَضْبُوْحًا ٓ خَالِصٌ مِّیْنِ خَیْرِ فَاہِیْ ہُوِیْ
۶۱۴۵- اِبْنِی ٓ بِنَادَہِیْ تَیَا کر دے
۶۱۴۶- مَرَجٌ ٓ نَامُوسٌ جِہْمٌ

نمبر شمار عربی اُردو

پارہ نمبر الملک سورة (۶۷)

۶۱۴۷- طِبَاطًا ٓ اُوْبِرْتے
۶۱۴۸- تَفُوْتُ ٓ فَرَقٌ ٓ پُوجُک
۶۱۴۹- فُطُوْرٌ ٓ شِکَاْفٌ ٓ خَلَلٌ
۶۱۵۰- کَرَّتٰیْنِ ٓ دُوْبَارَہ
۶۱۵۱- خَاسِیٰتًا ٓ ذٰیِلٌ
۶۱۵۲- حَسِیْرٌ ٓ تَحْلٰی ہوتی
۶۱۵۳- مَرْجُوْمًا ٓ مَارِنًا
۶۱۵۴- شَہِیْقًا ٓ چَیْنًا، دَہَاڑِنَا
۶۱۵۵- تَفُوْرٌ ٓ جُوْشٌ مَارِنِیْ ہِیْ
۶۱۵۶- تَمَیْزٌ ٓ پَھِٹ جَاہے گی
۶۱۵۷- سُوْحَقًا ٓ لَعْنٌ
۶۱۵۸- ذٰلُوْلًا ٓ نِزْمٌ
۶۱۵۹- مَنَآکِبٌ ٓ رَاسْتِیْ
۶۱۶۰- تَمُوْرٌ ٓ تَہْر تَہْر لَہے گی
۶۱۶۱- لَجُوًّا ٓ لَک گئے، اڑ گئے

نمبر شمار عربی اُردو

۶۱۶۲- مُکَبِّا ٓ اُوْنْدَہَا گرا ہوا
۶۱۶۳- اَہْلٰی ٓ زَیَادَہ ہدایت یافتہ
۶۱۶۴- مَرٰثِیٰ ٓ نِزْدِیْک
۶۱۶۵- یَسْتَنْسُ ٓ بَگَر جَاہِیْ گے
۶۱۶۶- یُجِیْرُ ٓ پِنَاہ دے گا
۶۱۶۷- اَصْبَحَ ٓ ہُو گِیَا
۶۱۶۸- غَوْرًا ٓ خَشِک
۶۱۶۹- مَعِیْنٌ ٓ جَارِی

القلم سورة (۶۸)

۶۱۷۰- وَ اَلْقَلَمِ ٓ قِسْمِ ہِیْ قَلَمِ کِی
۶۱۷۱- یَسْطُرُوْنَ ٓ لَکھتے ہِیْ
۶۱۷۲- خَلَقَ عَظِیْمٌ ٓ اَخْلَاقِ کَا اَعْلٰی مَقَامِ
۶۱۷۳- مَفْقُوْنٌ ٓ قَنَدَہِ وَا لَّا، دِلُوَانِہ
۶۱۷۴- دَکْہَنٌ ٓ سُسْتِ ہُوْنَا
۶۱۷۵- حَلَلَانٌ ٓ بَہْتِ قِسْمِ کَہَا نِیُوَالَا
۶۱۷۶- ہَسْبٰہِیْنِ ٓ طَعْنِ دِیْنِہِ وَا لَّا

نمبر شمار عربی اُردو

۶۱۷۷- مَشَآءٌ ٓ چَال چلنے والا
۶۱۷۸- نَسِیْمٌ ٓ چَغَلِی کَہَا نِیُوَالَا
۶۱۷۹- عُنَلٌ ٓ بَدِخُو، اُجْہَدُ
۶۱۸۰- زَنِیْمٌ ٓ بَدِ نَصِیْبِ، بِلَا صِلِ
۶۱۸۱- نَسِیْمٌ ٓ ہِم دَاغ دِیْنِ گے
۶۱۸۲- مَحْرُطُوْمٌ ٓ نَاک، سُوْنَدُ
۶۱۸۳- لَّا یَسْتَنْسُوْنَ ٓ نَہِیْ اِنْشَارِ اللّٰہِ
کَہَا اُنْہُوْنِ لَہے،
نَہِیْ اِسْتِشَارِ
کرتے ہِیْ۔
۶۱۸۴- طَآئِفٌ ٓ پَہْرَنے والا
۶۱۸۵- نَاثِمُوْنَ ٓ سُوْنِے والے
۶۱۸۶- صَرِیْمٌ ٓ جِڑ سے کَہَا ہُوَا
۶۱۸۷- تَنَادُوْا ٓ پِکَا رنے لگے
۶۱۸۸- صَاہِرٌ وِیْنِ کَا طَئِنِے والے
۶۱۸۹- سَحْرٌ د ٓ بَیْخِیْلِ
۶۱۹۰- اَوْسَطٌ ٓ بَیْجِ والا
۶۱۹۱- یَسْلَا ٓ وُفُوْنِ اِلْزَامِ دِیْنِے لگے
۶۱۹۲- یُکْشَفُ ٓ کَہُو دِیَا جَا نِیْگَا
۶۱۹۳- سَاقٌ ٓ سَاقِ کِی بَیْجِ
(پنڈلی)

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۱۹۴. صَاحِبِ الْكُوْتِ بُهْمِي وَالَا	۴۲۰۰. الْحَاقَّةُ حَقٌّ هُوَ الْوَالِي
(پونس علیہ السلام)	۴۲۰۱. طَائِفَةٌ حُدَّسَتْ زِيَادَةً
۴۱۹۵. مَلْطُومٌ غَمٌّ سَمَّ بِهْرَا يُوَا	۴۲۰۲. حُسُومًا جَرَسَتْ كَتَّانِي
۴۱۹۶. تَكَارَكَ پَالِيَا	۴۲۰۳. صَرِيحِي كَرِي هُوَتِي
۴۱۹۷. نُذِيْنٌ ڈَالِيَا كِيَا	۴۲۰۴. مَرَّ اَبِيَّةٌ بَلَنْدَرُ هِي هُوَتِي
۴۱۹۸. عَرَآءُ بِنِ وَرَخْتِ وَالِي	۴۲۰۵. نَبِيٌّ يَادِرُ كَهِي
جگہ چٹیل میدان	
۴۱۹۹. يَزْبُقُونُ پھسلا دیں گے	

الربيع



۴۲۰۰. الْحَاقَّةُ حَقٌّ هُوَ الْوَالِي
۴۲۰۱. طَائِفَةٌ حُدَّسَتْ زِيَادَةً
۴۲۰۲. حُسُومًا جَرَسَتْ كَتَّانِي
۴۲۰۳. صَرِيحِي كَرِي هُوَتِي
۴۲۰۴. مَرَّ اَبِيَّةٌ بَلَنْدَرُ هِي هُوَتِي
۴۲۰۵. نَبِيٌّ يَادِرُ كَهِي

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۳۱. تَوَّوِيْبُهُ جگہ دیا تھا اسکو	۴۲۳۱. تَوَّوِيْبُهُ جگہ دیا تھا اسکو
۴۲۳۲. نَقْلِي شعلے مارتی ہوتی	۴۲۳۲. نَقْلِي شعلے مارتی ہوتی
۴۲۳۳. نَزَّاعَةٌ اُدھیر دینے والی	۴۲۳۳. نَزَّاعَةٌ اُدھیر دینے والی
۴۲۳۴. شَوِيْ مَنْكِي كَهَالُ،	۴۲۳۴. شَوِيْ مَنْكِي كَهَالُ،
کلیجہ۔	
۴۲۳۵. اُدْعَى بِنْدِرُ كَهَالُ،	۴۲۳۵. اُدْعَى بِنْدِرُ كَهَالُ،
روک لیا۔	
۴۲۳۶. هَلُوْعَا جِي كَا كِيَا	۴۲۳۶. هَلُوْعَا جِي كَا كِيَا
۴۲۳۷. جَزُوْعَا گھرانے والا	۴۲۳۷. جَزُوْعَا گھرانے والا
۴۲۳۸. مَنُوْعَا مَنُكِرْنِي وَالَا	۴۲۳۸. مَنُوْعَا مَنُكِرْنِي وَالَا
۴۲۳۹. اِدْ اِيْمُوْنُ قَانَمُ، لگاتار،	۴۲۳۹. اِدْ اِيْمُوْنُ قَانَمُ، لگاتار،
مسلل۔	
۴۲۴۰. عَزِيْبِيْنُ ٹوٹی پر ٹوٹی	۴۲۴۰. عَزِيْبِيْنُ ٹوٹی پر ٹوٹی
۴۲۴۱. مَسْبُوْقِيْنُ عاجز ہونے والے	۴۲۴۱. مَسْبُوْقِيْنُ عاجز ہونے والے
۴۲۴۲. يُوْزِفُضُوْنُ دہ دوڑتے ہیں	۴۲۴۲. يُوْزِفُضُوْنُ دہ دوڑتے ہیں

نمبر شمار عربی	نمبر شمار عربی
۴۲۲۷. ذُرَّ اَعْمَا ہاتھ	۴۲۲۷. ذُرَّ اَعْمَا ہاتھ
۴۲۲۸. اِسْلُكُوْا جگہ دو، گھسیٹو	۴۲۲۸. اِسْلُكُوْا جگہ دو، گھسیٹو
۴۲۲۹. لَا يَحْضُ نَبِيْنِ رَغْبَتِ دَلَاتَا	۴۲۲۹. لَا يَحْضُ نَبِيْنِ رَغْبَتِ دَلَاتَا
۴۲۳۰. عَشِيْلِيْنِ زَنَمُوْنِ كَادْ هُوُوْنِ	۴۲۳۰. عَشِيْلِيْنِ زَنَمُوْنِ كَادْ هُوُوْنِ
بہتی پیپ۔	
۴۲۳۱. كَاهِنٌ فَالِ بِنَانِي وَالَا	۴۲۳۱. كَاهِنٌ فَالِ بِنَانِي وَالَا
۴۲۳۲. نَقُوْلُ بَاتِ لَكَ دِيْنَا	۴۲۳۲. نَقُوْلُ بَاتِ لَكَ دِيْنَا
۴۲۳۳. اِقَاوِيْلُ بَعْضِ بَاتِيْنِ	۴۲۳۳. اِقَاوِيْلُ بَعْضِ بَاتِيْنِ
۴۲۳۴. وَتِيْنِ رُكْبِ وِلِ، ناڑ	۴۲۳۴. وَتِيْنِ رُكْبِ وِلِ، ناڑ
۴۲۳۵. لِحْجَرِيْنِ بِنَانِي وَالَا	۴۲۳۵. لِحْجَرِيْنِ بِنَانِي وَالَا



۴۲۳۶. حُكْمِيْبِيْنِ بِنَانِي
۴۲۳۷. اَلْفُ بِنَانِي
۴۲۳۸. سَنَةٌ سَالِ
۴۲۳۹. عَقْنُ دُھنی ہوتی اُون
۴۲۴۰. فَصِيْلَةٌ كُنِيَّةٌ،
قبیلہ



نمبر شمار عربی اُردو

سورة نوح (۷۱)

۴۲۵۳- اَصُوْرًا ۱ ڈھٹائی بتائی
 اُنھوں نے، ضد کی
 ۴۲۵۴- وَقَار عظمت، بزرگی
 ۴۲۵۵- اَطْوَار طرَح طرح
 ۴۲۵۶- سَاطَا بچھونا، کشادہ
 ۴۲۵۷- قَوْم نوح کے
 ۴۲۵۸- سُوَاعًا پانچ بزرگوں
 ۴۲۵۹- يَغُوْت کے نام جنکی
 ۴۲۶۰- يَغُوْت یہ لوگ پرستش
 ۴۲۶۱- نَمُوًّا کیا کرتے تھے
 ۴۲۶۲- دِيَارًا بسنے والا
 ۴۲۶۳- تَبَارًا ہلاک کر ڈالنا

النصف

نمبر شمار عربی اُردو

سورة الجن (۷۲)

۴۲۶۴- شَطَطًا زیادتی کی بات
 ۴۲۶۵- رَهَقًا بردمانی
 ۴۲۶۶- مُلَبَّسَاتٌ بھری ہوئی
 ۴۲۶۷- حَرَسًا چوکیدار
 ۴۲۶۸- مَقَاعِدًا بیٹھنے کی جگہ
 ۴۲۶۹- رَصَدًا تیار،
 گھات میں لگا ہوا
 ۴۲۷۰- قَدَدًا الگ الگ، مختلف
 ۴۲۷۱- هَرَبًا بھاگ کر
 ۴۲۷۲- بَحْسًا کمی، حق تلفی
 ۴۲۷۳- قَسِطُونَ بدراہ لوگ،
 حق سے پھرے ہوئے
 ۴۲۷۴- تَحَرَّوْا قصد کیا،
 راستہ ڈھونڈنا
 ۴۲۷۵- حَطَبًا ایندھن
 ۴۲۷۶- عَدَقًا وافر، چھلکتا ہوا
 ۴۲۷۷- صَعَدًا سخت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۷۸- بَدَأَ بھیڑ لگا کر
 ۴۲۷۹- لَنْ يَجِيْرَ نہیں پناہ دے
 سکے گا۔
 ۴۲۸۰- اَقْلَ بہت تھوڑے
 ۴۲۸۱- رَصَدًا سامانِ حفاظت،
 نگہبان۔

سورة المزمل (۷۳)

۴۲۸۲- مَرْمِلًا کپڑا پیسنے والا
 ۴۲۸۳- نَائِشَةً اُٹھنارات کو،
 نیند توڑ کر
 ۴۲۸۴- وَطَنًا روندنا، پُچلنا
 (دُفْنًا) (دفن کا)
 ۴۲۸۵- اَقْوَمَ قِيْلًا بہت سیدھی بات
 ۴۲۸۶- سَبْحًا کام، مشغلہ، مصروفیت
 ۴۲۸۷- تَبَيَّنًا کٹ کر آجانا،
 منقطع ہو کر آنا
 ۴۲۸۸- مَهْلًا مہلت دے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۸۹- اَنْكَالًا بیڑیاں
 ۴۲۹۰- اَعْصَةَ گل میں پھنس جانے
 والا۔
 ۴۲۹۱- كَيْفًا مَهِيْلًا بکھری ہوئی ریت
 ۴۲۹۲- وَبَيْلًا بھاری
 ۴۲۹۳- بَشِيْرًا بوڑھے
 ۴۲۹۴- مَنَقُطْرًا پھٹ جانے والا
 ۴۲۹۵- ثَلْثِي دوتہائی
 ۴۲۹۶- يَضْرِبُونَ چلتے ہیں
 فِي الْاَرْضِ زَبِيْنًا

سورة المدثر (۷۴)

۴۲۹۷- مُدْثِرًا کپڑا اوڑھنے والا
 ۴۲۹۸- قَمْرًا کھڑا ہوجا
 ۴۲۹۹- اَنْذَسَ ڈرنا
 ۴۳۰۰- كَبْتَرًا بڑائی بیان کر
 گندگی
 ۴۳۰۱- رَجُزًا چھوڑ دے، دُور ہوجا
 ۴۳۰۲- اَنْجُرًا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۲. نُقِرَ پھونکا جاسے گا،

آواز دی جاتے گی

۴۳۴. نَأْتُونَ صور، نرسنگہ - سحر

آراستہ کرنا

۴۳۵. تَهَيُّوْا چڑھاؤں کا میں

دوزخ کا پہاڑ،

بڑی اونچی چڑھائی

۴۳۸. عَبَسَ تیوری چڑھائی

منہ بنانا

۴۳۹. لَبَسَ نقل کیا جاتا ہے،

ہونا آ رہا ہے

۴۳۱۱. لَوَّاحَةٌ مجلس دینے والی

۴۳۱۲. تَشَعَّرَ عَشْرَ اَنْبِیْءٍ روشن ہونی

۴۳۱۴. زَهِيْنَةٌ گرفتار، بندھا ہوا

۴۳۱۵. نَحُوْصٌ ہم بحث کرتے ہیں

۴۳۱۶. خَائِضِيْنَ بحث کرنے والے

۴۳۱۷. حُمُرٌ گدھے (جمع)

۴۳۱۸. مُسْتَنْقِذَةٌ بڑکے ہوتے جنگلی

۴۳۱۹. فَرَّتْ فرار ہوتے،

بھاگ گئے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۲۰. فَسُوْرَةٌ شیر

۴۳۲۱. اَهْلُ التَّقْوَى ڈرنے کے لائق،

جس کا ڈر رکھنا

چاہتے۔

۴۳۲۲. اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ مغفرت کرنے والا

الثلثة

الْقِيَمَةُ
(۷۵)

۴۳۲۳. لَوَّامَةٌ ملامت کرنے والی

۴۳۲۴. بَرَقَ پتھر جائیں گی،

چندھیا جائیں گی

۴۳۲۵. خَبِيفٌ بے نور ہو جائے گا

۴۳۲۶. مَفَرٌّ جگہ فرار ہونے کی

۴۳۲۷. لَكَوْزٌ نہیں جگہ پناہ کی

۴۳۲۸. مَعَاذِيْرٌ چیلے، بہانے، عُذْر

۴۳۲۹. نَاضِيَةٌ بارونق،

تازگی والے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۲۰. بَابِيسَةٌ خشک، سوکھا،

بے رونق۔

۴۳۳۱. فَاقِرَةٌ کم توڑ دینے والا معاملہ

۴۳۳۲. تَرَاقِيٌّ ہنسلی، جہاں جان

اٹکتی ہے۔

۴۳۳۳. سَرَّاقٌ جھاڑ پھونک

کرنے والا۔

۴۳۳۴. اِلْتَفَتٌ پلٹ جاتے گی

۴۳۳۵. سَاقٌ پنڈلی

۴۳۳۶. مَسَاقٌ چلنا

۴۳۳۷. يَمَهَطِيٌّ اکرٹاتا ہوا

۴۳۳۸. اَوْدِيٌّ بڑی خرابی

۴۳۳۹. سُدَىٌّ بے کار

۴۳۴۰. يُمْنِيٌّ پڑکائی جاتی ہے۔

نمبر شمار عربی اُردو

الدَّهْرُ (۷۶)
سورة

۴۳۴۱. ذَهْرٌ زمانہ

۴۳۴۲. مَدُّ كُوْرًا قابل ذکر

۴۳۴۳. اَمْتَسَاجٌ مالا

۴۳۴۴. سَلْسِلٌ زنجیریں

۴۳۴۵. اَغْلَالٌ طوق

۴۳۴۶. مِرَاجٌ ملونی

۴۳۴۷. مُسْتَطِيْرًا پھیل جانے والا،

عام۔

۴۳۴۸. اَسِيْرًا قیدی

۴۳۴۹. عَبُوْسًا اُداسی

۴۳۵۰. فَطْرِيْرًا سخت مضمیٰ بنیٰ

۴۳۵۱. سُرُوْرًا خوش، سرور

۴۳۵۲. شَمْسًا دھوپ

۴۳۵۳. مَهْرِيْرًا جاڑا

۴۳۵۴. دَانِيَةٌ ٹھکے ہوئے، قریب

۴۳۵۵. قَطُوْفٌ میووں کے کچھے

خوشے۔

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۳۵۴۔ تَدْلِيلًا اختیاریں
 نزدیک
 ۴۳۵۷۔ اِنْبِيَا۟ہِ بَرْنَ
 ۴۳۵۸۔ قَوَّارِیْرًا شیشے
 ۴۳۵۹۔ تَقْدِیْرًا اندازہ
 ۴۳۶۰۔ رَحْمٰتًا سوتھ
 ۴۳۶۱۔ سَلٰتًا جنت کے ایک
 رُواں دواں چشمے
 کا نام۔
 ۴۳۶۲۔ مَنُورًا بکھرے ہوئے
 ۴۳۶۳۔ اَسْرًا جوڑ، بند

المُرْسَلَات (۷۷)

۴۳۶۴۔ مُرْسَلَات بھیجی جانے والی
 ہوائیں۔
 ۴۳۶۵۔ عُرْفًا نری سے،
 نفع پہنچانے کیلئے
 ۴۳۶۶۔ عَصْفًا زور سے

نمبر شمار عربی اردو
 ۴۳۸۲۔ شَرْرًا چنگاریاں
 ۴۳۸۳۔ جَهْلًا اونٹوں کی قطاریں
 ۴۳۸۴۔ صُفْرًا زرد، پیلے رنگ
 کے۔
 ۴۳۸۵۔ عَمَّ کس چیز کی؟
 ۴۳۸۶۔ نَوْمًا نیند
 ۴۳۸۷۔ سُبَاتًا آرام کا سبب
 ۴۳۸۸۔ لِبَاسًا پردہ
 ۴۳۸۹۔ وَهَاجًا روشن
 ۴۳۹۰۔ مَعْصِرَات رَس بھری ہوئی
 بدلیاں
 ۴۳۹۱۔ تَجَاجًا بکنزت
 ۴۳۹۲۔ اَلْقَانًا گنجان، گھنے
 ۴۳۹۳۔ سَرَابًا ریت
 ۴۳۹۴۔ مِرْصَادًا گھات
 ۴۳۹۵۔ مَابًا ٹھکانہ
 ۴۳۹۶۔ لَبْنِیْنًا رہنے والے
 ۴۳۹۷۔ اَحْقَابًا بے انتہا، بے مدت
 لمبا وقت، لگاتار
 ۴۳۹۸۔ غَسَاقًا پیپ بہتی ہوئی
 ۴۳۹۹۔ وَفَاقًا موافق، پوری
 ۴۴۰۰۔ حَدَّ اَبْعُ بَاغ (دواحد: حد یَقْتَرُ)
 ۴۴۰۱۔ وَهَاقًا بھرے ہوئے
 چھلکتے ہوئے
 ۴۴۰۲۔ صَوَابًا ٹھیک، مناسب
 ۴۴۰۳۔ نَزْعًا زور سے کھینچنے
 والے۔
 ۴۴۰۴۔ غُرُقًا ڈوب کر،
 غوطہ لگا کر
 ۴۴۰۵۔ نَسَطًا بند کھول دینا
 ۴۴۰۶۔ سَبْحًا تیرنا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۰۷. سَبَقًا آگے
 ۴۲۰۸. رَاجِفَةً کا پنے والی، غافل
 ۴۲۰۹. تَتَّبِعُ پیچھے آئے کی
 ۴۲۱۰. رَادِفَةً پیچھے لگی ہوئی
 ۴۲۱۱. وَاجِفَةً دھڑکتے ہوئے۔
 ۴۲۱۲. مَرْدُودُونَ پھیرے جانے والے
 ۴۲۱۳. حَازِرَةً پہلی حالت،
 اٹنے پاؤں
 ۴۲۱۴. نَجْوَةً گلی ہوئی، بوسیدہ
 کھوکھلی۔
 ۴۲۱۵. سَاهِرَةً میدان
 ۴۲۱۶. سَهْكَ موٹایا، بلندی
 ۴۲۱۷. اَعْطَشَ ڈھانک دیا
 ۴۲۱۸. صُحِيٌّ صبح،
 دھوپ ظاہر ہونا،
 دن کا ابتدائی پرٹھاؤ
 ۴۲۱۹. حَرْهًا بچھا دیا اس کو
 ۴۲۲۰. مَرَعَى چراگاہ، چارہ
 ۴۲۲۱. اَرْسَى گاڑ دیا
 ۴۲۲۲. طَامَةً آفت

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۲۳. فِيمَا نَسْتُ كَمَا تَلَقَّ بِهٖ تَجِّ
 تو کس بات میں
 ۴۲۲۴. عَشِيَّةً ایک شام
 ۴۲۲۵. صُحْرَهَا اس کی صبح

عَلِيس (۸۰)

۴۲۲۶. تَصَدَّى تُو فِكر کرتا ہے
 ۴۲۲۷. تَلَهَّى تُو غفلت کرتا ہے
 ۴۲۲۸. اَيَّدَى سَفَرَةٌ ہاتھ سے لکھنے والے
 ۴۲۲۹. كِرَاهٍ بزرگ،
 عظمت والے
 ۴۲۳۰. بَرَزَةٌ نیکوکار
 ۴۲۳۱. قَتَلَ مارا گیا،
 قتل کیا گیا
 ۴۲۳۲. مَا اَكْفَرُ كَيْسَانَا شَكْرِي كَرْتَا
 ہے وہ، کیوں
 ناشکری کرتا ہے
 ۴۲۳۳. اَقْبَرُ گاڑ دیا

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۳۴. لَمَّا لَقِضَ نَهَيْسُ پورا کیا
 ۴۲۳۵. صَيًّا ذُلًّا
 ۴۲۳۶. شَقًّا پھاڑنا
 ۴۲۳۷. قَضِبًا تزکاری
 ۴۲۳۸. غَلْبًا گھنے، گنجان
 ۴۲۳۹. اُتًّا گھاس
 ۴۲۴۰. صَاحَّةً کان پھوڑنے والی
 ۴۲۴۱. صَاحِكَةً ہنستے ہوئے
 ۴۲۴۲. مُسْتَبْرَئَةً خنداں، شاداں

التكوير (۸۱)

۴۲۴۳. كُوْرَتٍ پست لیا جائے گا
 ۴۲۴۴. اُنْكَرَتٍ جھڑپیں گے
 ۴۲۴۵. عَشَارٍ دس ماہ کی حاملہ
 اوتھنی
 ۴۲۴۶. عَطَلَتْ چھٹی پھریں گی
 ۴۲۴۷. سُجِرَتْ بھڑکا دیا جائے گا
 ۴۲۴۸. مَرُّ وَجَتْ جوڑے ملائے جائیں گے

نمبر شمار عربی اُردو

۴۲۴۹. مَوْدِدَةٌ زندہ گاڑی ہوئی
 ۴۲۵۰. كَشَطَتْ کھال اُتر دیا جائیگی
 ۴۲۵۱. حُتْسٌ چُھب جانے والے
 ٹھٹھک کر
 ۴۲۵۲. اَلْحَوَاِیْرُ چلنے والے
 ۴۲۵۳. كُنْسٌ تھمر رہنے والے
 ۴۲۵۴. عَسَسَ جالنے لگے
 ۴۲۵۵. تَنَفَسَ دم لیا، سانس لیا
 ۴۲۵۶. مَكِينٌ مرتبہ والا
 ۴۲۵۷. مَطَاعٌ کہا مانا جاتا ہے
 ۴۲۵۸. تَشَمَّ دہاں
 ۴۲۵۹. بَصْنَيْنٌ بچیل، لوبھی؟

الانفطار (۸۲)

۴۲۶۰. اِنْتَثَرَتْ جھڑپیں گے
 ۴۲۶۱. فَجِرَتْ بہہ پڑیں گے
 ۴۲۶۲. بَعَثَتْ اُکھاڑ دی جائیں گی
 الرَّبِيعِ

نمبر شمار عربی اُردو

التطيف (۸۳) سورة

۴۳۴۳. مُطَفِّفِينَ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔

۴۳۴۴. اُنْكَالُوا ناپ کر لیا انھوں نے

۴۳۴۵. يَسْتَوْفُونَ پورا لیتے ہیں

۴۳۴۶. كَالْوَا ناپ کر دیا انھوں نے

۴۳۴۷. يَحْسِرُونَ کم کرتے ہیں،

نقصان کرتے ہیں

۴۳۴۸. مَرْقُومٌ درج کیا ہوا

۴۳۴۹. زَنْكٌ لُكٌ گیا ہے

۴۳۵۰. مَحْجُورُونَ روک دینے جاتیں گے

۴۳۵۱. خَالِصٌ شَرَابٌ خالص شراب

۴۳۵۲. مَحْلُومٌ مہر لگی ہوئی

۴۳۵۳. مَخْتَمٌ مہر

۴۳۵۴. مُشَكٌ مُشک

۴۳۵۵. مُتَنَا فَسْوَنٌ رغبت کرنے والے

۴۳۵۶. تَسْتَدِيرُ جنت کے ایک چہنچہ کا نام

نمبر شمار عربی اُردو

۴۳۷۷. يَتَعَاْمَرُونَ آنکھیں مشکاتے

ہیں۔

۴۳۷۸. فَكَاهِنٌ بائیں بناتے ہیں،

دل لگی کرتے ہیں

۴۳۷۹. هَلْ خُوب دیکھا

۴۳۸۰. تَوَيْبٌ بدل مل گیا

الانشقاق (۸۴) سورة

۴۳۸۱. اُنشَقَّتْ پھٹ جائے گا

۴۳۸۲. اَذْيَبَتْ دھکم پٹے گا

۴۳۸۳. حَقَّتْ لائق ہے

۴۳۸۴. مُدَاتٌ کھینچ لی جائے گی

۴۳۸۵. تَمَلَّتْ خالی ہو جائے گی

۴۳۸۶. كَادِحٌ محنت کرنے والا

۴۳۸۷. كَدْحًا محنت کرنا،

کوشش کرنا

۴۳۸۸. نَجٌّ يَحْوَرُ نہیں پھرے گا

۴۳۸۹. شَفَقٌ کنارہ آسمان کی وہ

نمبر شمار عربی اُردو

سُرْحَى جو غروب

آفتاب کے بعد

ہوتی ہے۔

۴۳۹۰. وَسَقٌ اکتھا کیا، سیٹ لیا

۴۳۹۱. اَسَقٌ پورا ہوا

۴۳۹۲. يُوْعُونَ وہ چھپا کر دل میں

رکھتے ہیں۔

(مصدر: اِلْعَاءُ)

البروج (۸۵) سورة

۴۳۹۳. اُنْحَدُودُ خندق

۴۳۹۴. قَعُودٌ آس پاس بیٹھے

تھے۔

۴۳۹۵. وُدُودٌ چاہنے والا

نمبر شمار عربی اُردو

الطارق (۸۶) سورة

۴۳۹۶. طَارِقٌ رات کو آنی والا،

ستارہ

۴۳۹۷. اِدْرَاقٌ اُچھلتا ہوا

۴۳۹۸. صُلْبٌ مرد کے پیٹھ کی ہڈی

۴۳۹۹. تَرَائِبٌ سینے کی ہڈی

۴۴۰۰. تُبَلِيٌّ آزمانی جائے گی،

جارج کی جائے گی

۴۴۰۱. سَكْرَانٌ بھید کی باتیں

۴۴۰۲. ذَاتِ الرَّجْعِ بارش برسانے والا،

یا چکر مارنے والا

۴۴۰۳. ذَاتِ الصُّدُءِ پھٹ جائی والا

۴۴۰۴. هَزَلٌ بے فائدہ

۴۴۰۵. رُكْبَانٌ تھوڑا

نمبر شمار عربی اردو

الاعلیٰ (۸۷)

- ۴۵۰۶- موعی چارہ
 ۴۵۰۷- مَعْنَاءُ سوکھی گھاس
 ۴۵۰۸- اَحْوَى سیاہ مائل
 ۴۵۰۹- يَتَجَنَّبُ ایک طرف رہے گا،
 الگ رہے گا،
 اجتناب کرے گا
 ۴۵۱۰- اشْقَى بڑا بد بخت
 (اسم تفضیل)
 ۴۵۱۱- يَضَلُّ داخل ہوگا

الغاشیہ (۸۸)

- ۴۵۱۲- غَاشِيَةً چھاجانے والی
 ۴۵۱۳- نَاصِبَةٌ مصیبت جھیلنے
 والے

نمبر شمار عربی اردو

- ۴۵۱۴- اَزِيَّة کھولتا ہوا
 ۴۵۱۵- صَرِيحٌ جھاڑ، جھنکار
 کانٹے دار
 ۴۵۱۶- لَا يُسْمِنُ نہیں فریر کریگا،
 جسم کو طاقت نہ
 ملے گی۔
 ۴۵۱۷- مَوْضُوعَةٌ رکھے ہوئے،
 موجود
 ۴۵۱۸- تَمَارِقٌ غالیجے
 ۴۵۱۹- مَصْفُوفَةٌ لائن سے لگے ہوئے
 ۴۵۲۰- نَزَائِقِيٌّ مسندیں،
 نفیس پھونے
 ۴۵۲۱- مَبْلُوثَةٌ پھیلے ہوئے،
 بچھاتے ہوئے
 ۴۵۲۲- نُصِبَتْ کھڑے کئے گئے
 ۴۵۲۳- سَطِطِحَتْ بچھانی گئی
 ۴۵۲۴- مَصِيظٌ داروغہ
 ۴۵۲۵- اِيَابٌ آنا، ٹوٹنا

النصف

نمبر شمار عربی اردو

الفجر (۸۹)

- ۴۵۲۶- شَفَعٌ جُفَّتْ، جوڑا،
 مثلاً ۴، ۲، ۴، ۲ وغیرہ
 ۴۵۲۷- وَفَّرَ تنہا، طاق، جو برابر
 تقسیم نہ ہوں
 مثلاً ۱، ۵، ۳، ۷، ۹
 وغیرہ۔

- ۴۵۲۸- ذِي حِجْرٍ صاحب عقل
 ۴۵۲۹- اِرْمٌ ایک قوم کا نام
 ۴۵۳۰- ذَاتُ الْعَادِ ستنوں والے
 ۴۵۳۱- جَابِلٌ تراشا انھوں نے
 ۴۵۳۲- صَبٌّ ڈال دیا
 ۴۵۳۳- سَوَّطٌ کوڑا
 ۴۵۳۴- لَا تَخَاضُونَ نہیں اُبھارا تم نے
 رغبت نہیں دلانی
 ۴۵۳۵- تَوَارِثٌ میراث کا مال
 ۴۵۳۶- اَكْلًا لَبَنًا کھانا جم کر
 سمیٹ کر کھانا

نمبر شمار عربی اردو

- ۴۵۳۷- حُبًّا جَمًّا محبت کرنا جم کر،
 خوب محبت کرنا
 ۴۵۳۸- حَاسِمِيٌّ لایا جائے گا
 ۴۵۳۹- وَثَاقٌ قید کرنا،
 باندھنا
 ۴۵۴۰- مُطْمَئِنَّةٌ اطمینان والی

البلد (۹۰)

- ۴۵۴۱- حَلٌّ جو احرام سے نکل آیا
 داخل ہونے والا
 اترنے والا
 ۴۵۴۲- كَبِيدٌ مشقت میں ڈالا ہوا
 ۴۵۴۳- لَبِيدٌ خوب
 ۴۵۴۴- شَفَتَيْنِ دو ہونٹ
 ۴۵۴۵- نَجْدَيْنِ دو راہیں
 ۴۵۴۶- لَا اَقْتَمَمَ نہیں گذرا،
 نہیں بیٹھا
 ۴۵۴۷- عَقَبَتْ کھائی

نمبر شمار عربی اُردو

۴۵۴۸۔ فُلُكٌ مُّجُطٌّ دینا
 ۴۵۴۹۔ ذِي سَعْبَةِ بھوکا، فاقہ والا
 ۴۵۵۰۔ ذَاهِقٌ قِراہت دار
 ۴۵۵۱۔ ذَاهِقٌ غَاک آلود
 ۴۵۵۲۔ مُؤَصِّلَةٌ بند کی ہوئی،
 موندی ہوئی

سورۃ الشمس (۹۱)

۴۵۵۳۔ تَلَقَّا پیچھے ہوا اس کے
 ۴۵۵۴۔ جَلِيًّا روشن کیا
 ۴۵۵۵۔ طَحِيًّا پیچھا دیا
 ۴۵۵۶۔ سَمِيًّا گاڑ دیا
 ۴۵۵۷۔ سَقِيًّا پانی پلانا اور اسکی
 باری
 ۴۵۵۸۔ دَمْدَمٌ بلاکت ڈالی
 ۴۵۵۹۔ عَقْبِيًّا پیچھاڑی کرنا،
 پیچھا کرنا

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الليل (۹۲)

۴۵۶۰۔ شَتَّىٰ مختلف،
 الگ الگ
 ۴۵۶۱۔ عُسْرِيًّا تنگی
 ۴۵۶۲۔ تَرَدُّيًّا برباد ہوگا،
 گڑھے میں گرے گا
 ۴۵۶۳۔ تَلَكُّيًّا شعلہ مارتی ہوئی
 ۴۵۶۴۔ اَشْقَىٰ بڑا بد بخت
 ۴۵۶۵۔ اَشْقَىٰ خوب پرہیزگار،
 اللہ سے بہت زیادہ
 ڈرنے والا۔

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الضحیٰ (۹۳)

۴۵۶۶۔ ضَحِيًّا دن کا چڑھنا،
 دھوپ روشن
 ہو جانا۔
 ۴۵۶۷۔ سَبِيحًا قرار پلڑے،
 چھا جاتے
 ۴۵۶۸۔ مَا دَدَعَ نہیں چھوڑا
 ۴۵۶۹۔ مَا قَلَىٰ نہیں ناتوش رہا
 ۴۵۷۰۔ عَائِلًا نادار،
 تنگ دست
 ۴۵۷۱۔ لَا تَقْهَرُ مت سختی کر
 ۴۵۷۲۔ لَا تَنْهَرُ مت جھڑک
 ۴۵۷۳۔ حَادِثًا بیان کر

نمبر شمار عربی اُردو

سورۃ الشرح (۹۴)

۴۵۷۴۔ وَضَعْنَا اتار دیا ہم نے
 ۴۵۷۵۔ اَلْقَضُ تُوڑ دیا
 ۴۵۷۶۔ ظَهَرَكَ پیٹھ تیری
 ۴۵۷۷۔ اَلضَّبُّ محنت کر
 ۴۵۷۸۔ اَلرَّغَبُ رغبت کر

سورۃ التين (۹۵)

۴۵۷۹۔ تَيْنًا انجیر
 ۴۵۸۰۔ تَقْوِيًّا ترکیب،
 سانچہ
 ۴۵۸۱۔ اَسْفَلَ بہت نیچے
 ۴۵۸۲۔ سَاقِلَيْنِ سب سے نیچے

نمبر شمار عربی اُردو

العَلَقُ (۹۶) سُوْرَةُ

۴۵۸۳۔ عَلَوُجُ جہا ہوا خون
۴۵۸۴۔ اَكْرَمُ بڑا کرم والا
۴۵۸۵۔ رَجْوِي لوثنا،
پلٹنا،
پھر کر جانا
۴۵۸۶۔ نَسْفَعًا ہم ضرور
کھسیٹیں گے۔
۴۵۸۷۔ نَاصِيَةً پیشانی
۴۵۸۸۔ نَادِي ہم مجلس
۴۵۸۹۔ رَنَ بَانِيَةً ڈھیلنے والے
فرشتے، رکیدنے
والے۔

نمبر شمار عربی اُردو

الْقَدْرُ (۹۷) سُوْرَةُ

۴۵۹۰۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ شبِ قدر
مرتبه اندازہ والی
رات

الثلثة

الْبَيِّنَةُ (۹۸) سُوْرَةُ

۴۵۹۱۔ مُنْقَلِبِينَ باز آئیوں والے
۴۵۹۲۔ قَيِّمَةً مضبوط،
دُورست

۴۵۹۳۔ سُرَّ الْبَرِيَّةِ بدترین مخلوق
۴۵۹۴۔ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بہترین مخلوق

نمبر شمار عربی اُردو

الزَّلْزَلُ (۹۹) سُوْرَةُ

۴۵۹۵۔ زَلْزَلٌ زلزلہ،
بھونچال
۴۵۹۶۔ مَا لَهَا کیا ہوا اُس کو
(زمین کو)
۴۵۹۷۔ تُخَوِّتُ بیان کرے گی
۴۵۹۸۔ يَصُدُّ نکلنے لگے گا
۴۵۹۹۔ اَشْتَاتًا متفرق،
الگ الگ

نمبر شمار عربی اُردو

الْعَدِيَّةُ (۱۰۰) سُوْرَةُ

۴۶۰۰۔ عَدِيَّةٌ دوڑنے والے
گھوڑے۔
۴۶۰۱۔ صَبِيحًا پانپ کر
۴۶۰۲۔ مَوْرِيَّةً اُگ بھاڑنیوں والے
۴۶۰۳۔ قَدْحًا ٹاپ مارنا
۴۶۰۴۔ مُغِيْرَاتٍ غارت گری
کرنے والے
۴۶۰۵۔ اُرْتَوَيْنَ اُڑاتے ہیں
۴۶۰۶۔ نَقَعًا گردوغبار
۴۶۰۷۔ وَسَطْنَ بیچ میں گھس جاتی
ہے۔
۴۶۰۸۔ كِتُوْدٌ ناشکر
۴۶۰۹۔ يُعْتَرُ نکال لیا جائے گا
۴۶۱۰۔ حَصَلٌ حاصل کر لیا جائیگا

نمبر شمار عربی اُردو

القارعة (۱۰۱)

سورة

۴۴۱۱- القارعة کھڑکھڑاہٹ
۴۴۱۲- قرآش پتکے، پروانے
۴۴۱۳- مینٹوٹ پرانگندہ
۴۴۱۴- منقوش ڈھنٹا ہوا
۴۴۱۵- اُمّہ ٹھکانا اُس کا
(اُمّہ اصل معنی ماں)

التكاثر (۱۰۲)

سورة

۴۴۱۷- اُلْهُی غافل کر دیا
۴۴۱۸- تکاثر کثرت
۴۴۱۹- رُزْتَم دیکھ لیا تم نے
۴۴۲۰- مَقَابِر قبریں

نمبر شمار عربی اُردو

العصر (۱۰۳)

سورة

۴۴۲۱- وَ قسم
(واؤ قسمی ہے)
۴۴۲۲- عَصَى زمانہ، وقت،
ڈھلتا ہوا دن
۴۴۲۳- تَوَاصَوْ وصیت کی

الهمزة (۱۰۴)

سورة

۴۴۲۴- هَمَزَة عیب لگانے والا
۴۴۲۵- لُحْمَزَة طعنہ دینے والا
۴۴۲۶- اَحْلَد ہمیشہ رہے گا
۴۴۲۷- يُمَبِّئُكَ ڈال دیا جائے گا
۴۴۲۸- حَطَمَة روند ڈالنے والی
آگ
۴۴۲۹- مَوْجِدَة سلگانی ہوتی

نمبر شمار عربی اُردو

۴۴۳۰- تَطْلُع خبر لے ڈالے گی
۴۴۳۱- اَفْسِدَة دل
(واحد: فَوْاد)

۴۴۳۲- مُمَدِّدَة لے لے لے

الفيل (۱۰۵)

سورة

۴۴۳۳- اَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والے
۴۴۳۴- الْفِيلِ ہاتھی
۴۴۳۵- تَضَلَّلَ سراپا غلط
۴۴۳۶- اَبَابِيلِ جھنڈکے جھنڈ
پرندوں کے
۴۴۳۷- عَصْف بھوسا
۴۴۳۸- مَا كُوْل كھایا ہوا

نمبر شمار عربی اُردو

قریش (۱۰۶)

سورة

۴۴۳۹- اِيلَاف اُلفت دلانا
۴۴۴۰- رِحْلَة سفر
۴۴۴۱- شِئَاء جاڑا
۴۴۴۲- صَيْف گرمی

الماعون (۱۰۷)

سورة

۴۴۴۳- يَدُع دھکے دیتا ہے
۴۴۴۴- سَاهُونَ غفلت برتنے
والے
۴۴۴۵- مَاعُون تھوڑی سی چیز،
روزانہ استعمال
کی چھوٹی اشیاء

نمبر شمار عربی اُردو

الکوثر (۱۰۸)

سورة

۴۴۳۴. اَلْكَوْثُرُ كَثْرَتٌ
 ۴۴۳۷. اِنْحَرْ قِرْبَانِي كِر
 ۴۴۳۸. شَانِئَكَ تِيْرَا شَمْنِ
 ۴۴۳۹. اَبْتَرُ بے نام و نشان

الکافرون (۱۰۹)

سورة

۴۴۵۰. لَا اَعْبُدُ نَہیں میں عبادت کرتا ہوں۔
 ۴۴۵۱. مَا تَعْبُدُوْنَ جِسکی تم عبادت کرتے ہو۔
 ۴۴۵۲. مَا اَعْبُدُ جِسکی میں عبادت کرتا ہوں۔
 ۴۴۵۳. مَا عِبَدْتُمْ جِسکی تم عبادت کرتے ہو۔
 ۴۴۵۴. عَابِدُوا عبادت کرنے والا

نمبر شمار عربی اُردو

النصر (۱۱۰)

سورة

۴۴۵۵. اَنْفُوْاجًا فَوْجِ دَرَفُوْجِ
 ۴۴۵۶. اَسْتَغْفِرُ مَغْفِرَتِ كِي دَرُوْجِ كِر۔

الہب (۱۱۱)

سورة

۴۴۵۷. تَبَّتْ لُٹ گئے،
 ۴۴۵۸. تَبَّتْ بِلَاک ہو گئے
 ۴۴۵۹. مَا اَعْطٰی نَہیں کام آیا
 ۴۴۶۰. ذَاتِ لَهَبٍ شَعْلہ مارتی ہوئی
 ۴۴۶۱. حَمَالَةَ اُٹھا بیوالی
 ۴۴۶۲. حَطَبٍ ایں دھن، لکڑیاں
 ۴۴۶۳. جِدِيں گردن
 ۴۴۶۴. مَسَدٍ خُوب ثبی ہوئی

نمبر شمار عربی اُردو

الاحقاف (۱۱۲)

سورة

۴۴۶۵. اِحْدًا اکیلا
 ۴۴۶۶. الصَّيْدُ بے احتیاج، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اُس کی ضرورت ہو
 ۴۴۶۷. نَمَّيْلِدُ نَہیں جتا کسی کو
 ۴۴۶۸. لَمَّ يُولَدُ نَہیں جتا گیا
 ۴۴۶۹. كُفُوًا برابری کا

الفلق (۱۱۳)

سورة

۴۴۷۰. اَعُوْذُ پناہ پڑھتا ہوں
 ۴۴۷۱. فَلَقٍ صَیْحُ رات کی تاریکی کو چیرنے والی صبح۔

نمبر شمار عربی اُردو

۴۴۷۲. غَاسِقٍ اَنزہیرا کر نیوالی
 ۴۴۷۳. وَقَبٍ چھا جائے
 ۴۴۷۴. نَفْثَتِ پھونکنے والیاں
 ۴۴۷۵. عُقَدٌ گنڈے، گانٹھیں

الناس (۱۱۴)

سورة

۴۴۷۶. مَلِكٍ بادشاہ
 ۴۴۷۷. مَلُوْكٍ (جمع: مُلُوْكٍ)
 ۴۴۷۸. اَلْحَنَانِ پچھنے والا
 ۴۴۷۹. اَلْمُنْتَهِنِ پچھ پھٹنے والا
 ۴۴۸۰. اَلْيُسُوْسِ دوسرہ ڈالتا ہے

